



- MIFTÁHUL QŪRÁN -

PART II.

A Complete Glossary of the Qūrán

BY

Rev. Ahmad Shah.

PRINTED FOR THE AUTHOR

BY

E. J. LAZARUS & CO.,

at the Medical Hall Press,

BENARÉS.

—:0:—

1906.

(All Rights Reserved.)

PRICE RS. 8, POSTAGE & C., EXTRA.



اثار (اثر) Traces, monuments of antiquity. نشانیاں-زمانہ قدیم کی یادگاریں
 Is being imitated or followed. نقل کیا جاتا ہے
 Chosen, preferred. اختیار کیا
 A relic. جو باقی رہ گیا
 They excited or raised. انہوں نے اٹھایا
 They have stirred up, or excited or ploughed or broke up the earth. انہوں نے اُٹھاروا یا آمادہ کیا
 Excites or raises or stirs up (as dust). اُٹھاتی ہے یا اُٹھارتی ہے یا اُڑاتی ہے
 Adam. آدم
 Name of Abraham's father. ابراہیم کے باپ کا نام
 Back, loins. پیٹھہ-کمر
 They have provoked us to wrath. انہوں نے ہم کو غصہ دلایا
 Sorrow or grief. افسوس
 Has grieved. اُس نے افسوس کیا
 بدبو-بے مزہ (اسن) Corrupt, putrid. اسن
 The evening. شام کا وقت (اصل) اصل
 The evening. شام اصیل
 Root, the lowest part, bottom. نیچے کا حصہ-جر
 Roots, principles. جڑیں-طریق اصول
 The farthest point of the horizon. حد نگاہ (افق) افق
 The horizon or its highest point. آسمان یا اُسکی انتہا
 Descendants. اولاد (آل) آل
 Benefits, mercies. نعمتیں-احسان (آلاء) آلاء
 Time. وقت (انی) ان
 Time has not yet come. ابھی وقت نہیں آیا
 Hot water. آب گرم
 Time, hours. گھنٹیاں-وقت آباء

Vessel, utensil. برتن
 Vessels. برتنوں
 He perceived. اُس نے دھیان کیا (انس) انس
 Ye have perceived. تم نے دھیان کیا
 I have perceived. میں نے دھیان کیا
 Man, mankind, human being. انسان-آدمی
 Men. آدمیوں
 ابھی-اسی وقت (انف) انف
 Nose. ناک
 He has given a shelter. اُس نے پناہ یا جگہ دی
 I will take shelter or refuge. میں پناہ لوں گا
 Thou art giving a shelter or a place of refuge. تو جگہ دیتا ہے
 We have given a shelter. ہم نے پناہ یا جگہ دی
 Sign, verse. نشانی-آیت (آیة) آیت
 Two signs or verses. دو آیتیں
 Signs. آیتیں
 A father. باپ (اب) اب
 Parents. ما باپ
 Fathers, ancestors. بزرگان-باپ دادے
 My father. میرا باپ
 He disliked, refused. اُس نے انکار کیا (ابی) ابی
 May refuse. انکار کریں
 Refuses. انکار کرتا ہے
 Refused. انکار کیا

Women have refused. عورتوں نے انکار کیا
 Grazing ground. چراگاہ (اب) آبا
 Goblets. صراحی-لوٹا (ابریق) ابریق
 Childless, without tail. بے اولاد-بے دم
 Eternally, ever, for ever. ہمیشہ (ابد) ابد
 I will quit; cease; leave off. میں جدا ہوں گا
 We will quit, cease. ہم جدا ہونگے
 Leprous. کوڑھ والا (برص) ابرص
 They have fixed or settled. اُنہوں نے ٹھہرایا
 Those who fix upon a plan. مقرر کرنے والے-ٹھہرانے والے
 Are delivered over to perdition. ہلاکت میں سونپے گئے (بسل) اَبْسَلُوا
 Fled. وہ بھاگا (ابق) ابق
 Camel. اونٹ (ابل) ابل
 Flocks (of birds). جھنڈ یا چڑیوں کا گروہ (ابیدل) اَبِيدَل
 Satan. شیطان (بلس) اَبْلِيس
 Are seized with despair. نا امید ہوئے (يبلس) يَبْلِس
 We endowed with good things ہمنے آرام دیا (ترف) اَتْرَفْنَا
 They are given pleasures. وہ لذت دئے گئے (اَتْرَفُوا) اَتْرَفُوا
 Are given good things of this life. اس زندگی کی نعمت دئے گئے (اَتْرَفِين) اَتْرَفِين
 I recline. میں تکیہ کرتا ہوں یا جھکتا ہوں (وا) اَتْرَكُوْ
 A place where any one reclines. محفل (مَنكَا) مَنكَا
 Those who recline. تکیہ لگانے والے (مَنكِدُوْنَ) مَنكِدُوْنَ
 Are reclined on a couch. تکیہ لگائے بیٹھنے والے (مَنكِدِيْنَ) مَنكِدِيْنَ

تکبہ لگاتے ہیں۔ Are leaning upon. يَتَكَبَّرُونَ

آیا (آئی) Came. آتی

وہ دونوں آئے۔ They both came. آتیا

وہ آئیں۔ Those (women) came. آئیں

تو آیا۔ Thou hast come. آتیت

ہم آئے۔ We came. آئینا

وہ آئے۔ They came. آنوا

وہ آئی۔ She came. آتت

وہ آتا ہے۔ He is coming. آتی

دونوں آتی ہیں۔ Both (women) are coming. آتیا

آتے ہیں۔ Are coming. آتوں

نہ لایا۔ Did not bring. آتت

نہ لائے۔ Did not bring. آتوا

تم دونوں آؤ۔ Come ye both. آتیا

وہ لائے گئے۔ They being brought. آتوا

آنے والی۔ Comers. آتیت

میں آؤنگا۔ I will or shall come. آتی

تو لا۔ Bring thou. آتت

لاؤ۔ Bring. آتوا

تم آتے ہو۔ Ye are coming. آتوں

آتی ہے۔ f. Comes. آتی

آنے والا۔ One who comes. آت

ہم آتے ہیں۔ We are coming. آتیا

دینا۔ To give. آتت

وہ دیتی ہے۔ She gives. آتی

تم دیتی ہو۔ Ye are giving. آتوں

تم دینے جاؤ گے۔ Ye will be given. آتوں

اُس نے دیا۔ He gave. آتی

انہوں نے دیا۔ They gave. آتوا

Those (women) gave. آتوا

اور عورتوں نے دیا۔ Thou hast given. آتیت

تم نے دیا۔ Ye gave. آتوا

میں نے دیا۔ I gave. آتیت

ہم نے دیا۔ We gave. آتینا

تم دیتی ہو۔ Ye (women) are giving. آتیں

تم دو۔ Give ye. آتوا

نہ دیا گیا۔ Not given. آتت

وہ دئے گئے۔ They are given. آتوا

وہ دیا گیا۔ He is given. آتت

میں دیا جاؤنگا۔ I shall or will be given. آتی

تو دیا گیا۔ Thou art given. آتیت

میں دیا گیا۔ I am given. آتیت

تم دئے گئے۔ Ye are given. آتیت

ہم دئے گئے۔ We are given. آتینا

دینے والے۔ Those who give. آتوں

ہم دیتے ہیں۔ We are giving. آتت

ہم دینگے۔ We will give. آتوا

ہم دئے جاؤنگے۔ We shall or will be given. آتوا

وہ دئے جاتے ہیں۔ They are being given. آتوا

وہ دیتے ہیں۔ They are giving. آتوں

وہ دیتا ہے۔ He gives. آتی

وہ دیا جاتا ہے۔ He is given. آتی

اسباب - مال۔ Property. (لث) آتات

Sinner, guilty, an evil doer. آثم

بدکار قصور وار - گناہ گار۔ Sin, guilt, iniquity. (اثم) آثم

گناہ میں ڈالنا۔ Accusation of crime. آتیم

Liar. جھوٹا۔ آثم

Sins. گناہوں۔ آثم

Sinners, transgressors. گنہگار لوگ۔ آثمین

Ye have made a great slaughter. تم نے بخونریزی کی۔ آتختتموا

T-m-r-i-k. جہڑ کا پیر۔ (اثل) آثل

Salt water. کھڑی پانی۔ (آج) آجاج

f. Is rooted up. (جث) آجتت

وہ جڑ سے اکڑی گئی۔ A sepulchre. (جث) آججاث

Wage. (اجر) آجر

Wages. مزدوری

Thou shalt serve. تو نوکری کریگا۔ آجور

Thou hast employed. تو نے نوکر رکھا۔ آجرت

Employ thou. تو نوکر رکھے۔ آسناجر

A period, appointed term. (اجل) آجل

Two fixed periods. دو مقررہ مدتیں۔ آجلین

On that account. باعث - واسطے۔ آجل

Thou hast fixed a term. تو نے مدت ٹھہرائی۔ آجلت

Having fixed terms or predetermined period. وعدہ دیا گیا۔ آجلت

Delayed. دیر کی گئی۔ آجلت

To drag, to excite or to assault or attack. پکار - کھینچ لانا۔ (جلب) آجلب

To surround, encompass, comprehend. گھیرا۔ (حاط) آحاط

Has surrounded or guarded. اوسنے گھیرا۔ آحاطت

We have surrounded. ہمنے گھیرا۔ آحطنا

Is being encompassed. وہ گھیرا گیا۔ آحیط

I brought the news. میں خبر لایا۔ آحطت

Shall or will be encompassed. گھیرا جائیگا
 They are encompassing. وہ گھیرتے ہیں
 One who encompasses or comprehends. گھیرنے والا
 f. who compasses or comprehends. گھیرنے والی
 Jewish Priest or Doctor. (حبر) آحبر
 یہودیوں کا کاهن
 Ye will be made delighted. تم خوش آتے جاؤ گے
 Will be made delighted or joyful. خوش آتے جاینگے
 He has rendered vain. (حبط) احبط
 اوسنے ناچیز کیا
 One man. ایک مرد
 One woman. ایک عورت
 To bring into subjection or will utterly destroy. ہلاک کرونگا یا زیر کرونگا
 We have calculated. (حصی) احصینا
 ہمنے شمار کیا
 Calculate ye or number. تم شمار کرو
 Ye will or shall count. تم گنو گے
 Clever in calculating. گننے میں نہایت ہوشیار
 The winding sands, name of a province in Arabia. ریت کی غار۔ عرب میں ایک علاقہ کا نام
 A brother. بھائی
 Brethren, friends. بھائی۔ دوست
 Companions. ساتھی
 A sister. بہن
 Two sisters. دو بہنیں
 Sisters. بہنیں
 A brother. بھائی
 Humbled. (خبت) اخبتو
 عاجزی کی

Acquiesces in. عاجز ہوتی
 Those who humble themselves. عاجزی کرنے والے
 Lovers. (خدن) اخدان
 Pits or trenches. کھایاں
 To take, receive. لینا
 He took. اوسنے لیا
 She took. اوسنے لیا
 He is seized or caught. وہ پکڑا گیا
 To seize upon, take in hand. پکڑنا
 Ye took. تم نے لیا
 Thou seizest. تو پکڑتا ہے
 Ye are taking. تم لیتے ہو
 We take. ہم لیتے ہیں
 Will not be taken. نہ لیا جائیگا
 Take. لے
 We are seizing. گرفتار کرتے ہیں
 Seizes or punishes. پکڑتا ہے یا سزا دیتا ہے
 Are seizing or punishing. پکڑتے ہیں یا سزا دیتے ہیں
 Take ye. تم لو
 They took. انہوں نے لیا
 We took. ہم نے لیا
 They are caught. وہ پکڑے گئے
 Those who take. لینے والی
 Thou seizest or punishest. تو پکڑتا ہے یا سزا دیتا ہے
 Seizes or punishes. پکڑتا ہے یا سزا دیتا ہے
 Put off. (آخر) اخر
 Has left behind. پیچھے چھوڑا

Has left behind. اوسنے پیچھے چھوڑا
 Thou hast delayed. تو نے دیر کی
 Has delayed. دیر کی
 Remains or stays behind. پیچھے ہوتا ہے
 Are delaying. دیر کرتے ہیں
 Those who tarry behind. پیچھے رہنے والی
 Does not delay or put off. دیر نہیں کرتا
 Another, other, the last. دوسرا
 The last, the end, latter end, behind. پیچھلا
 Has remained behind. وہ پیچھے رہا
 The last, the end. پیچھلے
 Last, the end, the latest, the latter end. پیچھلی
 Draw off, put off. (جوتی) اوتارو
 Grievous, stupendous. بہاری چیز۔ حیرت افزا
 To make over or restore. حوالہ کرنا یا پہونچانا
 Ye will return or pay back. تم واپس کرو گے
 Return or restore ye. تم حوالے کرو یا واپس دو
 Restores or is paying back. ادا کرتا ہے
 We have averted or driven off. تم نے دور کیا یا اختلاف کیا
 Drive off. دور کرو
 Driving off, putting off. قاتلے ہیں
 Made known, warned. آگاہ یا خبردار کیا
 Teaches, informs. آگاہ یا خبردار کرتا ہے
 I know. میں جانتا ہوں
 Thou knowest. تو جانتا ہے
 We know. ہم جانتے ہیں

He knows. وہ جانتا ہی یَدْرِیٰ

More grievous. (دھی) آدھی بڑی بلا

When, then, if. (اذ) اگر-جب-جسوقت اذ

When. جب-یکایک اذنا

Just now. اسوقت اذنا

An ear. (اذن) اذن کان

Two ears. اذنین دو کان

Ordered or gave ear. آذنت حکم کیا یا کان رکھا

Permission. اجازت اذن

He permitted; ordered. اذن اسنے حکم دیا

Thou hast permitted. اذنت تونے اجازت دی

Ears. کان اذان

We have proclaimed. اذنا ہم نے اطلاع کی

I have declared. اذنت میں نے اطلاع کی

I will or shall permit. اذن میں اجازت دینگا

Permit thou. اذن تو رخصت دیے

Permit ye. اذنوا تم رخصت دو

Is permitted. اذن وہ پروانگی دیا گیا

He called out or proclaimed. اذن اوسنے پکارا

Proclaim thou. اذن تو آواز دے

To make known. اذان خبر دینی

Proclaimed or declared. اذنان اطلاع کردی

One who proclaims. اذنان اطلاع کرنے والا

May be permitted. اذن اجازت دیا جائے

Give permission. اذن اجازت دے

Asks permission. اذنان اجازت چاہتا ہے

He asked permission. اذنان اسنے اجازت چاہی

They asked permission. اذنان انہوں نے اجازت چاہی

Are asking permission. اذنان اجازت چاہتے ہیں

They have made known or divulged. اذاعوا انہوں نے مشہور کیا

Chin. (ذقن) اذقان تھدی

Trouble. (اذی) اذی تکلیف

They have hurt or have troubled. اذوا انہوں نے ستایا

Ye have troubled. اذیتموا تم نے ستایا

Hurt or trouble ye. اذوا تم ستاؤ

Is troubling. (اذی) اذی ستاتا ہے

Are being troubled. اذین ستائے جاتے ہیں

Vilest, most abject. (اذل) اذال نہایت کمینہ و خراب

Mean people. (اذال) اذال کمینے لوگ

Thrones, couches. (اذک) اذک تخت

Need, want, a necessity. (اذب) اذب حاجت

Necessities, necessities, uses. (اذب) اذب حاجتیں

Aside. (اذجا) اذجا کنارے

Put off. (اذجہ) اذجہ مہلت دے

Hope, expect. (اذجوا) اذجوا امید رکھو

Are held in suspense. (اذجوا) اذجوا دیو کئے گئے

Hopes. (اذجوا) اذجوا امید رکھتا ہے

Earth, land, a country. (ارض) ارض زمین-ملک

Has upset, overturned. (ارکس) ارکس التا دیا

Are overturned. (ارکسوا) ارکسوا التا دئے گئے

Stamp the feet on the ground. (ارکض) ارکض لات مار

Ye stamp. (ارکضون) ارکضون تم ایڑی مارتے ہو

Are making horse to run or stamping on the ground. (ارکضون) ارکضون

Name of a city. (ارم) ارم ایک شہر کا نام

Incited. (از) از ابھارا

Incites. (از) از ابھارتا ہے

Drawu nearer. (ازفت) ازفت قریب آئی

One who comes near. (ازفة) ازفة قریب آنے والی

Arrows of omen or of divination. (ازلام) ازلام فال دیکھنے کی تیر

Fables, idle tales. (اساطیر) اساطیر کہانیاں

One who presides, manager. (مسیطر) مسیطر داروغہ

Managers. (مسیطرون) مسیطرون نگہبانوں

Manager. (مصیطر) مصیطر داروغہ یا نگہبان

Managers. (مصیطرون) مصیطرون نگہبانوں

Written. (سطر) مسطور لکھا گیا

Are writing. (یسطرون) یسطرون لکھتے ہیں

A prison. (اسر) اسری قید خانہ

A prisoner, captive. (اسیر) اسیر قیدی

Prisoners, captives. (اساری) اساری قیدیوں

Ye imprison. (تاسرون) تاسرون تم قید کرتے ہو

Grand-sons, tribe, decendants. (اسباط) اسباط پوتے-قوم-اولاد

Got hold or overcome or prevailed. (استحوذ) استحوذ غالب آیا قابو پایا

We over came or prevailed. (استحوذون) استحوذون غالب آئے تھے

He implored assistance. (استغاث) استغاث اوسنے مدد چاہی

They two are asking assistance. (استغیثان) استغیثان وہ دو فریاد کرتے ہیں

Imploring assistance. (استغیثوا) استغیثوا فریاد چاہتے ہیں

استنكفوا They disdained. انہوں نے انکار کیا یا حقارت کی
 استنكف Disdains. انکار کرتا ہے یا اہانت کرتا ہے
 اسراف (سرف) To be extravagant. فضول خرچی
 اسرف He exceeded bounds. وہ حد سے گذرا
 اسرفوا They exceeded bounds. انہوں نے حد سے زیادہ خرچ کیا
 اسرف He is extravagant. فضول خرچ ہے
 اسرفوا They are exceeding bounds. فضول خرچ ہیں
 اسرف A prodigal. فضول خرچ
 اسس Has founded. اوسنے بنا رکھی (اس) اسس
 اسس Foundation is laid. بنیاد رکھی گئی
 اسمعیل Ishmeal. ہاجرہ کے بیٹے کا نام
 اسوۃ A pattern, example, worthy of imitation. پیروی-چال-نمونے کے لایق
 افسوس کرنا To be sad, solicitous. افسوس کرنا
 افسوس کرنا Thou art grieving. تو افسوس کرتا ہے
 افسوس کرر Be ye sorry or vexed. تم افسوس کرر
 اشراط (شرط) Conditions. نشانیاں
 اشکو I make my complaint. میں شکایت کرتا ہوں
 اشکوۃ A niche in a wall. طاق جس میں کندیل یا چراغ رکھیں
 اشکی She complains. وہ شکایت کرتی یا جھینکتی ہے
 اشمز f. contracted with horror. تنگ ہوئی
 اص (اصر) A covenant, burden. عہد-بوجھا
 اصفاذ Fetters. بیڑیاں
 اصاعوا They lost it by their neglect. انہوں نے اپنی غفلت سے کہویا
 اضیع I am unmindful. میں بے پروائی کرتا ہوں
 اضیع He neglects. بے پروائی کرتا ہے

اضیع We will cause to be ruined. ہم برباد کریں گے
 اصغان (ضغن) Enemies, feelings. دشمن-بد گمانیاں
 اصم Draw closer. نزدیک کر لے یا ملالے
 اصرحوا Cast forth. پھینک دو
 اطفی He has extinguished. اوسنے بجھایا
 اطفوا Are extinguishing. بجھاتے ہیں
 اطمأنا He has rested. اوسنے آرام کیا
 اطمأنتم Ye secured peace. تم خاطر جمع ہوئے
 اطمأنوا They kept quiet. وہ خاموش ہوئے
 اطمئن One who rests. آرام کرنے والا
 اطمئنة f. One who rests. آرام کرنے والی
 اطمئنین Those who rest. آرام کرنے والے
 اطمئن f. Is resting. آرام کرتی ہے
 اطمئن Is resting. آرام کرتا ہے
 اعتری One who does not beg though poor. قانع محتاج
 اعجمی A foreigner to Arabia or who speaks broken Arabic. غیر زبان-عربی بولنے والا شخص
 اعجمین Foreigners who speak broken Arabic. غیر عرب جو توٹی پہوٹی عربی بولیں
 اعرج (عرج) Lame from birth. پیدائشی لنگڑا
 اعرج f. Mounts or ascends. چڑھتی ہے
 اعرج Mounts or ascends. چڑھتا ہے
 اعرجون Are ascending. چڑھتے ہیں
 اعراج Stairs, ladder. سیڑھیاں
 اعصار A whirlwind. بگولا
 اعصر I am squeezing. میں نیچورتا ہوں
 اعصرون Are pressing or squeezing. نیچورتے ہیں

اعصارات f. Those that are emitting or pressing out rain. بارش نیچورتے والیاں
 اعیب (عاب) I will or shall render faulty. میں عیب لگاؤنگا
 اعربنا We excited or incited. ہمنے لگائی بجھائی کی
 اعرض Cast down. نیچے کر
 اعرضن They are lowering the eyes. وہ آنکھ نیچے کرتی ہیں
 اعرضون Are casting down the eyes. آنکھ نیچے کرتے ہیں
 اعطاش Has made dark. اندھیرا کیا
 اف (اف) Fie! شرم
 افاض He rushed impetuously. وہ بے تحاشا چلا-یا دوڑا
 افیدوا Rush ye. تم چلو یا دوڑو
 افیض f. Overflows. وہ بہتی ہے
 افضتم Rushed ye. تم چلے
 افسحوا Make room. کشادہ کرو
 افسحوا Sit separated or make room in the assembly. جماعت میں کھل بیٹھو
 افسح Makes room. کشادہ کرتا ہے
 افصح A fine eloquent speaker. خوشگو
 افضی He has approached (as husband to his wife.) وہ پہونچا
 افک (افک) To tell lies, a falsehood. بھٹان-جھونٹہ
 افک Be thou overthrown or turn thou upside down. تو پھرے
 افکی A great liar. بڑا جھونٹہا
 افک Is turned upside down. اوندھا کیا گیا-پھیرا گیا
 افکة That which is overthrown or turned upside down. پھرنے والی
 افکات f. Are overthrown or turned. اٹتی کی گئیں
 افکون They are inventing a lie. تھمت کرتے ہیں

يُؤْتِكُ Is being turned. پھیرا جاتا ہے

يُؤْفِكُونَ Will be overthrown. پھیرے جائیں گے

أَفْلَحَ Has set or has hidden. چھپ گیا (افل) افل

أَفْلَتْ f. Has disappeared. غائب ہوئی

أَفْلِينَ Those which hide. چھپ جانے والے

أَفْلَحَ (فعل) He is saved or has prospered. اوسنے نجات پائی

مُفْلِحُونَ Saved ; prosperous or happy. نجات پانے والے

مُفْلِحٌ Prosperous one. نجات پانے والا

يَفْلَحُ Will be prosperous. مراد کو پہنچے گا

يَفْلِحُونَ Will attain their desires. مراد کو پہنچیں گے

تَفْلِحُونَ Ye will prosper. تم مراد کو پہنچو گے

أَفْذَانٌ Branches. شاخیں (فن) افذان

أَفْضُ I submit. سونپتا ہوں (فوض) افوض

أَفْتَحُمُ (فحم) Undertook an enterprise. ہمت کر کے چڑھا

مُفْتَحِمٌ One who rushes headlong. آگے دھسنے والا

أَقْتَدِ Imitate or follow. پیروی کر (قدا) اقتد

مُقْتَدُونَ Are imitated or followed. پیروی کئے گئے

أَقْتَدِرُوا (قرف) Ye gained or acquired. تم نے کمایا

مُقْتَدِرُونَ Those who gain. کمانے والے

يَقْتَرِفُ Gains. کماتا ہے

يَقْتَرِفُونَ They are gaining. وہ کماتے ہیں

أَقْفَالٌ Locks. قالے (فعل) اقفال

أَقْلَعِي Wait. تھہرو (قلع) اقلعي

أَقْنِي He caused to acquire possessions. اوسنے پونجی دی (قني) اقنلي

أَقْوَاتٌ Nourishment, food. خوراک (قات) اقوات

مُحَافِظٌ Watchful, guardian. محافظ

أَكُ I am. میں ہوں (ك) اك

أَكْدَى (كدا) To be niggardly, hard hearted. سخت دل ہوا

أَكَلٌ To eat, devour, consume. کھانا

أَكَلَ He ate. اوسنے کھایا

أَكَلَا Two ate. دو نے کھایا

أَكَلُوا All ate. سب نے کھایا

أَكَلُونَ Those who eat. کھانے والے

تَأْكُلُ She eats. وہ کھاتی ہے

تَأْكُلُونَ Ye are eating. تم کھاتے ہو

مَأْكُولٌ Eaten up. کھایا گیا

نَأْكُلُ We are eating. ہم کھاتے ہیں

يَأْكُلُ He eats. وہ کھاتا ہے

يَأْكُلُونَ They are eating. وہ کھاتے ہیں

يَأْكُلْنَ f. Are eating. کھاتی ہیں

يَأْكُلُونَ Are eating. وہ کھاتے ہیں

أَكَالُونَ Greedy, great eaters. بہت کھانے والے

كُلَا Eat ye both. تم دونوں کھاؤ

لَا يَأْكُلُونَ Not eating. نہیں کھاتے

لَا تَأْكُلُوا Do not eat. مت کھاؤ

أَكَامٌ Sheaths. غلافون (كم) اكام

أَكْمَةٌ Blind from birth. مادرزاد اندھا

أَكْدَانٌ (كن) Hiding places, shelters. پناہ گاہیں چھپنے کی جگہیں

مَكْدُونٌ One who is covered over or hidden. چھپایا گیا

أَكْتَمٌ Covers. غلافون

أَكْتَمْتُمْ Ye have hidden. تم نے چھپا رکھا ہے

وَكْنٌ She veils herself or shelters. وہ اپنے کو چھپاتی ہے

أَكْوَابٌ (كاب) Goblets or cups. حیاں-پيالے

ال (ال) The definite article. حرف تعریف

إِل (آل) Relationship, consanguinity. رشتہ

إِلَٰهٌ A Deity, God. معبود

إِلَٰهِي O God. اے خدا

إِلَٰهٌ God. معبود

إِلَٰهَيْنِ Two gods. دو معبود

إِلَٰهَاتٍ gods. معبودوں

أَلَا Take care. خبردار

إِلَّا But. اگر

إِلَى To, towards. کو-طرف

الآن (ان) Now, at present.

أَلْبَابٌ (لب) The heart, intellect, understanding. تمیز-شعور

أَلْتَقَطَ (لقت) He picked up, or lighted on. اوسنے اوتھایا

يَلْتَقِطُ He picks up or lights upon. وہ اوتھاتا ہے

أَلْتَدْنَا (الت) We have diminished. ہمنے گھٹایا

يَلْتِ He defrauds. وہ کم کرتا ہے

أَلْحَادٌ (لحد) To deviate from that which is lawful. حق سے گذرنا

مُلْتَدِدٌ A place of refuge. پناہ گاہ

يَلْحَدُونَ They deviate from the right thing. وہ حق سے پھرتے ہیں

أَلْحَافٌ (لحف) To cover, importune. ڈھانکنا-لپیتنا

أَلْحَقْ (لحق) Overtake, join or reach. قریب یا ملاو سے

أَلْحَقْتُمْ Ye overtook or joined. تم قریب ہوئے یا تم نے ملایا

أَلْحَقْنَا We joined. ہمنے ملایا

يَلْحَقُونَ They attain or meet or unite. وہ ملتے ہیں

وہ ایک مرد (الذی) He the man. الذی

وہ دو مرد الذین Those two men.

وہ سب مرد الذین All those men.

وہ ایک عورت التي That one woman.

وہ سب عورتیں اللاتي } All those women. اللاتي

ہزار (الف) Thousand. ألف

دو ہزار الفان Two thousand.

ہزاروں آلاف Thousands.

جوڑا یا آلتِ دالی الف United, reconciled.

تو نے جوڑا یا آلتِ دالی الفت Thou hast united.

وہ دونوں ملے الفیا Those two joined.

اونہوں نے پایا انفوا They found.

وہ آلتِ دیتی ہے یا ملاتی ہے ایلاف She makes a compact.

ملائی گئی مؤلفاة Reconciled.

وہ ملاتا یا جوڑتا ہے یؤلف He reconciles or joins.

وہ آلتِ دیتی ہے یا ملاتی ہے ایلاف She makes a compact.

وہ آلتِ دیتی ہے یا ملاتی ہے ایلاف She makes a compact.

اوسنے دل میں ڈالا اوسنے دل میں ڈالا

الیس (الیاس) Elisha. الیاس

الیاسین Elisha. الیاسین

دردناک-سخت (الم) Painful, to suffer. الم

تم بے آرام ہوتے ہو یالمون Ye are being restless.

دردناک ہوتے ہیں یالمون Are being painful.

حرف عطف (ام) A conjunction. ام

مائیں (ام) Mothers. ام

مکہ دارالسلطنت أم القری The metropolis, Mecca.

جماعت لوگ أمة A people, nation.

جماعتیں لوگ أمم A people, nations.

آن پڑھے ان پڑھے Illiterate. أمیین

چو کوئی اما That, which. اما

اگر إما Whether. إما

آگے أمام Before. أمام

مذہب کا پیشوا إمام A leader in religion. إمام

آمانت (آمن) A deposit, security. آمانت

سپرد کی ہوئی شئی سپرد کی ہوئی شئی

آمانت Trusts, covenants. آمانت

چیزیں سپرد کی ہوئیں چیزیں سپرد کی ہوئیں

آمین Trustworthy, faithful, a treasurer. آمین

امانت دار امانت دار

آمن Shelter, protection. حفاظت-پناہ

آمنة Peace, satisfaction. اطمینان-آرام

آمن One who protects. جو امن میں رکھتا ہے

آمنوا They keep without fear. وہ بیخوف ہوتے ہیں

آمن A place of shelter or protection or security. حفاظت کی جگہ یا جائے پناہ

آمنون One who is given protection or secured. پناہ دیا گیا

آمن He believed. اوسنے اعتبار کیا

آمنت I believed or trusted. میں نے اعتبار کیا

آمن Thou keepest a trust. تو امانت رکھتا ہے

آمنتم Ye have secured peace. تم خاطر جمع ہوئے

آمنوا They believed. وہ ایمان لائے

آمنت She believed. وہ ایمان لائی

آمنتتم Ye believed. تم ایمان لائے

آمنت I believed. میں ایمان لایا

آمنوا We believed. ہم ایمان لائے

آمنوا Believe. ایمان لاؤ

آمنتم Thou believest. تو ایمان لاتا ہے

تو ایمان لاتے ہو تم ایمان لاتے ہو Ye are believing. تؤمنون

ایمان لانے والا One who believes. مؤمن

ایمان لانے والے Those who believe. مؤمنون

ایمان لانے والی f. Who believes. مؤمنة

ایمان لانے والی مؤمنات Believing women.

ایمان لانے والیاں ایمان لانے والیاں

ہم ایمان لاتے ہیں We are believing. نؤمن

وہ ایمان لاتا ہے He believes. يؤمن

وہ ایمان لاتے ہیں f. Are believing or trusting. يؤمنون

وہ ایمان لاتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں They do believe. يؤمنون

امن مت دو لا تؤمنون Do not protect.

ایسا ہی ہو جیو Amen. آمین

کام-حکم (امر) Order, matter, thing. أمر

کام-احکام Matters. امور

اوسنے حکم دیا امر He commanded.

اونہوں نے ارشاد کیا امروا They ordered.

تو نے حکم کیا امرت Thou hast ordered.

میں نے حکم کیا امرت I have ordered.

وہ حکم کئے گئے امروا They are ordered.

میں حکم کیا گیا امرت I am being ordered.

ہم حکم کئے گئے امرنا We are commanded.

بڑا حکم کرنے والا أمارة A great commander.

وہ حکم کرتی ہے تامر She orders.

تم حکم کرتے ہو تامرؤن Ye are ordering.

تو حکم کرتی ہے f. Thou orderest. تامرین

وہ حکم کرتا ہے یامر He orders.

حکم کرتے ہیں یامرؤن Are ordering.

کام-حکم (امر) A strange thing, a serious matter. امر

انوکھا کام یا معاملہ انوکھا کام یا معاملہ

صلاح دو انکھروا Give counsel.

امت (امت) A curve, any thing which shows ups and downs. تھلوان ٹیلا

امت (اماء) A maid servant. باندي

اماء Maid servants. بانديان

امتازوا Be separated. (ماز) الگ ہو جاؤ

امتيز Discriminate, distinguish. بہت جائے

امتيز Distinguishes or separates. جدا کرتا ہے

امتحن (محن) Examined. آزمایا

امتحنوا They tested or examined. اونہوں نے آزمایا

املاق Poverty. مفلسی

امعاء Intestines, bowels. آنتیں

امد A space, a term. فاصلہ-فرق

امس Yesterday. کل جو گذر گیا

امشاج Mingled. (مشج) ملے جلے ہوئے

امل Hope. مید-آرزو

ان That, in order that, lest. جو

ان If. اگر

ان That, since, because. اسلئے-جو

ان Verily, indeed. تحقیق

انما Only. صرف

انما Indeed, verily. سچ سچ فی الحقیقت

اناب Repented. توبہ کی یا رجوع ہوا

انابوا They repented or turned or inclined. اونہوں نے توبہ کی وہ رجوع ہوئے

انبا We have repented or inclined. ہم رجوع ہوئے یا توبہ کی

انبا He repents. وہ توبہ یا رجوع کرتا ہے

انبا I am repenting.

توبہ یا رجوع کرتا ہوں

انبا One who repents.

توبہ یا رجوع کرنے والا

انبا Repent ye. تم توبہ یا رجوع کرو

انبا Those who turn to God with repentance.

جو خدا کی طرف توبہ کر کے رجوع ہوتے ہیں

انث Women. عورتیں

انث Woman. عورت

انثین Two women. دو عورتیں

انام Creation or creatures.

خلقت یا مخلوقات

انبا Burst forth. (بجس) ف. پھوٹ نکلی

انث Thou one man. تو ایک مرد

انث Thou one woman. تو ایک عورت

انتم All ye men. تم سب مرد

انتما Ye two men. تم دو مرد

انثرت f. Has scattered.

پراگندہ ہوئی یا جھڑ گئی

انثرت Spread open. پراگندہ

انقام Avenge, defence. عوض-بدلہ

انقمنا We have defended. ہم نے بدلہ لیا

انقمون f. Who avenges. بدلہ لینے والی

انقم He avenges. بدلہ لیتا ہے

انقموا They have created enmity.

انہوں نے دشمنی کی

انجيل (نجل) The Gospel.

انجيل شريف-خوش خبری

انحر Do sacrifice (by cutting the jugular vein.) قربانی کر

اندا Alike, equal, a match.

مانند-شریک-برابر

انسلخ Withdrawn. (سلخ) نکالا یا گذارا

انسلخ We pluck off. ہم باہر کھینچتے ہیں

اناس Men. آدمی

انصتوا Be quiet. چپ رہو

انطق He caused to utter.

وہ بولنے کا سبب ہوا

انطق He speaks. وہ بولتا ہے یا کہتا ہے

انطقون They speak.

وہ بولتے ہیں یا کہتے ہیں

انطق Language, logic. بات

انطقون Ye speak. تم بولتے ہو یا کہتے ہو

انفذوا Pass ye beyond. تم نکلو

انقسام The act of being broken. ٹوٹنا

انقد He has set free. اوسنے خلاص کیا

انقد Thou shalt set free. تو خلاص کریگا

انقدون Are delivering or setting free.

نکالتے ہیں-چھٹکارا دیتے ہیں

انقدون They will be delivered.

وہ نکالے جائینگے یا چھڑے جائینگے

لايسئذوا Cannot set free.

چھڑا نہیں سکتے

انكدرت Got muddy or dirty. مہلے ہو گئے

انني In what way. کیونکر-کہاں

او Either, or. یا

او Or, what. یا-کیا

اوا A compassionate person.

رحم دل یا نرم دل

اوبار Soft hair of camel.

اونٹ کی ملائم پشم

اوتاد Stakes, pegs. کھونٹے-میخیں

اوثان Idols. بتوں

اوجس Conceived fear in his mind.

اپنے دل میں ڈرا

ادزع (وزغ) Incite or inspire.
توفیق دے یا دل میں ڈال

یوزعون Kept back, kept according their rank while marching.
حیثیت کے مطابق کھڑے کئے جاتے ہیں یا روکے جاتے ہیں

اول First. پہلا

اولون The ancients. اگلے-پہلے

اولی f. The first. پہلی

اولیان The first two. دو پہلے

اولاء These. یہہ

اولئک (اولئک) Those persons. وہ لوگ

انہبط Come down. نیچے اتر

انہبطا Both go down. تم دونوں اتر

انہبطرا All go down. سب اتر

انہبط Comes down. اترتا ہے

انہش Am beating down leaves. پتے جھاڑتا ہوں

لوگ (اہل) People. لوگ

خانداں-ایال Family. اہلون

پکارا گیا۔ آواز دیا گیا (ہل) Was called. اہل

First day's moon, new moon. اولادہ

نیا یا پہلی شب کا چاند

بیشک-البتہ Yea verily. ای

کونسا-کون-کس-کیا Whosoever. ای

جونسے That which. ایما

پھرنا The act of returning. ایاب

پہرنے کی جگہ A place of return. ماب

اسکو To this. ایلا

اون دونوں کو To both of them. ایہما

اون سب کو To all of them. ایہم

تجھکو To thee. ایاک

تم دونوں کو To both of you. ایاکما

تم سب کو To all of you. ایاکم

To me. ایای

To us. ایانا

An unmarried man or woman whether single or widowed. ایامی

بے نکاح مرد یا عورتیں خواہ کنواری ہوں یا رندوی

کب (ایان) When. ایان

Strengthened. (اآد) ایی

مدد کی-طاقت دی یا زور دیا

I strengthened. ایدت

میں نے مدد یا طاقت دی یا زور دیا

We strengthened. ایدنا

ہم نے مدد دی-طاقت دی یا زور دیا

Helps, strengthens. یوید

قوت دینا ہے-مدد کرتا ہے

Watchful, awake. (یفظ) ایقظا

جاگنے والے

Thick wood or jungle. (ایک) ایکتہ

نہایت گنجان-جنگل

Where, whither. (این) این

کہاں

Wherever. ایذما

جس طرف

O thou. تو ایہا

ایہا

ب

To draw upon one's-self. (بآء) بآء

اوسنے حاصل کیا یا کمایا

بآءوا They have drawn upon themselves. انہوں نے کمایا

بوی He gave a place or dwelling. اوس نے جگہ دی

بوانا We gave shelter. ہم نے پناہ یا جگہ دی

ببوا He occupied the dwelling. اوس نے جگہ اختیار کی

ببوا They both occupied the place. اون دونوں نے جگہ اختیار کی

ببواوا They possessed the place. انہوں نے جگہ اختیار کی

بببوا Occupies a place. جگہ اختیار کرتا ہے

Thou art making room. تبوء

تو جگہ بناتا ہے

One who is given possession of a dwelling. تبوء

جگہ دیا گیا

We will provide habitation. تبوء

ہم جگہ دینگے

We occupy a dwelling. تبوء

ہم جگہ اختیار کرتے ہیں

Thou art drawn. تبوء

تو رجوع کرتا ہے

Severity, vengeance, valour, force. (بئیس) بئیس

زور-ساختی-خوف

Misfortune, severity. (بئیس) بئیس

نہایت سخت یا شدید

Grievous. بئیس

تو غمگین ہوتا ہے

Thou art grieved. تبئیس

Bad, wretched, miserable. بئیس

خراب-برا

A door, gate. (باب) باب

دروازہ

Babel. (بابل) بابل

ایک شہر کا نام

One who frets himself to death. (بخخ) باخخ

اپنا گلا گھونٹ کر مرنے والا

Belonging to desert. (بدا) بداء

جو جنگلی ہو

Dwellers in the country. بادون

جو لوگ جنگل میں رہیں

At first thought. بادئ

ظاہراً

Has appeared. f. بدت

ظاہر ہوئی

To make to appear. تبء

ظاہر کیا جاوے

تو ظاہر کرتی ہے *f.* Thou art manifesting. *تَبْدِي*
 تم ظاہر کرتے ہو *f.* Ye are manifesting. *تَبْدُونَ*
 ظاہر کرنے والا *f.* One who manifests. *مَبْدِي*
 وہ ظاہر کرتے ہیں *f.* They manifest. *يَبْدُونَ*
 وہ ظاہر کرتا ہے *f.* He shows. *يَبْدِي*
 وہ ظاہر کرتی ہیں *f.* They manifest. *يَبْدِينَ*
 کانوں-جنگل *f.* A desert, a village. *بَدْو*
 خالق پیدا کرنے والا *f.* One who produces, creates or creator. *بَارِي*
 تو چنگا کرتا ہے *f.* Thou curest or cleansest. *تَبْرِءُ*
 پاک کیا *f.* Purified, cleaned, absolved. *بَرَاءُ*
 میں پاک کرتا ہوں *f.* I am cleansing or absolving. *أَبْرِئُ*
 فارغ خطی *f.* Freedom, immunity. *بِرَاعَةٌ*
 پاک کئے گئے *f.* Absolved. *مُبْرَرُونَ*
 بیزار ہونے والا یا معصوم *f.* One who is disgusted or innocent. *بَرِيءٌ*
 بیزار ہونے والے یا بے عیب *f.* Disgusted or guiltless. *بَرِيدُونَ*
 بیزار ہونے والا *f.* One who is disgusted. *بَرَاءٌ*
 بیزار ہونے والے *f.* They who are innocent or disgusted. *بَرَاءٌ*
 ہم بیزار ہوئے *f.* We got disgusted. *تَبْرَأْنَا*
 وہ بیزار ہوا *f.* He got disgusted. *تَبْرَأَ*
 وہ بیزار ہوئے *f.* They got disgusted. *تَبْرَأُوا*
 ہم بیزار ہوتے ہیں *f.* We are disgusted. *قَتَبْرَأُ*
 ہم پیدا کرتے ہیں *f.* We are creating. *بَرَاءٌ*
 خلقت *f.* Creatures. *بَرِيَّةٌ*
 سورج چڑھتے ہوئے *f.* Rising. *بَارِغٌ*
 چاند چڑھتے ہوئے *f.* Rising. *بَارِغَةٌ*
 اونچی *f.* Tall. *بَاسِقَاتٌ*

پراگندہ *f.* Scattered, disseminated. *بَثَّ*
 اوس نے بکھیرا *f.* He dispersed or scattered. *بَثَّ*
 غمناک یا پراگندہ ہوتا ہے *f.* Sorrowful, scattered. *بَثَّ*
 دور تک پھیلا ہوا *f.* Scattered, spread abroad. *مَبْثُوثٌ*
 بکھیری ہوئی *f.* Scattered. *مَبْثُوثَةٌ*
 سمندر *f.* Seas. *بَحْرٌ*
 دو سمندر *f.* Two seas. *بَحْرَيْنِ*
 سمندروں *f.* Seas. *بَحَارٌ*
 سمندر *f.* Seas. *أَبْحَرٌ*
 She-camel with slit ears. *بَحِيرَةٌ*
 جس اونٹنی کے کان کٹے ہوں *f.* She-camel with slit ears. *بَحِيرَةٌ*
 کنجوسی *f.* To be covetous, avaricious. *بَخِلٌ*
 اوس نے کنجوسی کی *f.* He was covetous or avaricious. *بَخِلَ*
 انہوں نے کنجوسی کی *f.* They have reserved covetously. *بَخِلُوا*
 وہ کنجوسی کرتا ہے *f.* He covets. *يَبْخُلُ*
 وہ کنجوسی کرتے ہیں *f.* They are reserving covetously. *يَبْخُلُونَ*
 کم-کھوتا *f.* Deficient, trifling. *بَخْسٌ*
 تم گھٹاتے ہو *f.* Ye diminish. *تَبْخَسُوا*
 وہ کم کرتا ہے *f.* He diminishes. *يَبْخَسُ*
 وہ کم کئے جاتے ہیں *f.* They are being diminished. *يَبْخَسُونَ*
 شروع کیا *f.* Begun. *بَدَأَ*
 انہوں نے شروع کیا *f.* They begun. *بَدَأُوا*
 ہم نے شروع کیا *f.* We begun. *بَدَأْنَا*
 شروع کرتا ہے *f.* Begins. *يَبْدَأُ*
 A well near Mecca. *f.* A well near Mecca. *بَدْرٌ*
 مکہ کے پاس ایک کنواں ہے *f.* A well near Mecca. *بَدْرٌ*
 گھبراتے ہوئے *f.* Hastily *بَدَارٌ*

نیا *f.* New, new-fangled. *بَدِيعٌ*
 بنانے والا *f.* Creator as maker of a new creation. *بَدِيعٌ*
 انہوں نے ایجاد کیا *f.* They have brought forward novelty. *بَدَعُوا*
 عوض *f.* In exchange. *بَدَلٌ*
 اوس نے بدلا *f.* He has exchanged. *بَدَلَ*
 انہوں نے بدلا *f.* They have exchanged. *بَدَلُوا*
 ہم نے بدلا *f.* We have exchanged. *بَدَلْنَا*
 معنی عوض میں دیا *f.* Exchange thou. *تَبَدَّلْ*
 میں بدلونگا *f.* I will exchange. *أَبْدَلُ*
 تو بدلے *f.* Thou mayst exchange. *تَبَدَّلْ*
 تم بدلا کرو گے *f.* Ye will exchange. *تَتَبَدَّلُوا*
 بدلنا *f.* An exchange. *تَبَدُّلٌ*
 وہ بدلے جائیگی *f.* Will be exchanged. *تَبْدَلُ*
 بدلنے والا *f.* One who exchanges. *مُبَدِّلٌ*
 وہ بدلتا ہے *f.* He exchanges. *يَبْدِلُ*
 وہ عوض دیتا ہے *f.* He gives in exchange. *يَبْدِلُ*
 وہ بدلتے ہیں *f.* They are exchanging. *يَبْدِلُونَ*
 ہم بدلتے ہیں *f.* We are exchanging. *نَبْدِلُ*
 بدلنا *f.* An exchange. *إِسْتِبْدَالٌ*
 وہ بدلتا ہے *f.* He exchanges. *يَسْتَبْدِلُ*
 بدلا جاتا ہے *f.* Is being exchanged. *يَبْدَلُ*
 بدن-جسم *f.* Body, person. *بَدَنٌ*
 مکہ میں قربانی کا اونٹ *f.* Camel sacrificed at Mecca. *بَدَنٌ*
 نیک *f.* Pious. *بَرٌّ*
 نیکی *f.* Justly, goodness. *بِرٌّ*
 نیک لوگ *f.* Pious people. *أَبْرَارٌ*
 نیک *f.* Pious people. *أَبْرَارٌ*
 تم نیکی کرتے ہو *f.* Ye are acting kindly. *تَبَرَّأُوا*

برد (برد) Cold, cool, that which cools.
تھندا یا جو چیز تھندا کرے
بارد
Hail. اولے

بروز (برز) Gone forth, manifested. وہ نکلا

برزوا They went forth. وہ نکلے

برزت f. Was manifested. وہ نکالی گئی

بارزة In an extended form, like a plain.
میدان یا کھلی جگہ

بارزون Those who are going forth or being manifested. کہلے اور ظاہر ہونے والے

برج (برج) A tower, sign of the Zodiac.
تاروں کے گھر

تبرج Having an ostentatious manner.
ظاہری آرائش دکھانا

تبرج f. Having an ostentatious manner.
آرائش دکھاتی ہیں

برزخ (برزخ) A partition, the abode of departed spirits, Hades.
وہ مقام جہاں روحیں رہتی ہیں

برق (برق) Lightning. بجلی

برق f. Dazzled, astonished. چکا چوندھی

استبرق Brocade, silk of a thick texture.
ایک قسم کا ریشمی کپڑا

برکتیں Blessings. برکتیں

بارک He has blessed. اوسنے برکت دی

بارکنا We have blessed. ہم نے برکت دی

تبارک He was blessed. وہ بزرگ ہوا

مبارک Blessed. برکت دیا گیا

مبارکة f. Blessed one. برکت والی

بورک One who is blessed. برکت دیا گیا

برهان (برهن) Witness, proof. دلیل-گواہ

برہانان Two witnesses. دو گواہ

برسما A carpet. بستر بچھونا

برصا Excellence, an increase of stature. عمدہ-قد کی کشائش

بسط } اوسنے کشادہ کیا
He has extended.
بسط }
تو نے پھیلا یا
Thou hast stretched. بسطت

تو کھولتا ہے
Thou stretchest. تبسط

کھولنے والا
One who stretches. باسط

کھولنے والے
Those who extend. باسطون

دو کھولے ہوئے
Two extended ones. مبسطون

وہ کھولتا ہے
He extends. يبسط

وہ کھولتے ہیں
They are extending. يبسطون

بسر (بسر) He puts on an austere countenance.
منہ تہتیا یا

منہ بگاڑے ہیں
Are dismal looking. باسرة

آدمی (بشر) A man. آدمی

دو آدمی
Two men. بشرین

خوشخبری سنائی
Has preached good tidings. بشر

خوشخبری سنائی
Good tidings. بشرے

خوشخبری سنائی
To preach good tidings. بشر

خوشخبری سنائی
Preachers of good tidings. بشیر

خوشخبری سنائی
They have preached good tidings. يبشروا

تم اپنی عورتوں سے محبت کرتے ہو
Ye go into your wives. تباشروا

ہم نے خوشخبری دی
We have announced good news. نبشروا

وہ خوشخبری سنایا گیا
He was given good news. يبشر

تم نے خوشخبری سنائی
Ye have announced good news. نبشروا

تم خوش ہو
Ye are glad. ابشروا

تو خوشخبری سنائگا
Thou shalt preach good news. تبشرا

تم خوشخبری سنائو گے
Ye shall preach good news. تبشرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

مبشرون Those who announce joyful news.
خوشخبری دینے والے

مبشرات f. Those who announce joyful news.
خوشخبری دینے والیاں

مبشرون We are announcing joyful news.
ہم خوشخبری دیتے ہیں

مبشرون Is being given good news.
خوشخبری دیا جاتا ہے

مبشرون Are glad. خوش ہوتے ہیں

مبشرون f. One who rejoices.
خوش ہونے والی

آنکھ (بصر) An eye. آنکھ

دیکھنے والا
One who sees. بصير

دیکھنے والی
One who sees. بصيرة

دلیلیں Arguments or proofs. بصائر

بصرت f. She has looked or seen.
اوسنے دیکھا

میں نے دیکھا
I have seen. بصرت

اوسنے دیکھا
He has seen. ابصر

ہم نے دیکھا
We have seen. ابصرنا

تو دیکھ
Look or see thou. ابصر

وہ دیکھنے والا
One who sees or enables one to see. ابصرہ

کیا اسکو دکھلاؤ گے-کیا خوب دیکھنے والا
کیا اسکو دکھلاؤ گے-کیا خوب دیکھنے والا

آنکھیں Eyes. ابصار

صاف صاف سمجھانے کی دلیل
A manifest demonstration. تبصرة

تو دیکھو گے
Thou shalt see. تبصر

تم دیکھتے ہو
Ye are seeing. تبصرون

وہ دکھانے والا
One who causes to see. مبصر

وہ دکھانے والے
Those who causes to see. مبصرون

وہ دکھانے والی
One who cause to see. مبصرة

دیکھتا ہے
Is Seeing. يبصر

وہ دیکھتی ہے
sees or looks. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

وہ دکھاتے ہیں
They are showing. يبصرون

Clever or far-seeing persons. **سَدِّصِرِّين**
 خوب دیکھنے والے
 An onion. **بصل** پیاز
 Goods, sum of money, merchandize. **بضاعة** مال-اسباب-پونجی
 A small number. **بضع** چند یا کئی ایک
 Intimacy. **بطانة** (بطن) دوستی یا دلی محبت
 Lining. **بطائن** استر
 Belly. **بطن** پیت
 Bellies. **بطون** پیتیں
 Hidden. **باطن** چھپا ہوا
 Hidden. **باطنة** f. چھپی ہوئی
 Got hidden. **باطن** پوشیدہ ہوا
 To be insolent. **بطر** اترانا
 Became insolent. **بطرنت** f. اترائی
 To lay hold. **بطش** (بطش) گرفت کرنا یا پکڑنا
 Hold up. **بطشة** گرفت کر یا پکڑ
 Ye held. **بطشتم** تم نے پکڑا
 He seizes with severity. **بطش** وہ گرفت کرتا یا سخت پکڑتا ہے
 We are taking vengeance. **بطشون** ہم بدلہ لیتے ہیں
 We seize with severity. **بطش** ہم سخت پکڑتے ہیں
 Become vain. **باطل** (باطل) وہ فضول یا ناچیز ہوا
 That which becomes vain. **باطل** ناچیز ہونے والا
 Ye are frustrating. **باطلوا** تم ناچیز کرتے ہو
 Those who deal in vanities. **باطلون** بے مقصد یا بے مصرف کام کرنا
 Makes ineffectual. **باطل** بے اثر یا ضائع کرتا ہے
 To send. **بعث** (بعث) بھیجنا
 He raised. **بعث** اوسنے اٹھایا

He sends. **بعث** وہ بھیجتا ہے
 Is being raised (from death). **بعث** اوتھایا جاتا ہے
 Are being raised. **بعثون** اوتھائے جاتے ہیں
 We will raise up. **بعث** ہم اوتھائیں گے
 One who is raised. **بعثون** f. اوتھائی ہوئی
 Ye will be raised from the dead. **بعثون** تم مردوں میں سے کھڑے کئی جاؤ گے
 Thou hast rose. **بعث** تو اوتھا
 I shall be raised. **بعث** میں اوتھایا جاؤنگا
 Raise up. **بعثوا** اوتھاؤ
 We raised or lifted up. **بعثنا** ہم نے اوتھایا
 Have been raised. **بعثون** اوتھائے گئے
 He rose. **بعث** وہ اوتھا
 He took forth or raised. **بعث** اوسنے اوتھایا
 He is taken up or raised. **بعث** وہ اوتھایا گیا
 Is taken up or raised. **بعثت** f. وہ اوتھائی گئی
 After. **بعث** (بعد) پھر-پہچھے
 A distance. **بعث** فاصلہ
 Got far off. **بعثت** f. دوری ہوئی
 Got away. **بعثت** f. دور ہوئی
 Far away distant, remote. **بعثت** نہایت دور
 Separate. **بعثت** دوری ڈال
 Are removed far away. **بعثون** دور کئے گئے
 A portion of anything. **بعث** (بعض) کسی شے کا ٹکڑا
 A gnat. **بعث** مچھڑ
 A husband. **بعث** (بعث) خاوند
 Husbands. **بعث** شوہروں
 A full grown camel. **بعث** (بعث) پوری عمر کا اونٹ

Transgression, seek, desire, **بعث** (بعث) خطا-خواہش
 To search, desire, seek. **بعثوا** تلاش کرنا-چاہنا
 He has desired. **بعث** اوسنے چاہا
 They have desired. **بعثوا** ہم نے چاہا
 Thou hast desired. **بعثت** تو نے چاہا
 I am desiring. **بعث** میں چاہتا ہوں
 Search thou. **بعث** تو تلاش کر
 We are desiring. **بعث** ہم چاہتے ہیں
 Search ye. **بعثوا** تم دھوندو
 Thou mayst desire. **بعثت** تو چاہے
 Ye are desiring. **بعثون** تم چاہتے ہو
 We are desiring. **بعث** ہم چاہتے ہیں
 He is desiring. **بعث** وہ چاہتا ہے
 They are desiring. **بعثون** وہ چاہتے ہیں
 Is suitable, expedient, desirable. **بعث** اائق ہے
 A rebel, a harlot. **بعث** کسبی-سرکش
 He transgressed. **بعث** اوسنے سرکشی کی
 They acted insolently. **بعثوا** وہوں نے گستاخی کی
 He acted unjustly. **بعثت** اوسنے بے انصافی کی
 He was treated unjustly. **بعث** اوسپر ظلم کیا گیا
 Rebels. **بعث** f. بغاوت کرتی ہے
 To pass beyond, to exceed bounds. **بعث** حد سے گذرتا ہے
 They both are passing beyond bounds. **بعثان** دونوں حد سے گذرتے ہیں
 They are passing beyond bounds. **بعثون** f. حد سے گذرتی ہیں
 One who rebels, desiring, lusting. **بعث** مستی سے سرکشی کرنے والا
 Fornication. **بعث** بد کاری-حرام کاری
 Violent hatred. **بعث** (بعث) دشمنی

بغتة (بغت) On a sudden, suddenly. فوراً۔ یکایک

مگرا۔ بلکہ

بغال (بغل) Mules. خچریں

تجربہ کرنا۔ آزمانا

بقیة (بقی) That which is left, a relic. ہم نے جانچا۔ ہمارے جانچنے والے

باقی رہنے والا۔ بچا ہوا

بقیہ (بقی) That which remaineth. جو بچ رہا

اوسنے آزمایا

Permanent, constant. مدامی۔ ہمیشہ رہنے والا

تم آزماؤ

Survivors, rest. جو باقی رہ گئے۔ بچنے والے

وہ آزمائے جاتے ہیں

f. That which remains, constant. پیچھے رہنے والی

To be worn out. یہہ پرانا ہوتا ہے

f. Which are permanent. بچی ہوئیں۔ جو مدامی ہیں

پائدار

Permanent. پائدار

وہ باقی رکھی گئی

f. It leaveth. It leaveth. It leaveth

ہمیشہ بچ رہیگا

Shall remain. Shall remain. Shall remain

بیل (بقر) Ox. بیل

ایک بیل

An ox. ایک بیل

کائیں

Cows. کائیں

بقرات

جگہ کا کونہ

(بقع) بقعة A corner of ground. جگہ کا کونہ

سبزی۔ ساگ

Herbs, pot-herbs. سبزی۔ ساگ

بقل (بقل) بقل

بکری (بکی) Wept. روتے ہوئے

وہ روتی

Those who mourn. روتے والے

بکی

روتے ہیں

Are weeping. روتے ہیں

روتے کا باعث ہونا

To cause to weep. روتے کا باعث ہونا

بکر (بکر) A virgin, a young heifer. کنواری

کنواریاں

Virgins. کنواریاں

بکرۃ

Early in the morning, morning. بہت صبح

وقت صبح

The morning. وقت صبح

بکرۃ

A name of Mecca. مکہ کا نام

(بکہ) بکہ

بکر (بکم) Dumb. گونگا

But, not so, but, nay, rather. بل (بل) بل

To try, prove, experience. بلا (بلا) بلا

تجربہ کرنا۔ آزمانا

We have tried, tested. ہمارے جانچنے والے

ہم نے جانچا۔ ہمارے جانچنے والے

He tried, tested. اوسنے آزمایا

وہ آزمایا گیا

Was tried. وہ آزمایا گیا

You examine. تم آزماؤ

تجربہ کرنا۔ آزمانا

They are being tried. تم آزماؤ

وہ آزمائے جاتے ہیں

To be worn out. یہہ پرانا ہوتا ہے

وہ جانچی جاتی ہے

f. Is being tried. وہ جانچی جاتی ہے

You are being tried. تم آزماؤ

تم آزمائے جاتے ہو

One who tests or tries. آزمائے والا

آزمائے والا

Testers, examiners. جانچنے والے

جانچنے والے

We are trying or testing. ہم جانچتے ہیں

ہم جانچتے ہیں

We will try. ہم جانچینگے

وہ آزماتا ہے

He is trying. وہ آزماتا ہے

وہ آزماتے ہیں

They are trying. وہ آزماتے ہیں

وہ آزماتا ہے

He tries. وہ آزماتا ہے

A warning, that which is published. بلاغ (بلاغ) بلاغ

پہنچانا۔ آگاہ کرنا

To arrive at. پہنچنا

دونوں پہنچے

Both arrived. دونوں پہنچے

وہ پہنچے

They arrived or reached. وہ پہنچے

وہ پہنچی

f. Reached. وہ پہنچی

انہوں نے پوری کی

f. They fulfilled. انہوں نے پوری کی

تو نے پایا

Thou hast recieved. تو نے پایا

ہم پہنچے

We have attained, arrived. ہم پہنچے

تو پہنچا دے

Publish or deliver thou. تو پہنچا دے

موثر۔ قصیح

Affecting, eloquent. موثر۔ قصیح

I will arrive or attain. میں پہنچوں گا

ابلاغ

They have executed or fulfilled. انہوں نے پہنچایا یا پورا کیا

ابلاغوا

I have made known or delivered. میں نے پہنچا دیا

ابلاغت

تو پہنچا

Deliver thou. تو پہنچا

ابلاغ

I am arriving or attaining. میں پہنچتا ہوں

ابلاغ

One who attains. پہنچنے والا

بالغ

Those who attain. پہنچنے والے

بالغون

کامل عقل

Consummate. کامل عقل

بالغة

A goal, perfection. کسی حد کو پہنچانا

مبلغ

وہ پہنچاتا ہے

Attains reaches. وہ پہنچاتا ہے

مبلغ

وہ دونوں پہنچینگے

They both will reach or attain. وہ دونوں پہنچینگے

مبلغا

وہ پہنچتے ہیں

They will reach or attain. وہ پہنچتے ہیں

مبلغون

وہ جو پہنچاتے ہیں

وہ جو پہنچاتے ہیں

برابر ہوگا یا پہنچینگا

Shalt be equal. برابر ہوگا یا پہنچینگا

تدبغوا

Ye are arriving or attaining. تم پہنچتی ہو

تم پہنچتی ہو

A city, country, region. بلد (بلد) بلد

حصہ۔ شہر۔ ملک

One city, territory. ایک شہر۔ مملکت

بلدۃ

Cities, regions. شہروں۔ ملکوں

بلاد

البتہ

Yea, surely, verily. البتہ

(بلی) بلی

چھتدار عمارت

A ceiled roof. چھتدار عمارت

بذاء

A builder. عمارت بنانے والا

بذاء

انہوں نے بنایا

بنوا

They built. انہوں نے بنایا

بذوا

اوسنے بنایا

He built. اوسنے بنایا

بذی

عمارت

A building. عمارت

بذیان

ہم نے بنایا

We built. ہم نے بنایا

بذینا

تم بناتے ہو

You are building. تم بناتے ہو

تبدون

Build thou. تو بنا ^{ابن}
 You build. تم بناؤ ^{ابنوا}
 Son. بیٹا ^{بن}
 Sons. بیٹے ^{بنون}
 Younger son. چھوٹا بیٹا ^{بنی}
 Daughters. بیٹیاں ^{بنات}
 Daughter. بیٹی ^{بنت}
 Son. بیٹا ^{ابن}
 Son. بیٹا ^{بنی}
 Two sons. دو بیٹے ^{ابن}
 Sons. بیٹے ^{بنون}
 Daughter. بیٹی ^{ابناء}
 Two daughters. دو بیٹیاں ^{ابنتی}
 Perdition. ہلاکت-خرابی (بار) ^{بوار}
 Wicked, one who is lost. ^{بور}
 برباد شدہ-بد ذات-دشمن ^{بور}
 Will be lost. برباد ہوگا ^{بور}
 Thou shalt be lost. تو برباد ہوگا ^{بور}
 حیران ہوا (بہت) ^{بہت} Was confounded.

An ark coffin. (تابوت) ^{تابوت}
 کشتی-صندوق جسپر مردہ کو لیجاتے ہیں
 Repented. اوسنے توبہ کی (تاب) ^{تاب}
 Two repented. دو نے توبہ کی ^{تابا}
 They repented. انہوں نے توبہ کی ^{تابوا}

f. Suddenly caught them with astonishment. ^{تدبہت} وہ ناگہان پکڑی گئیں
 Slander, columny. الزام ^{بہتان} فریب-جھوٹ-الزام
 Beauty, delight. خوشی-خوبی ^{بہجت} (بہج) ^{بہجت}
 Beautiful, delicious. خوش کرنے والا ^{بہیج}
 An animal, cattle, brute, beast. ^{بہیمہ} (بہم) ^{بہیمہ} چارپایہ جانور-مردی
 A well. کنواں ^{بئر} (بار) ^{بئر}
 Houses. گھروں ^{بیت} (بات) ^{بیت}
 When slept by. شب باشی کرتے ہوئے ^{بیت}
 Have meditated or consulted by night. رات کو مشورہ کیا ^{بیت}
 A house, abode, family. خاندان-گھر ^{بیت}
 Who pass the night. رات گزارتے ہیں ^{بیت}
 Are attacking by night. رات کو حملہ کرتے ہیں ^{بیت}
 We will attack by night. ہم رات کو حملہ کریں گے ^{بیت}
 To speak. بات کرنا. بولنا ^{بیت} (بان) ^{بیت}
 Between. درمیان ^{بیت}
 Open, manifest, evident. ظاہر-صاف کھلی ^{بیت}
 They declared. انہوں نے بیان کیا ^{بیت}
 We manifested, declared. ہم نے بیان کیا یا ظاہر کیا ^{بیت}
 Was manifested. وہ ظاہر ہوا ^{بیت}

ت

Tobes. توبہ کرتا ہے ^{توب}
 They are repenting. وہ توبہ کرتے ہیں ^{توب}
 Thou turned. تو پہرا ^{توب}
 I repented. میں نے توبہ کی ^{توب}
 Ye repented. تم نے توبہ کی ^{توب}

An argument, demonstration. ^{بیت} لیل
 Proofs, arguments. ^{بیت} ثبوت-دلیلیں
 Manifested proof. ^{بیت} صاف و کھلا نشان
 Declared. بیان کی گئیں ^{بیت} f. ^{بیت}
 Declared. بیان کی گئی ^{بیت} f. ^{بیت}
 We are declaring or manifesting. ^{بیت} ہم بیان کرتے ہیں
 Evident, manifest. ^{بیت} صاف و ظاہر
 Eggs. ^{بیت} اندے (بیض) ^{بیت}
 White things. سفید چیزیں ^{بیت}
 White, clear. صاف-سفید ^{بیت}
 Will be white. سفید ہوگا ^{بیت}
 Sold, disposed off. بیچا-الگ کیا ^{بیت} (باع) ^{بیت}
 You have sold. تم نے بیچا ^{بیت}
 To make a contract by striking hands of person or a thing. کسی چیز پر یا ہاتھ پر ہاتھ مار کر سودا کرنا ^{بیت}
 Seller. بیچنے والا ^{بیت} بائع ^{بیت}
 Ye have bartered. ^{بیت} تم نے خرید و فروخت کی
 Are exchanging, merchandizing. خرید و فروخت کرتے ہیں ^{بیت}
 Are declaring their faith or making promise of obedience. فرمانبرداری کا اقرار کرتے ہیں ^{بیت}
 Churches and schools. گرجے یا مدرسے ^{بیت} بائع ^{بیت}

Those who repent ^{توب} توبہ کرنے والے
 Repenting women. ^{توب} توبہ کرنے والیاں
 To repent. توبہ کرنی ^{توب}
 You repent. تم توبہ کرو ^{توب}

مَدَاب A penitent conversion (unto Him must I return).

پہرنے کی جگہ (خدا کی طرف رجوع کرنا)

تَوَاب One who repents. توبہ کرنے والا

تَوَابِین Those who repent. توبہ کرنے والے

تَقْوَبَا f. You both are repenting.

تم دونوں توبہ کرتے ہو

تَارَة A time. ایک وقت

تَبَّ وَه He shall perish. وہ ہلاک ہوگا

تَبَّتْ f. Shall perish. توت گئی

تَبَاب Destruction. ہلاکت

تَوْنَا A loss, detriment. توڑنا

تَبَاهِي Destruction. تباہی ہلاکت

تَبَرْنَا We destroyed. ہم نے ہلاک کیا

تَبَدَّرُوا Are destroying. ہلاک کرتے ہیں

تَبَدَّر To destroy. ہلاک کرنا

تَبَدَّل To get rid of. چھوڑنا

تَبَدَّل Make complete separation from the world and devote thyself wholly to God's Service.

تو دنیا سے چھوٹ کر خدا کی طرف رجوع کر

تَبَدَّر (بذر) To waste profusely.

بیجا خرچ کرنا

تَبَدَّر Thou art wasting profusely.

تو بیجا خرچ کرتا ہے

تَبَدَّرِین Spendthrifts. بیجا خرچ کرنے والے

تَبَسَّم Smiled. مسکرایا

تَبِع Follower. تابع

تَبِعُوا They followed. وہ تابع ہوئے

تَابِع One who follows. پیروی کرنے والا

تَابِعِین Followers. پیروی کرنے والے

تَابِع To follow. پیروی کرنی

تَابِع Followed. وہ تابع ہوا

تَابِعُوا They followed. وہ پیچھے چلے

تَبِعْت 'Thou followed. تونے پیروی کی

تَبِعْتُمْ You followed. تم نے پیروی کی

تَبِعْتُ I followed. میں نے پیروی کی

تَبِعْنَا We followed. ہم نے پیروی کی

تَبِعُ I am following. میں تابع دار ہوں

تَبِعْ Follow thou. تو تابع ہو

تَبِعُوا You follow. تم تابع دار کرو

تَبِعَ He followed after. وہ پیچھے چلا

تَبِعُوا They were followed.

وہ پیچھے چلائے گئے

تَبِعْ Thou follow. تم پیروی کرو

تَبِعْ Lest thou follow. مبادا تو پیچھے آوے

تَبِعَانْ You both will or shall follow.

تم دونوں پیروی کر گے

تَبِعُونَ You are following. تم پیچھے چلتے ہو

تَبِعَانْ In succession, consecutively.

پہلے در پہلے

تَبِعُوا They were persued.

وہ پیچھا کئے گئے

تَبِعْنَا We are following.

ہم پیچھا کرتے ہیں

تَبِعْ We bring in the latter times.

ہم پیچھے سے لاتے ہیں

تَبِعْ Follows. پیچھا کرتا ہے

تَبِعُونَ They are following.

وہ پیروی کرتے ہیں

تَبِعْ Title of the king of the Himayarites.

یہہ یمن کے بادشاہ کا لقب ہے

تَبِعْ A follower. پیچھے چلنے والا

تَبِيْدُ f Was perished.

وہ خراب یا ہلاک ہو گئی

تَبَدَّلُوا Are removed from.

جدا ہوتے ہیں

تَبَدَّرُوا One after another.

پہلے در پہلے

الزام (ثوب) Blame. تشریب

بِجَارَة Bargain, merchandise, merchandizing. بیوپار

تَبَاغِرُون (جار) You are making your supplication. تم چلاتے ہو

تَبَاغِرُون Are making supplication.

ذاری کرتے ہیں

تَبَجَسَّسُوا (جس) They searched.

ادنیوں نے تلاش کیا

تَبَاغِرُون (حض) You are urging one another. تم آپس میں تاکید کرتے ہو

تَبَاغِرُون Stirreth, solituous. آمادہ-برافروختہ

تَبَاغِرُون (جس) You are restraining or binding. تم بند کرتے ہو

وہ روکے He may restrain.

تَبَاغِرُون (تحت) Below, down.

نہایت گہری میں-نیچے

تَبَاغِرُون (حرک) Thou art shaking. تو ہلاتا ہے

تَبَاغِرُون (حلق) You are shaving.

حجامت کرتے ہو

تَبَاغِرُون Those who shave their heads.

سر مندوانے والے

تَبَاغِرُون (حاد) Thou art avoiding.

تو کنارہ کرتا ہے

تَبَاغِرُون (خفت) Thou art conversing or reading in a low tone.

تو آہستہ پڑھتا ہے

تَبَاغِرُون Are speaking in a low voice.

چپکے کہتے ہیں

تَبَاغِرُون (خط) Thou art writing. تو لکھتا ہے

تَبَاغِرُون (نخرة) You are storing.

تم ذخیرہ کرتے ہو

تَبَاغِرُون f. Are driving.

وہ ہانکتی ہیں

تَبَاغِرُون f. Will forget. بہول جائیگی

تَبَاغِرُون (ترب) Breast bones. سینہ کی ہڈیاں

تَبَاغِرُون Dust, earth. خاک-مٹی

مَدْرَبَةٌ One who lieth on the ground, poor.
شریجہ خاک میں پڑا ہوا

أَنْرَابٌ Of an equal age. ہمسرا

تَهْرَبْنَا To wait. (ربص) تریبص

تَمَّ نَے انتظار کیا تَرَبَصْتُمْ

تَمَّ نَے انتظار کرتے ہو تَرَبَصُونَ

مَنْ تَرَبَّصٌ One who expects or waits.

انتظار کرنے والا

أُولَئِكَ تَرَبَّصُونَ Those who wait. والے

نَتَرَبَّصُ We are watching or waiting.

ہم انتظار کرتے ہیں

يَتَرَبَّصُ He watches, expects or waits.

وہ انتظار کرتا ہے

يَتَرَبَّصُونَ They are watching.

وہ انتظار کرتے ہیں

يَتَرَبَّصْنَ Should watch. کریں

تَرَدَّى Fell down. (ردی) تری

مَنْ تَرَدَّى f. Who falls. والی

تَرَدَّيْنِ Thou shalt be thrown down.

تو بھینکا جاوے گا

أَرَدَى Has brought to destruction.

برباد کیا یا کھپایا

أُتْرِكَ Left or abandoned. (ترک) تری

أُتْرِكْتُ I left. میں نے چھوڑا

تَمَّ نَے چھوڑا تَرَكْتُمْ }
تَرَكْتُمُوْا } You left.

أَتْرَكُوا They left. اونہوں نے چھوڑا

تَارِكٌ One who leaves, leaves out.

چھوڑنے والا

تَارِكُوا Those who leave. چھوڑنے والے

يَتْرَكُ Is being left. چھوڑا جاتا ہے

يَتْرَكُونَ They will be left. چھوڑے جائیں گے

نَتْرِكُ We are leaving. ہم چھوڑتے ہیں

f. Is being despised. (زرا) تَزَدَّرِي

وہ حقیر جانی جاتی ہے

تَسَامَاوَا Delay, neglect, disdain. (ستیم)

سستی یا کھاپی کرو

يَسَامُ Gets tired, dislikes, wearied.

ناپسند کرتا یا تھک جاتا ہے

يَسَامُونَ Disdain. دق ہو جاتے ہیں

(تسع) تَسْعَةُ }
تَسْعٌ } Nine. نو

تِسْعُونَ Ninety. نويے

تَسْفِكُونَ (سفک) You will shed blood.

تم خونریزی کرو گے

يَسْفِكُ Who sheds blood.

وہ خونریزی کرتا ہے

تَسْنِيمٌ (سنم) Name of a fountain in Paradise. بہشت کے ایک چشمہ کا نام ہے

تَسْتَمِتُ (شمت) Thou causeth them to rejoice over me. تو خوش کرتا ہے

تَصَدَّى (صدا) Receiving with acclamation or respectfully. تو عزت کے ساتھ قبول کرتا ہے

تَصَدِيْقَةٌ Clapping of the hands. تالی بجانا

تَصَعَّرٌ (صعر) Making a wry face.

تو گال پھلاتا ہے

f. Returns. (صار) تَصَيَّرٌ

پہیرتی ہے

تَصَيَّرٌ The act of going, a journey, to go, tend towards. پہیرنے کی جگہ

تَعْتَوُا (عنا) You are committing evil.

تم خرابی مچاتے پھرتے ہو

تَعْمِسُ Destruction. (نعس) تَعْمِسُ

ہلاکت

تَعْقِلُوْا (عقل) You are ingenious, prudent, understanding. تم سمجھتے ہو

تَعَفُّفٌ (عف) Modesty, abstain.

پریہیز کرنا نہ مانگنا

يَسْتَعْفِفُ He abstains. وہ بچتا ہے

يَسْتَعْفِفُونَ Are abstaining. ہیں بچتی ہیں

تَعْوَلُوا (عال) You turn aside.

تم ایک طرف جھکتے ہو

تَعَابِيْنٌ (عین) Mutual deceit. دھوکھا دینا

تُغْمَضُوا (غض) You connive.

تم آنکھیں مٹکاتے ہو

تُقَفِّثُ (تفت) Filth and dirt. ملاطمت میل کچیل

تُفَسِّرُ (فسر) An explanation or interpretation. صاف صاف کھولکر کہنا

تُفَضِّحُوا (فضح) You are exposing to shame.

تم رسوا کرتے ہو

تُفْقِدُ (فقد) He reviewed or searched.

ارسنے تلاش کیا

تُفْقِدُونَ You are searching. تم دھوندتے ہو

نُفِقُوا (نفق) We are searching. ہم دھوندتے ہیں

تُفْقَهُونَ (فقه) You do understand.

تم جانتے ہو

يُفْقَهُونَ They do understand. وہ جانتے ہیں

يُنْفِقُوا Will or shall learn. سمجھہ پیدا کریں گے

نُفِقُوا We do understand. ہم سمجھتے ہیں

تُفَنِّدُونَ (فند) You think that I dote.

تم مجھکو بھکا ہوا جانتے ہو

تَتَمَشَّعُونَ (اتشعر) Trembling with terror.

دنگتے کھڑے ہوتے ہیں

تُكَلِّفُ (كلف) Thou art being compelled or obliged.

وہ تکلیف دیتا ہے

يُكَلِّفُ He compels or obliges.

مُتَكَلِّفٌ A troublesome meddler.

f. Will be cauterized. (کوي) تَكْوِي

داغ دی جائیگی

تَتْلَاؤُا (تلا) To read, rehearse. پڑھنا

أَتْلُوْا I read. میں نے پڑھا

f. Are rehearsed. (تليت) تَلِيْتٌ

تُوْا Thou art reading. تو پڑھتا ہے

تَتْلَوْنَ You are reading. تم پڑھتے ہو

أَتْلُوْا I will read. میں پڑھوں گا

تُرَدُّوْا You read. تو پڑھ

تُرَدُّوْا You read. تم پڑھو

ہم پڑھتے ہیں۔ We are reading. تَلَفُوا

وہ پڑھتا ہے۔ He reads. يَتْلُو

پڑھتے ہیں۔ Are reading. يَتْلُونَ

وہ جو پڑھا جاتا۔ What hath been read. يَتْلَى

پیچھے آیا۔ Gone after or followed. تَلَى

تو پھیرتا ہے۔ Thou art turning aside. تَلَفْتَ

پھر کر متوجہ نہیں ہوتا۔ Do not turn or look back. لَا يَلْتَفِتْ

جلادہنگی۔ Will scorch or burn. تَلْفُ

وہ جلدی نگلتی ہے۔ Swallows up quickly. تَلْفَفْ

تمام۔ پورا۔ Entire, complete. تَمَّ

وہ پورا ہوا۔ That was completed or fulfilled. تَمَّ

وہ پورا ہوا۔ That was completed or fulfilled. تَمَّ

وہ پورا ہوا۔ That was completed or fulfilled. تَمَّ

وہ پورا ہوا۔ That was completed or fulfilled. تَمَّ

وہ پورا ہوا۔ That was completed or fulfilled. تَمَّ

دوسرا۔ Second. ثَانِي

دو مرد۔ Two men. اِثْنَانِ

دو۔ Two. اِثْنَانِ

دو عورتیں۔ Two women. اِثْنَتَيْنِ

دہرائی کٹی۔ Repeated portions. مَثَانِي

دو دو۔ Two and two. مَثْنَانِ

وہ انشا الہ کہہ کر فرق نہیں کرتے۔ They do not make exception by saying (D. V.) لَا يَسْتَفْتِرُونَ

وہ انشا الہ کہہ کر فرق نہیں کرتے۔ They do not make exception by saying (D. V.) لَا يَسْتَفْتِرُونَ

مضبوط ٹھہرنا۔ To be firm, steadfast. ثَابِتٌ

مستقل۔ قائم۔ Remaining firmly, fixed. ثَابِتٌ

قائم رکھے۔ Keep firm. ثَابِتٌ

ہم نے قائم رکھا۔ We kept firm. ثَابِتٌ

تم قائم رکھو۔ You hold steadfast. ثَابِتٌ

قائم کرنا۔ Establishes. ثَابِتٌ

قائم کرنا۔ Establishes. ثَابِتٌ

وہ پوری ہوئی۔ Was fulfilled, ended. تَمَّتْ

پورا کرنے والا۔ One who completes. مُتَمِّمٌ

تمام کرتا ہے۔ Is completing. يَتِمُّ

اوسنے پورا کیا۔ He ended, fulfilled. اَتَمَّ

تو پورا کر۔ Thou complete or fulfil. اَتَمِّمِ

میں نے پورا کیا۔ I fulfilled. اَتَمَمْتُ

میں پورا کرونگا۔ I will fulfil. اَتَمُّ

تم پورا کرو۔ You complete. اَتَمُوا

تم پورا کرو۔ You complete. اَتَمُوا

تم شام کرتے ہو۔ The evening overtaketh you. تَمَسُّونَ

پھٹ پڑے۔ پارہ پارہ ہو جائے۔ Bursting or making distinction. تَمَيَّزٌ

جدا کرتا ہے۔ Separates, discriminates. يَمَيِّزُ

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم جدا ہو جاؤ۔ Be ye separated. اِسْتَأْزِرُوا

تم بلاؤ گے۔ You will call. تَذَابِرُوا

قبضہ کرنا۔ قبول کرنا۔ دست دس۔ The act of taking or receiving. تَذَاوَشٌ

تم تراشتے ہو۔ You are carving or scraping. تَذَكِّتُونَ

وہ تراشتے ہیں۔ They are carving. يَذَكِّتُونَ

تھکاتی ہے۔ Makes tired. تَذْوَةٌ

تندور۔ An oven. التَّنُورُ

تم دو مرد سستی کرتے ہو۔ You two men are neglecting. تَذِيْبًا

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

کلام الہی۔ موسیٰ کی پانچ کتابیں۔ The Pantateuch. تَوْرَاتٌ

ث

ہم ثابت اور برقرار رکھتے ہیں۔ We are setting fast. نَذَبْتُ

وہ مستقیم رکھتا ہے۔ He keeps firm. يَذْبِتُ

وہ قائم رکھتا ہے۔ He sets fast. يَذْبِتُ

وہ بٹھاتے ہیں۔ They are fixing. يَذْبِتُونَ

تم ثابت رہو۔ You remain steadfast. اَذْبِتُوا

آدمیوں کا گروہ۔ A company of men. ثَبَاتٌ

چمکنا۔ Shining. ثَابِتٌ

پار۔ Find, receive. ثَقَّفُوا

اگر تو پارے۔ If thou find. تَتَّقِنِ

اگر وہ پاریں۔ If they find or get. يَتَّقِفُوا

پائے جایں۔ Are found. تَتَّقُوا

رہنے والا۔ A dweller. ثَاوِي

گھر۔ رہنے کی جگہ۔ A dwelling, abode. مَثْوَى

گھر۔ رہنے کی جگہ۔ A dwelling, abode. مَثْوَى

گھر۔ رہنے کی جگہ۔ A dwelling, abode. مَثْوَى

تیسرا۔ Third. ثَالِثٌ

تیسری۔ Third. ثَالِثَةٌ

تین عورتیں۔ Three women. ثَلَاثٌ

ایک تہائی۔ One-third. ثُلُثٌ

دو تہائی۔ Two-thirds. ثُلُثَانِ

تین مرد۔ Three men. ثَلَاثَةٌ

تیس۔ Thirty. ثَلَاثُونَ

تیس۔ Thirty. ثَلَاثِينَ

تیس۔ Thirty. ثَلَاثِينَ

تیس۔ Thirty. ثَلَاثِينَ

تیس۔ Thirty. ثَلَاثِينَ

تیس۔ Thirty. ثَلَاثِينَ

تیس۔ Thirty. ثَلَاثِينَ

تیس۔ Thirty. ثَلَاثِينَ

تیس۔ Thirty. ثَلَاثِينَ

جامدہ (جمد) That which is firmly fixed.

جمے ہوئے

جب (جب) A dark cistern with deep water.

جس کنوے میں اندھیرا ہو اور پانی بہت ہو

جبال (جبلہ) Foreheads. پیشانیوں

جبین (جبین) A forehead. پیشانی

جبار (جبر) Strong, powerful. نہایت زبردست

جبارین The mighty ones. زبردست لوگ

جبل (جبل) A mountain. پہاڑ

جبال Mountains. کئی پہاڑ

جبل A crowd, a multitude. جماعت-آدمی

جبلۃ Creation, generation. پیدائش

جبت (جبت) An idol, false deity.

بت-جہوتہے معبود

جبرئیل The Angel Gabriel.

ایک فرشتہ کا نام

جحیم (جہم) Hell-fire, Hell.

دوزخ کے پانچویں طبقہ کا نام ہے

جحدوا (جحد) They refused or denied.

اور انہوں نے انکار کیا

يُجحد He refuses or denies.

وہ انکار کرتا ہے

يُجحدون Are refusing. انکار کرتے ہیں

جد (جد) Majesty, glory. بزرگی

جدید New. نیا

جدن A track. راستے

جدار (جدار) Fence or a wall. بارہہ-دیوار

أجدر More fitting or easier. آسان-بہت لائق

جدر Fence or walls. دیواریں

جدال (جدل) Dispute. جھگڑا-لڑائی

جدل To dispute. جھگڑنا-لڑنا

تجدال Thou disputest. تو جھگڑتا ہے

تجدالون You are disputing. تم جھگڑتے ہو

جدالوا He should dispute. وہ جھگڑے

تجدالت Thou disputed. تو نے جھگڑا کیا

تجدالتم You disputed. تم نے جھگڑا کیا

تجدال Dispute thou. تو جھگڑ کر

يُجدال He is disputing. وہ جھگڑتا کرتا ہے

يُجدالون They are disputing.

وہ جھگڑتے ہیں

جداز (جد) A broken piece. ٹوٹے ہوئے ٹکڑے

مجدود Broken. ٹوٹا ہوا

جدوة (جدوا) f. A burning coal or fire-brand. آگ کا ٹکڑا

جدوع (جدع) The trunk of the Palm tree.

کھجور کا ٹھنڈ

جدع The body of the Palm tree.

کھجور کے ٹھنڈے

جدرا (جدرا) Locusts. قندیاں

جدز (جدز) Dry ground bare of herbage.

صاف زمیں جس میں نباتات نہ ہوں

جدف (جدف) A water-worn bank of earth.

پانی کا گڑھا-حوض

لاجرم (جرم) Undoubtedly. بیشک

أجرام Sin, guilt, aniquity, گناہ

أجرموا They sinned. انہوں نے گناہ کیا

أجرمنا We sinned. ہم نے گناہ کیا

مجرم Sinner, transgressor. گناہ گار

مجرمون Sinners, transgressors. گناہ گاران

يُجرم He commits sin. گناہ کرتا ہے

جرحتم (جرح) You wounded or hurt.

تم نے زخم کیا

جروح Wounds. زخموں

أجرتوا They acquired or deserved.

اور انہوں نے حاصل کیا

جوارح Beasts of prey. شکاری جانور

جرین (جری) f. Ran or moved. وہ چلے

جارية An ark. کشتی

جاريقان Arks. کشتیاں

نجري Flowing. جاری ہوتی ہے

تجريان They both are flowing.

دونوں جاری ہوتی ہیں

مجرى To flow. بہنا

يجري Flows. بہتا ہے

جزوع (جزع) Impatient. بیقرار

جزعنا We were impatient or impatiently. ہم بیقرار ہوئے

جزاء (جزا) Recompense, reward. انعام-بدلہ

جزا One who rewards. بدلہ دینے والا

جزى f. Will be useful. وہ کام آنگی

تجزى Thou shalt be rewarded.

تو بدلہ دیا جائگا

تجزون You will be rewarded.

تم بدلہ دئے جاؤ گے

نجزى We shall be rewarded.

ہم بدلہ دئے جائینگے

نجزى We are rewarding.

ہم بدلہ دیتے ہیں

يجزى He compensates. وہ بدلہ دیتا ہے

يُجزى He is being compensated.

وہ بدلہ دیا جاتا ہے

يُجزون They are being rewarded.

وہ بدلہ دئے جاتے ہیں

جزيت I rewarded. میں نے بدلہ دیا

جزبنا We rewarded. ہم نے بدلہ دیا

جزية Tribute. محصول

جزء (جزاء) A part, portion. ٹکڑا-حصہ

جسد (جسد) A body. بدن

جسم (جسم) Bodies. بدنوں

جعل (جعل) He made or appointed.

اوسنے بنایا

Two made. دو نے بنایا

He made. اوسنے کیا

You fixed. تم نے تھہرایا

I fixed or ordained.

میں نے مقرر کیا یا تھہرایا

We imposed or ordained.

ہم نے مقرر کیا

Was imposed. وہ کیا

One who places or constitutes.

بنانے والا

Those who constitute. بنانے والے

I will impose or fix. میں تھہراؤنگا

Impose thou. تو تھہرا

You impose or fix. تم تھہراؤ

Thou art imposing. تو تھہراتا ہے

You are attributing. تم تھہراتے ہو

We will make. ہم بنائینگے

He appoints. وہ تھہراتا یا کرتا ہے

They are making. وہ بناتے ہیں

They constituted or appointed.

انہوں نے تھہرایا

Froth, foam. پھین-کوزا-کرکت

A large dish, trencher. (جفن) جفان

بڑی تھالی-لگن

A large outer covering worn by women. (جلب) جلابیب

Banishment, to be ruined. (جلا) جلاء

He revealed. اوسنے روشن کیا

Has appeared. ظاہر ہوا

Reveals or manifests. روشن کرتا ہے

Majesty. (جل) جلال

A whip or a flogging. (جلد) جلد

Skins, hides. کھالیں

You should whip or scourge. اجدوا

تم درے مارو

Much. (جم) جم

Grace, elegance. فصاحت-خوبی

A row of camels. ارنقوں کی قطار

Complete, perfect. جملة

پورے طور سے-یکبارگی

Decorous, gracious. عمدہ خوب

(جمع) جمع } اکٹھا ہونا

He gathered. اوسنے اکٹھا کیا

Two hosts. دو جماعتیں

All. تمام-سب

They gathered. انہوں نے اکٹھا کیا

We collected. ہم نے اکٹھا کیا

Was collected. اکٹھا کیا گیا

One who collects. اکٹھا کرنے والا

f. They gathered together.

وہ جمع ہوئیں

Gathered together. جمع ہوئے

They collected. انہوں نے جمع کیا

All. تمام-سب

You will gather. تم جمع کروگے

A place of meeting. ملنے کی جگہ

That which is gathered. جمع کیا ہوا

Which are gathered. جمع کئے ہوئے

Those who gather together. جمع ہونے والے

We will gather. ہم جمع کریں گے

He gathers. وہ جمع کرتا ہے

They are gathering.

جمع کرتے ہیں

Friday. جمعہ-جمعہ

Genii, demons, spirits. (جن) جن

Demons, spirits. بیہوت-پریت

Fœtus. (رحم کے اندر کے بچے)

Mad. پاگل

A paradise. باغ بہشت

Two paradises. دو باغ بہشت

Gardens. باغات

Has covered. ڈھانپ لیا

A thin serpent. باریک سانپ

Fresh dates ready gathered. (جنی) جنا

انازہ چنے ہوئے میوے

A hand, wing, to incline. (جنم) جناح

بازو-رجوع کرنا

A crime. جرم-گناہ

Two hands or wings. دو بازو

Wings, arm, armpit. بازو بغل

Inclined. (وہ رجوع ہوئے-وہ جھکے)

A side. (جنب) جنب

Sides. پہلووں اطراف

Shall be removed far from the same. اُس سے بچایا جائیگا

Aside. ایکطرف

Turns away. دور ہوتا ہے

They are avoiding. وہ بچتے ہیں

You should avoid. تم بچو

If ye turn aside. اگر تم بچو

Avoid thou. تو بچا

An army, troops. (جند) جند

فوجیں Troops, forces. جندون
 (جنف) A swerving from the right
 way. حق سے درگزر کرنا۔ ناانصافی۔ طرفداری۔
 Inclining to evil. مدجنف
 نا انصافی کی طرف راغب ہونا
 Fresh (dates) ready gathered. (جنی) جنی
 تازہ چنی ہوئی کھجوریں
 Air, the Firmament. (جو) جو
 تالاب A cistern. (جبا) جواب
 Has collected or gathered. اجتبی
 اوسنے چن لیا
 Thou collected. اجتبی
 تونے چن لیا
 We collected. اجتبی
 ہم نے چن لیا
 Hunger. (جاع) جوع
 تو بھوکھا ہوگا۔ Thou shalt be hungry. تجوع
 Name of a mountain. (جاد) جودی
 ایک پہاڑ کا نام
 Swift. (جیاد) جیاد
 تیز
 The belly. (جاف) جوف
 پیٹ

To fight with infidels. (جہد) جہاد
 کافروں سے لڑنا
 Striving with might and main. جہد
 خدا کی راہ میں کوشش کرنی
 He has strived for the religion of
 God. اوسنے خدا کی راہ میں کوشش کی۔ جہد
 Both have strived. جہدا
 دونوں نے کوشش کی
 They strived. جہدوا
 انہوں نے کوشش کی
 Strive thou. جہد
 تو کوشش کر
 You fight. جہدوا
 تم جہاد کرو
 You are fighting. تجاہدون
 تم جہاد کرتے ہو
 Those who fight for the cause
 of Islam. مجاہدون
 جہاد کرنے والے
 He fights. یجہد
 وہ جہاد کرتا ہے
 They are fighting. یجہدون
 وہ جہاد کرتے ہیں
 Hell. (جہنم) جہنم
 دوزخ
 In public, openly. (جہار) جہار
 آشکارا۔ ظاہرہ
 To speak aloud. جہر
 زور سے پکارنا

پکارا Has published or spoken. جہر
 کھلا Openly, manifestly. جہرہ
 Things necessary for a journey,
 Paraphernalia. سفر کا اسباب (جہز) جہاز
 Has got ready for journey. جہز
 سفر کے لئے تیار کیا
 Ignorance. (جہل) جہالہ
 نادانی
 Very ignorant, foolish. جہول
 بڑا نادان
 You are acting like an ignorant.
 تم جہالت کرتے ہو۔ تجہلون
 Ignorant. نادان
 نادان
 Ignorant persons. جاہلون
 جاہل لوگ
 Ignorance, جاہلیہ
 نادانی
 They are acting like an ignorant.
 وہ نادانی کرتے ہیں۔ یجہلون
 Vest or the bosom of a shirt. (جاب) جیب
 گریبان
 Vests. جیوب
 گریبان
 A neck. (جاد) جیدی
 گردن

ح

A want, something neces-
 sary, wish. (حاج) حاجۃ
 ضرورت
 One who hinders or restrains.
 (حجز) حاجز
 روکنے والا
 To withhold or to keep back.
 f. حاجزین
 باز رکھنا
 He opposed or hindered.
 (حد) حد
 اوسنے روکا یا مخالفت کی
 Sharp. حداد
 تیز
 Limit boundary. حد
 حد
 Iron. حدید
 لوہا
 He who opposeth.
 (حق) حداد
 وہ جو مخالفت کرتا ہے

Those who are opposing.
 جو دشمنی کرتے ہیں۔ یحادلون
 Far be it. (حاش) حاش
 ایسا ہرگز نہ ہو
 A violent wind bringing
 with it a shower of stones.
 (حاصب) حاصب
 پتھر برسانے والی ہوا
 Fuel. (حصب) حصب
 ایندھن
 Former condition. (حفر) حفرۃ
 اگلی حالت
 Those who go round about.
 (حف) حافین
 گرد پھرنے والے
 We surrounded. حففنا
 ہم نے چھپایا یا گھیرا
 Hem in, compass about. (حاق) حاق
 گھیر لیا

Surrounds in, compasses about.
 گھیرتا ہے۔ یحقیق
 Name of a superstitious camel.
 (حمی) حام
 ایک اونٹ کا نام
 Hot. (حمیة) حمیة
 گرم
 Marsh, hot spring. (حممة) حممة
 دلدل۔ گرم چشمہ
 Affectation cant. (حمیة) حمیة
 غیرت
 Shall be made hot. (حمیة) حمیة
 گرم کیا جائگا
 Friendship. (حب) حب
 دوستی
 He made friends. (حب) حب
 اوسنے دوستی کی
 A great friend. (حب) حب
 بڑا دوست
 I do love. (حب) حب
 میں دوست رکھتا ہوں

أصدقاء Friends. دوست

أحببت Thou loved. تونے دوست رکھا

أحببت I loved. میں نے دوست رکھا

أحببت You are loving. تم دوست رکھتے ہو

أحببت Friendship. دوستی

أحببت } He loves. وہ دوست رکھتا ہے

أحببت } Are loving. دوست رکھتے ہیں

أحببت They loved. انہوں نے دوست رکھا

أحببت } Grain. دانہ

أحببت Ropes, veins. رسیاں-دریدیں (حبل) حبال

أحببت A rope, cord. رسی

أحببت Was fruitless. (حبط) حبطا

وہ بے پھل یا ناچیز ہوا

أحببت f. Was perished. وہ ضائع ہوئی

أحببت Made fruitless. حبطا

اوسنے بے پھل یا ناچیز کیا

أحببت Was vain. وہ ناچیز یا بے مصرف ہوئے

أحببت Shall make fruitless. وہ ناچیز کریگا

أحببت Ways or tracks. راستے (جبک) جبک

أحببت A decree. ضروری-لازمی (حکم) حکم

أحببت Until, even, in order. (حتی) حتی

اگرچہ-جب تک

أحببت To run quickly. جلدی دوڑنا (حث) حثيث

أحببت The pilgrimage to Mecca. (حج) حج

مکہ جا کر حج کرنا

أحببت He performed the pilgrimage. حج

اوسنے حج کیا

أحببت Intended. ارادہ کیا

أحببت A fear. برس

أحببت Those who perform the pilgrimage. حج کرنے والے

أحببت An argument. دلیل

أحببت He disputed. اوسنے جھگڑا کیا

أحببت Those who are disputing. وہ جو جھگڑا کرتے ہیں

أحببت Are disputing. جھگڑتے ہیں

أحببت A rock. پتھر-چٹان (حجر) حجر

أحببت Stone. پتھر

أحببت The country inhabited by the tribe of Shamúd. قوم ثمود کی بستی کا نام

أحببت Forbidden. منع کیا گیا

أحببت Private chambers. کوٹھریاں

أحببت Bosoms, guardians. گودین-مکافض

أحببت A veil, curtain. پردہ (حجاب) حجاب

أحببت f. Shut out or was covered. پردہ کی گئی

أحببت A garden. باغ (حوق) حدائق

أحببت An elevation of the ground. بلند مقام (حطب) حطب

أحببت A story, event, history. بات (حدث) حدیث

أحببت Thou speak. تو بات کر

أحببت Shall declare. بیان کریگی

أحببت You are relating. تم روایت کرتے ہو

أحببت I will declare, narrate, produce. میں بناؤنگا

أحببت That which is newly produced or revealed. بنایا گیا

أحببت Produces, creates, invents. پیدا کرتا ہے یا ایجاد اختراع کرتا ہے

أحببت To beware. ڈرنا (حذر) حذر

أحببت Place of safety. مکان محفوظ

أحببت Take heed, fear. تو ڈر

أحببت You take care. تم ڈرو

أحببت That which is to be feared. نے کی چیز-ڈرا ہوا

أحببت He fears. وہ ڈرتا ہے

أحببت They fear. وہ ڈرتے ہیں

أحببت Fearing. ڈرتے ہو

أحببت He fears. وہ ڈرتا ہے

أحببت Heat. گرمی (حر) حر

أحببت A hot wind blowing by night. گرم ہوا جو رات کو چلے

أحببت A free-man. آزاد مرد

أحببت Fine silk. بارک ریشمی کپڑا

أحببت They attempted, inclined. انہوں نے قصد کیا

أحببت To give freedom. آزاد کرنا

أحببت Was freed. آزاد کیا

أحببت Forbidden. ناجائز-ناروا (حرم) حرام

أحببت Prohibits. وہ حرام کرتا ہے

أحببت Considering unlawful. الجائز سمجھتے ہیں

أحببت Forbidden things. منع کی ہوئی چیزیں

أحببت The sacred Ordinances of God. عزت کی چیزیں

أحببت He forbade. اوسنے منع کیا

أحببت They forbade. انہوں نے منع کیا

أحببت We forbade. ہم نے منع کیا

أحببت Is forbidden. وہ منع کیا گیا

أحببت f. Is forbidden. وہ منع کی گئی

أحببت That which is forbidden. حرام کیا ہوا

أحببت Unlawful one. حرام کی ہوئی

أحببت Thou makest unlawful. تو حرام کرتا ہے

أحببت You make unlawful. تم حرام کرتے ہو

لڑائی War. (حرب) حرب
 وہ جو لڑائی کرتے ہیں
 اوسنے لڑائی کی He fought. حرب
 بالا خانہ A private chamber. حبراب
 بالا خانے Private chambers. حبراب
 تنگی۔ ممانعت Narrow, a restriction. (حرج) حرج
 ارادہ A purpose. (حرد) حرد
 چوکیدار Guards. (حرس) حرس
 تونے آرزو کی Thou desired. (حرمى) حرصت
 تونے آرزو کی You desired. حرصتم
 تو للہجاتا ہے Thou art coveting. تحرص
 لالچی Covetous. حرص
 Excessive affliction. (حرض) حرض
 حد درجہ کا غم
 تیز کرنا To excite. حرض
 کنارہ A verge, margin. (حرف) حرف
 پیشہ کرنے والا One who follows a profession. محترف
 حرف پھیرنے ہیں Perverting. (حرف) يحرفون
 حرف پھیرنے ہیں
 تم جلاؤ You burn. (حرق) حرقوا
 جلانے والا Those who burn. حرق
 وہ جلیں f. Burned. احترقت
 ہم جلاینگے We shall burn. تحرق
 جماعت۔ گروہ A company. (حزب) حزب
 دو گروہ یا جماعتیں Two parties. حزین
 گروہیں Parties or companies. احزاب
 غم Grief, sorrow. (حزن) حزن
 غمگین Grieved. حزن

تو غم کھاتا ہے Thou art grieving. تحزن
 تم غم کھاؤ گے You will be grieved. تحزونون
 تم غم کھاؤ You grieve. تحزلی
 وہ غم کھاتا ہے He grieves. يحزن
 وہ غم ناک ہوتے ہیں They do grieve. يحزونون
 غم کھاینگی Will be grieved. f. يحزن
 گنا To calculate. (حسب) حساب
 میرا حساب تھا That was my account or calculation. حساب
 گنا Counted. حسب
 خیال۔ اندازہ Imagination, opinion. حسابان
 اوسنے خیال کیا He thought. حسب
 اونہوں نے سمجھا They thought. حسبوا
 وہ سمجھی f. She thought حسبت
 تونے خیال کیا Thou imagined. حسبت
 تمنے خیال کیا You imagined. حسبتم
 حساب لینے والا One who takes an account. حسب
 ہمنے حساب لیا We took an account. حسبنا
 گننے والے Calculators. حسبین
 تو سمجھتا ہے Thou dost understand. تحسب
 تم جانتے ہو You know. تحسبون
 وہ سمجھتا ہے He understands. يحسب
 وہ سمجھتے ہیں They understand. يحسبون
 وہ امید رکھتا ہے He expects. يحسب
 وہ امید رکھتے ہیں They do expect. يحسبون
 وہ حساب کرتا ہے He calls to account for. يحاسب
 وہ حساب کرتے ہیں They are calculating. يحاسبون
 وہ حساب کرتے ہیں Will be asked an account. يحاسب
 وہ حساب کیا جائگا

Good, beautiful things. (حسن) حسان
 نہایت عمدہ چیزیں
 نیک کرنا To do good. احسان
 نیکي Goodness. حسنی
 دونوں نیکیاں Both excellencies. حسنین
 نیک Excellent, good. حسن
 نیکي f. Goodness. حسنة
 وہ نیک ہوئی f. Was good. حسنت
 بہت اچھا Very good. احسن
 اوسنے نیک کرنا کی He did good. احسن
 انہوں نے نیک کرنا کی They did good. احسنوا
 تم نے نیک کرنا کی You did good. احسنتم
 تو نیک کرنا کر Thou do good. احسن
 نیک کرنا Do good. احسنوا
 تم نیک کرنا کر گے You will do good. تحسنوا
 نیک کرنے والا One who does good. محسن
 نیک کرنے والے Those who do good. محسنون
 نیک کرنے والیاں f. Good-doers. محسنات
 نیک کرتے ہیں Are doing good. يحسنون
 افسوس Ah! حسرة
 زک کھایا ہوا Stripped, destitute. حسور
 افسوس کرنا To sigh. حسرات
 تم افسوس کر گے You will sigh. تحسرون
 ماندہ۔ عاجز Fatigued, worn out. حسیر
 نہیں تھکتے Do not get worn out with fatigue. لايسئحسرون
 نرم آواز A soft sound. (حسن) حسيس
 معلوم کیا Perceived. احسن

احسوا They perceived. ادنیوں نے دریافت کیا

تَحْسِبُ Thou art perceiving. تو معلوم کرتا ہے

تَحْسَبُونَ You were driving or destroying. تم بھگاتے تھے یا ہلاک کرتے تھے

حسوم (حسم) Miseries in succession. پتے در پتے مصیبت

حسدا To envy, jealousy. کڑھنا (حسد) حسد کرنے والا

حاسد Jealous, envious. حسد کرنے والا

يَحْسَدُونَ Are jealous. جلتے ہیں

حشروا To gather, raise. جمع کرنا (حشر) حشر

حشر He gathered, raised. اوسنے جمع کیا

حشرت Thou hast raised. تونے اٹھایا

حشرنا We gathered. ہم نے جمع کیا

حشر Was gathered. وہ جمع کیا گیا

حشرت f. Was gathered. وہ جمع کی گئی

أحشروا You gather. تم جمع کرو

مكشوروا Gathered together. جمع کیا گیا

نكشرون We will gather. ہم جمع کرینگے

يَكشرون Is being gathered. وہ جمع کیا جاتا ہے

يَكشرون Are being gathered. جمع کئے جاتے ہیں

حاشرون Gatherers. جمع کرنے والے

حصاد (حصد) To reap. کاٹنا

حصيد Which was reaped or cropped. کاٹا ہوا

حصدم You reaped. تم نے کاٹا

حصص (حص) Was manifested, ظاهر ہوا

حصص (حص) Was manifested or obtained. حاصل کیا گیا

حصرت f. Was restricted. تنگ ہوئی

حصير A prison. قیدخانہ

حضور Restricted, hindered, modest, chaste. بار بار روکا یا پرہیز کیا

أحضروا You prevent or keep back. تم روکو

أحضروا Prevented روکے گئے

أحضرتم You were prevented تم روکے گئے

حصون (حصن) Fortresses. قلعے

أحصت He imprisoned. اوسنے بند رکھا

تحصن f. Preserves. وہ بچاتی ہے

تحصنون You are keeping back. تم روک رکھتے ہو

تحصن To be in a prison, chastity, fortified. پاک دامن رہنا قید میں رکھنا

أحصن Fenced in, fortified. قید کی گئیں

تحصنون You keep fortified. تم روک رکھتے ہو

محصدة f. That which was restricted. وہ جو قابو کی گئی

محصنين Married men. مرد نکاح کرتے والے

محصنات Married women. بیاہی ہوئی عورتیں

حضر (حضر) Stood in presence. وہ دوہرو ہوا

حضروا They stood in presence. وہ دوہرو ہوئے

لايخص Does not get excited. برا نگہبانی نہیں ہوتا

أحضرت Has presented. اوسنے دوہرو کیا

أحضرت f. Was brought in presence. وہ دوہرو کی گئی

يخصرون Are getting nigh. نزدیک ہوتی ہیں

حاضر In presence. دوہرو

حاضرة Present. موجود

نكضرون We will bring forward. ہم سامنے لائینگے

مكضرون Was presented. حاضر کیا گیا

مكضرون Were presented. حاضر کئے گئے

حطام (حطم) That which crumbles through dryness. ریزہ ہو کر

حطمة A name of Hell. کے ایک طبقے کا نام

يحطم Breaking into small pieces. ٹکڑے کرے

حطب (حطب) Fire-wood, fuel. لکڑیاں

حطاة Remission. معافی اترنا

حظ (حظ) A part, fortune. حصہ

حفدة Grand-children. پوتے

حفرة (حفر) A pit. گڑھا

حافرة Original state. ابتدائی حالت

حفي (حفي) Gracious, kind. مہربان

يحفف Asks. مانگتا ہے

حفظا To keep, guard. نگہبانی کرنا

حفيظ Guard. نگہبان

حفظا Guards. نگہبان

حفظا He guarded. اوسنے نگہبانی کی

حفظنا We guarded. ہم نے سنبھالا

احفظوا You take care. تم بچاؤ

أستكفروا Were entrusted and reminded. یاد دلائے گئے

نكفظ We are watching or guarding. ہم حفاظت کرتے ہیں

حافظ Keeper, custodian. نگہبان

حافظون f. Those who guard. نگہبانی کرنے والے

حافظات f. Those who guard. نگہبانی کرنے والیاں

مكفرون Well guarded. نگاہ رکھا گیا

يحفظون Keeping in mind. نگاہ رکھتے ہیں

يحفظون f. They preserve. وہ بچاتی ہیں

يحفظون Are guarding. نگہبانی کرتے ہیں

سچ Truth, just, right. (حق) حق
 سچ ہوا That which was proper or right.
 ثابت ہوئی Was proved, verified. f. حقت
 ثابت کی گئی Was proved, verified. f. حقت
 سزاوار ٹھیک Fitting, just. حقیق
 زیادہ لایق More just or worthy. احق
 ثابت ہوتا ہے Being proved or justified. یعق
 درست اور سچا کرتا ہے Makes right and true. یحق
 سچ ثابت ہوا Was proved true. حقیق
 ثابت ہونی والی That which is to be proved or justified. f. حاقہ
 بڑی مدت A long space of time. (حقب) حقب
 بڑی مدتیں A long space of time. احقاب
 زور-قوت Strength. (حکم) حکم
 اوسنے حکم کیا He ordered. حکم
 منصف Judge. حکم
 تونے حکم کیا Thou ordered. حکمت
 تم نے حکم کیا You ordered. حکمت
 بڑا حاکم A great judge or more wise. احکم
 تو حکم کر Order thou. احکم
 مضبوط کی گئی Guarded. f. احکمت
 تو حکم کریگا Thou shalt order. حکم
 تم حکم کرتے ہو You are ordering. حکمون
 مضبوط کی گئی Confirmed. f. حکمت
 مضبوط کی گئیں f. احکمت
 منصف-پختہ کار A wise judge, knowing. حکیم
 حاکم-منصف Judges. حکام
 پکی بات A wise thing, wisdom. حکمت
 فرماتا ہے Orders or commands. حکم

استوار کرتا ہے Strengthens. حکم
 دونوں حکم کرتے ہیں Both are ordering. حکمان
 وہ حکم کرتے ہیں They are passing an order. حکمون
 وہ حکم کرتے ہیں Are judging or deciding. حکمون
 فیصلہ کرتے ہیں They desire to go to judgment. حکمون
 فیصلہ چاہتے ہیں
 اترنا To alight or to descend. (حل) حل
 منکوحہ عورتیں Wives. حلائل
 واجب-روا Lawful. حلال
 حلال جاننے والے Those who consider lawful. محاسب
 قربانی کرنیکی جگہ Place of sacrifice. محلت
 محلت
 تم حلال ہوئے You become lawful. حلالتم
 اوسنے حلال کیا He made lawful. احل
 اونہوں نے کھولا یا اتارا They untied, alighted. احلوا
 اونہوں نے کھولا یا اتارا
 ہم نے حلال کیا We allowed. احلنا
 وہ حلال کیا گیا That is made lawful. احل
 وہ حلال کی گئی f. احلت
 وہ حلال کرتا ہوں I make it lawful. احل
 تو کھول یا اتر Descend or untie thou. احل
 تو کھول یا اتر
 نو حلال ہوتی ہے f. بحل
 حلال کرتا ہے Makes lawful. بحل
 تو حلال سمجھتے ہو You are considering lawful. بحلوا
 تم حلال سمجھتے ہو
 وہ حلال ہوتا ہے That becomes lawful. بحل
 حلال سمجھتے ہیں Are considering lawful. بحلون
 حلال سمجھتے ہیں
 وہاں تکے یا پہنائے جائینگے Will be covered or clothed. بحلون
 حلال ہوتے ہیں Are becoming lawful. بحلون
 حلال ہوتے ہیں

م اور اترنا To desolution of a vow. نحلہ
 پہنائے گئے Adorned. حاورا
 گلا The throat. (حلقم) حلقوم
 مت منداؤ Do not shave. (حاق) تحلقوا
 نے قسم کھائی You have sworn. (حلف) حلفتم
 قسم کھاتے ہیں Are swearing. بحلقون
 بڑا قسم کھانے والا A great swearer. حلاف
 عقل Understanding. (حلم) حلم
 خواب یا عقل Dream, intelligence. احلام
 زیور An ornament, trinkets. (حلی) حلیتہ
 زیورات Ornaments, jewellery. حلی
 گارا-کیچڑ Mud. (حما) حما
 گدھا An ass. (حمار) حمار
 گدھے Asses. حمالیر
 حمالیر
 حمالیر
 بہت اڑھانے والی f. A woman who carries much. (حمل) حملتہ
 لادنے والی A beast of burden. f. حمولتہ
 اُسنے اٹھایا Has carried. حمل
 حملتہ f.
 ہم نے اڑھایا We carried. حملنا
 وہ اڑھائی گئی Was carried. f. حملتہ
 وہ لادا گیا Was burdened. حمل
 لادے گئے Were burdened. حملوا
 ہم لادے گئے We were loaded. حملنا
 میں اڑھانگا I will carry. حمل
 تو سوار کر Thou carry into (ark.) حمل
 اوسنے اڑھایا He carried. حمل

حَمَلُوا They carried. ہرنہوں نے اڑتھایا
 اِحْمَال Load, burden. بوجھہ
 تَحْمَل Thou load. تو لادے
 حَمْل A burden, load. بوجھہ
 حَمْل Pregnancy, to conceive, with child. نطفہ قرار پانا
 حَمَل She carries. وہ اڑتھاتی ہے
 حَمَلون You are being burdened. تم لادے جاتے ہو
 حَمَل Which thou hast laid. جو تو نے دکھا ہے
 حَمَل We will bear. ہم اڑتھائیں گے
 حَمَل Raises or carries. وہ اڑتھاتا ہے
 حَمَلون Are carrying. اڑتھاتے ہیں
 حَمَل f. Raising or carrying. اڑتھاتی ہیں
 حَمَل Is being raised or carried. وہ اڑتھایا جاتا ہے
 حَمَلت Thou hast carried. تو نے اڑتھایا
 حَمَلون You are burdened. تم لادے گئے
 حَمْد To praise. تعریف کرنا
 حَمِيد One who is praised, illustrious. تعریف کیا گیا
 حَمْد Renowned, most praiseworthy. بڑا تعریف کیا ہوا
 حَمْد Praised one. تعریف کیا ہوا
 حَمْد One who is praised, or lauded; illustrious. تعریف کیا گیا
 حَمْدوا Be praised. تعریف کئے جائیں
 حَمْدون Those who praise. تعریف کرنے والے
 حَمِيم A near relative, a friend, boiling hot water. نزدیکی رشتہ دار یا دوست۔ کہولتا پانی
 حَنَاجِر Throats. گلے
 حَنُون Merciful. بڑا رحم والا
 حَنِين Name of a valley. ایک وادی کا نام

حَنِيف To incline to one side. ایک طرف
 حَنَفَاء Those who incline to the right religion. سچے دین کی طرف رجوع ہونے والے
 حَنِيذ Roasted. تلا ہوا
 حَنْث Wickedness, to break oath. گناہ۔ قسم توڑنا
 حَرّ Apostles. سچ کے رسول
 حَرّ Pretty or beautiful women. خوبصورت عورتیں
 حَوِي Dark-coloured. سیاہی مائل
 حَوَايَا Intestine with fat چیزیں۔ مٹی ہوئی آنتیں
 حَوْب A sin. گناہ
 حَوْت A fish. مچھلیاں
 حَوْتَان Fishes. مچھلیاں
 حَوَارِ An argument between two or more persons. دو یا زیادہ شخصوں کے درمیان باہمی گفتگو
 حَوَارِ Replying to an argument. سوال و جواب کرتا ہے
 حَوْر Turns round about. پھرتا ہے
 حَوْل A year. برس
 حَوْلَيْن Two years. دو برس
 حَوَال Got between. حائل ہوا
 حَوَل To turn, a change. پھرنا
 حَوَال Got between. حائل ہوتا ہے
 حَوْرِبَل A change, turning off or turning away. پھرنا۔ بدلنا
 حَوِيَا A plan, contrivance. تدبیر
 حَوِيل A bar is placed between. اٹکایا گیا
 حَوِي Alive. زندہ
 حَوِي Came to life. زندہ ہوا
 حَوِيَا Alive. زندہ

حَوِيَا A salutation. سلام۔ دعا
 حَوِيَا A serpent. سانپ
 حَوِيَا Life. زندگی
 حَوِيَان Living being. جاندار
 حَوِيَا You are made alive. تم زندہ کیے گئے
 حَوِيَا Salute. دعا دو۔ سلام کرو
 حَوِي He restored to life! He restored to life!
 حَوِيَا Thou restored to life. تو نے جلایا
 حَوِيَا We restored to life. ہم نے جلایا
 حَوِيَا I am restoring to life. میں زندہ کرتا ہوں
 حَوِيَا Are keeping alive. زندہ رہنے دیتے ہیں
 حَوِيَا You shall live. تم جیو گے
 حَوِيَا Thou restorest. تو زندہ کرتا ہے
 حَوِيَا To live. جینا
 حَوِيَا We will raise from the dead. ہم جلائیں گے
 حَوِيَا Alive, John the Baptist. زندہ۔ یوحنا بپتسمہ
 حَوِيَا One who re-tores to life. جاننے والا
 حَوِيَا We shall keep you alive. ہم تمکو زندہ رہنے دینگے
 حَوِيَا He restores to life. وہ جلاتا ہے
 حَوِيَا Salutes. سلام کرتا ہے
 حَوِيَا Shame. شرم
 حَوِيَا Bashful, ashamed. شرماتا ہے
 حَوِيَا Distracted. پریشان
 حَوِيَا (حَت) Whither, wherever, where-soever. جسجگہ
 حَوِيَا
 حَوِيَا Time or a space of time. ایک زمانہ یا مدت
 حَوِيَا Then, at that time. تب۔ اوس وقت

خ

خَاب (خاب) Was disappointed. نا امید ہوا

خَائِبِينَ Those who are disappointed. نا امید ہونے والے

خَافِضَةٌ f. One who lowers or humbles. نیچے کرنے والی

إِخْفِضْ Thou lower down or behave with humility. تو جہنما

خَالَ Uncle (maternal). ماموں

خَالَات Aunts (maternal). خالائیں

خَادِعٌ One who deceives. دھوکا دینے والا

يَخْدَعُونَ Are deceiving. دھوکا دیتے ہیں

يَخْدَعُونَ Are endeavouring to deceive. دھوکا بازی کرتے ہیں

خَدَعٌ To deceive, to deprive. محروم رکھنا۔ فریب دینا

خَاسِيَةٌ That which is driven away or dull. عاجز رہنے والا

خَاسِيِينَ Those who are driven away (from society). پھٹکارے ہوئے

يُخْسِدُوا Be you driven away. تم ذلیل رہو

خَاصٌّ f. Peculiar, selected. چنی ہوئی۔ خاص

يَخْتَصُّ Selects, to bestow upon any one in peculiar manner. چننا یا خاص کرتا ہے

خِصَامَةٌ Poverty, hungry. بھوک

خَاضِعٌ One who is submissive. جھکنے والا۔ تابعدار

يَخْضَعُونَ Are humbling down. نیچے کرتے ہیں

خَاطَبٌ Spoken, addressed بات کی

خَطَابٌ A matter, thing, business. بات

خَطَبٌ Matter. حال

خَطْبَةٌ The demanding a woman in marriage. عورت کے لئے پیغام نکاح کرنا

تَخْطُبُ Thou art speaking. تو بات کرتا ہے

خَامِدُونَ (خمد) Extinct, dead. بجھے ہوئے۔ مردہ

خَاوِيَةٌ Waste, fallen down, tumble-down. گری ہوئی۔ ویران

خَبَاٌ That which is hidden. جو چیز چھپی ہوئی ہو

خَبَالٌ Corruption. ملامت۔ خرابی

خَبْرٌ News, report. خبر۔ حال

عِلْمٌ-آگاہی Knowledge, understanding. خبر

خَبِيرٌ Knowing, one who knows. دانا۔ جاننے والا

خَبْرِينَ News, tidings, report. خبریں

خَتَّارٌ A perfidious man. وہ شخص جو بڑا جھوٹا ہو

خَتْمٌ A seal. مہر

نَخْمٌ We will seal. ہم مہر کریں گے

يَخْتُمُ Will seal. مہر کرے

أَخْتَمَ He sealed. اوسنے مہر کی

مُخْتَمٌ Was sealed. مہر کیا گیا

خَتْمٌ A sealing, the wax. لاکہ۔ مہر لگانے کی شے

خَاتَمُ النَّبِيِّ Last prophet. سب سے آخری نبی

خَدٌّ A cheek. گال۔ رخسارا

أَخْدُونُ A pit or trench. گڑھا کہاں

خَذَلٌ A Traitor. مخلص کش۔ دغا دینے والا

مَخْذُولٌ Destitute. خوار کیا گیا

يَخْذُلُ Disgraces or disappoints. ذلیل کرتا ہے

خَرٌّ Fallen down. وہ گرا

خَرُّوا Fallen down. گئے

تَخَرَّرَ Overthrown, made to fall. گرا دینا

يَخْرُونَ Are falling down. گرتے ہیں

وِيرَانٌ-أَجَارٌ A laying waste. ویران۔ آجڑ

يَخْرِبُونَ Are wasting. برباد کرتے ہیں

خِرَاصُونَ (خرص) Those who guess, those who tell lies

خراصون۔ اندازہ یا اٹکل دوڑانے والے

يَخْرِصُونَ Are guessing. اندازہ کرتے ہیں

تَمْ اندازہ کرتے ہو You are guessing. تم اندازہ کرتے ہو

خَرْجٌ Tribute, maintenance. حاصل یا یافت

مَحْصُولٌ Tribute. خراج

وَدَّ نَكَلًا-بِرَأْمَدٍ هُوَا Has come forth. وہ نکلا۔ برآمد ہوا

تَوَدَّ نَكَلًا-بِرَأْمَدٍ هُوَا To come forth, to go out. نکلا۔ برآمد ہونا

نَكَلِينَ If go out. نکلیں

تَوَدَّ نَكَلًا Thou comest forth. تو نکلا

تَمْ نَكَلًا You have come forth. تم نکالے

هَمْ نَكَلًا We came forth. ہم نکلیں

وَدَّ نَكَلًا They came forth. وہ نکلیں

ف. Which proceedeth from. وہ نکلتی ہے

تَوَدَّ نَكَلًا تَهَا Thou didst bring forth. تو نکالتا تھا

تَمْ نَكَلًا هُوَا You are driving out. تم نکالے ہو

تَمْ نَكَلًا هُوَا You will or shall be brought forth or driven out. تم نکالے جاؤ گے

تَوَدَّ نَكَلًا To drive out, to bring forth. نکالنا

أَسْنَى نَكَلًا He driven out. اُسنے نکالا

أَوْنَهُونَ نَكَلًا They brought forth. اونہوں نے نکالا

أَوْنَى نَكَلًا She brought forth. اوسنے نکالا

هَمْ نَكَلًا We brought forth. ہم نے نکالا

نَكَلًا گئے Were driven out. اُخْرَجُوا

ف. Was driven out. نکالی گئی

تم نکالے گئے۔ You were driven out. **أُخْرِجْتُمْ**
 ہم نکالے گئے۔ We were driven out. **أُخْرِجْنَا**
 میں نکالا جاؤنگا۔ I shall be driven out. **أُخْرَجُ**
 تو نکل۔ Thou come forth. **أُخْرِجْ**
 تم نکلو۔ You come forth. **أُخْرِجُوا**
 تو نکال۔ Thou take out. **أَخْرَجْ**
 تم نکالو۔ You take out, you bring forth. **أَخْرَجُوا**
 نکالنے والا۔ One who comes forth. **أَخْرَجَ**
 نکالنے والے۔ Those who come forth. **أَخْرَجُوا**
 نکالنے کی جگہ۔ An issue, place of exit. **مَخْرَجٌ**
 نکالا گیا۔ One who was brought forth. **مَخْرُوجٌ**
 نکالنے والا۔ One who brings forth. **مُخْرِجٌ**
 نکالنے والے۔ Those who bring forth. **مُخْرِجُونَ**
 نکالنے والے۔ **مُخْرِجِينَ**
 نکالے گئے۔ Were driven out. **مُخْرِجُونَ**
 ہم نکالینگے۔ We will come forth. **نُخْرَجُ**
 ہم نکالینگے۔ We shall bring forth. **نُخْرَجُ**
 وہ نکلتا ہے۔ Comes forth. **يُخْرِجُ**
 نکلتے ہیں۔ Are coming forth. **يُخْرِجُونَ**
 نکالے جاینگے۔ Will be driven out. **يُخْرِجُونَ**
 وہ نکلتا ہے۔ Comes forth. **يُخْرِجُ**
 دونوں نکالتے ہیں یا نکالینگے۔ Both are bringing forth or will bring forth. **يُخْرِجَانِ**
 نکالتے ہیں۔ Are bringing forth. **يُخْرِجُونَ**
 وہ نکالے گا۔ Shall drive out or expel out. **يُخْرِجُنِي**
 نکالیں۔ **يُخْرِجُونِي**
 وہ دونوں نکالیں۔ They both shall bring forth. **يُخْرِجَانِي**
 نکالنا۔ To come forth. **مُخْرِجٌ**
 سونچا۔ A proboscis or nose. **خَرْطُومٌ**
 رائی۔ Mustard-seed. **خَرْدَلٌ**

اوسنے چھید کیا۔ He made a hole. **خَرَقَ**
 انہوں نے جھوٹ باتدھا۔ They attributed falsely. **خَرَقُوا**
 اوسنے پہاڑا۔ She rent. **خَرَقَتْ**
 تو نے چھید کیا۔ Thou hast made a hole. **أَخْرَقْتَ**
 تو پہاڑیگا۔ Thou shalt cleave. **تَخْرِقُ**
 خزانے۔ Treasury, store houses. **خَزَائِنٌ**
 خزانے۔ دقینے۔ **خَزَائِنٌ**
 خزانچی۔ Keepers, treasurers. **خَزَائِنَةٌ**
 جمع کرنے والے۔ Those who lay in a store. **خَائِزِينَ**
 خزانے۔ Disgrace, shame. **خِزْيٌ**
 شرم۔ رسوائی یا خواری۔ **خِزْيٌ**
 تم رسوا کرتے ہو۔ You are disgracing. **تُخْزِنُ**
 تو رسوا کرتا ہے۔ Thou art disgracing. **تُخْزِي**
 رسوا کرنے والا۔ One who puts to shame. **مُخْزِيٌ**
 ہم رسوا کریں گے۔ We will disgrace. **نُخْزِرُ**
 وہ رسوا کرتا ہے۔ He disgraces. **يُخْزِي**
 ہلاکت۔ نقصان۔ **خُسْرٌ**
 خسراں۔ Loss, perdition. **خُسْرَانٌ**
 خسار۔ **خُسَارٌ**
 نقصان دہ شے۔ A losing concern. **خُسْرٌ**
 انہوں نے اپنے کو نقصان پہونچایا۔ They who destroyed themselves. **خُسِرُوا**
 جو کثرت سے نقصان اُٹھاتے ہیں۔ Those who lose exceedingly. **خَاسِرُونَ**
 نقصان اُٹھانے والے۔ One who wanders from the right path. **خَاسِرَةٌ**
 کم کرتا۔ نقصان دینا۔ To deceive, to diminish. **تَخْضِرُ**
 کم کرنے والے۔ Losers or those who lose. **أَخْسِرُونَ**
 ٹوٹا پاتا ہے۔ One who perishes. **يُخْسِرُ**
 وزن کم کرنے والے۔ Those who give short measure. **مُخْسِرُونَ**

انہوں نے جھوٹ باتدھا۔ Those who defraud. **يُخْسِرُونَ**
 نقصان پہونچاتے ہیں۔ **يُخْسِرُونَ**
 ہو یا گھٹایا۔ To be eclipsed. **خَسَفٌ**
 ہم زمین میں دفن کیا۔ We burried beneath the earth. **خَسَفْنَا**
 لے نور کرتا ہے۔ Takes away the light. **يُخْسِفُ**
 ہم زمین میں دھسائیں گے۔ We will or shall bury beneath the earth. **نُخْسِفُ**
 خاموشی۔ Timber, rough wood. **خَشَبٌ**
 غریبی۔ عاجزی۔ Humility. **خَشْوَعٌ**
 وہ عاجز ہوئی۔ Humbled, barren, desolate. **خَشَعَةٌ**
 عاجزی کرنے والا۔ One who humbles himself. **خَاشِعٌ**
 عاجزی کرنے والے۔ They who humble themselves. **خَاشِعُونَ**
 ڈرنے والے۔ Those who fear. **خَاشِعٌ**
 ڈرنے والی۔ One who fears. **خَاشِعَةٌ**
 ڈرنے والیاں۔ Those who fear. **خَاشِعَاتٌ**
 ہمدردی۔ Humbly submits. **تُخْشِعُ**
 وہ گڑ گڑاتی ہے یا عاجزی کرتی ہے۔ **تُخْشِعُ**
 ڈرنا۔ To fear. **خَشِيَ**
 وہ ڈرا۔ He feared. **خَشِيَ**
 میں ڈرا۔ I feared. **خَشِيتُ**
 ہم ڈریں۔ We feared. **خَشِينَا**
 مت ڈرو۔ Do not fear. **لَا تَخْشَوْا**
 تو ڈرتا ہے۔ Thou fearest. **تُخْشِي**
 ہم ڈرتے ہیں۔ We fear. **نُخْشِي**
 وہ ڈرتا ہے۔ He fears. **يُخْشِي**
 ڈرتے ہیں۔ Are fearing. **يُخْشُونَ**
 تکرار۔ جھگڑا۔ Dispute. **خِصَامٌ**
 مدعی۔ An adversary. **خِصَمٌ**
 تکرار کرنے والا۔ A disputer. **خِصِيمٌ**

Two disputers. دو تکرار کرنے والے خصمان
They disputed. ارنہوں نے جھگڑا کیا
You are disputing. تم تکرار کرتے ہو
They are disputing. وہ تکرار کرتے ہیں
You plunged into. تم نے قدم ڈالا
Entered into. گھسے
Those who wade or enter into a vain discourse. پانی میں گھسنے والے
A discussion or a vain discourse. باتیں بنانی
We will think or consider. ہم فکر کریں گے
Are wading. بیتھتے ہیں
The pains of child birth. درد زہ
Green. سبز
Green herbs. سبز ترکاری
Green. سبز
That which was made green. سبز کیا گیا
An error, fault, sin. بھول چوک - گناہ
چوک گناہ
Mistake. چوک گناہ
Faults, sins, mistakes. قصوروں - گناہوں - غلطیوں
You have erred. تم نے خطا کی
We have erred. ہم نے خطا کی
He snatched away. اوسنے اچک لیا
To snatch away, carry off. اچک لینا
We snatch away. ہم اچک لیتے ہیں
He snatches away. وہ اچک لیتا ہے

Is being natched away. اچک لیا جاتا ہے
Snatch away, carry off. اچک لیجائے
Snatches away or despoils. وہ اچک لیجاتی ہے
Steps. قدموں
Light. ہلکے
Was light. ہلکی ہوئی
He made light. اوسنے ہلکا کیا
Light. ہلکا
He makes light. ہلکا کرتا ہے
Will be made light or easier. ہلکا کیا جائگا
To make light. ہلکا کرنا
Thinks light. ہلکا سمجھتا ہے
Hidden. چپکے
You are hiding. تم چھپاتے ہو
Will hide or conceal. وہ چھپیگی
One who tries to hide himself. چھپنے والا
Thou art concealed. تو چھپاتا ہے
f. One who hides. چھپنے والی
More hidden. بہت چھپا ہوا
You hid or concealed. تم نے چھپایا
Was hidden. چھپایا گیا
I hide. میں چھپاتا ہوں
Are hiding (themselves). چھپتے ہیں
We will hide. ہم چھپائیں گے
Hides. چھپاتا ہے
Are hiding (themselves). چھپتے ہیں
Are concealing. چھپاتے ہیں

Are hiding. چھپاتی ہیں
Alone, free, clear. آزاد - اکیلا - صاف
Gone before or that which has passed away. آگے گزرے
Shall be cleared. وہ صاف ہوگا
Have preceded. گزری ہوئیں
Has emptied or become empty. خالی ہو جاوے - خالی ہوا
Dismiss. چھوڑو
Secret, in secret. خفیہ - اکیلے میں
To make pure. پاک - نرا - صاف کرنا
Pure, purified. پاک - صاف کیا ہوا
Those who purify. پاک یا صاف کرنے والے
Were chosen, selected. چنے گئے
We purified. ہم نے صاف کیا
They purified. ارنہوں نے صاف کیا
I will purify. میں صاف کرونگا
To be mixed with. ساتھ ملا ہوا
You are mixing (yourselves in business). تم ملاتے ہو
Has mixed. ملا دیا ہے
In apposition. ضد
Those who stay behind. پیچھے رہنے والے
Dispute diversity. تکرار
He disputed. تکرار کی
They disputed. کسی
You disput
پیچید

اُخْلَفُوا They opposed. اُنہوں نے مخالفت کی

اُخَالِفُ I will oppose. میں مخالفت کرونگا

تُخَالِفُ Thou art opposing. تو مخالفت کرتا ہے

تُخَالِفُونَ You are breaking the promise. تم وعدہ خلافی کرتے ہو

مُخَالِفٌ One who breaks his promise. وعدہ خلافی کرنے والا

مُخَالِفٌ Opposer. مخالفت کرنے والا

مُخَالِفِينَ Those who oppose. مخالفت کرنے والے

نُخَالِفُ We will contradict or oppose. ہم مخالفت کریں گے

يُخَالِفُونَ We are contradicting. مخالفت کرتے ہیں

يُخَالِفُ He vicissitudes. وہ خلاف کرتا ہے

يُخَالِفُونَ Are contradicting. مخالفت کرتے ہیں

خَلِيفَةٌ A successor, Lieutenant. قائم مقام۔ نائب

خَلَائِفٌ Successors. جائے نشین

خَلَفَ Has left behind. اوسنے پیچھے چھوڑا

خَلْفٌ Unworthy sons. نالائق فرزند

خَلَفُوا They left behind. اُنہوں نے پیچھے چھوڑا

اُخْلَفُوا Were left behind. پیچھے چھوڑے گئے

خَلْفَةٌ Successor or a succeeding generation. نسل یا ایک کے بعد ایک آنے والا

خَلَفَاءُ Vicar. سردار

خَالِفِينَ Those who remain behind. پیچھے رہنے والے

اُخْلَفُ Do thou act as deputy. تو خلیفہ ہو

اُخْلَفْنَا We made deputy. ہم نے خلیفہ بنایا

اُخْلَفُونَ Were left behind. پیچھے چھوڑے گئے

يُخْلَفُ Comes after. وہ پیچھے آتا ہے

يُخْلَفُونَ They may become successors. وہ خلیفے یا جانشین ہوتے ہیں

خَوَالِفُ f. Those who remain behind. پیچھے رہنے والیاں

يَسْتَخْلِفُ Makes successor or deputy. خلیفہ کرتا ہے

مُسْتَخْلِفِينَ Those who are to be successors. جانشین نائب ہونے والے

يَبْتَخِلُونَ Are staying behind. پیچھے رہتے ہیں

خَلَقَ To produce or create. نکالنا یا پیدا کرنا

حَلَقَ He created. اوسنے پیدا کیا

خُلِقَ He was created. وہ پیدا کیا گیا

خَلَقْتَ Thou created. تو نے پیدا کیا

خَلَقْتُ I created. میں نے پیدا کیا

وُحِلِقَ f. Was created. وہ پیدا کی گئی

خَلَقْنَا We created. ہم نے پیدا کیا

اُخْلَعُوا They created. اُنہوں نے پیدا کیا

خُلِعُوا Were created. پیدا کئے گئے

اُخْلِقُ I create or produce. میں پیدا کرتا یا نکالتا ہوں

تُخْلِقُ Thou art making or creating. تو بناتا یا پیدا کرتا ہے

تُخْلِقُونَ You are making. تم بناتے ہو

يُخْلِقُ He creates. وہ پیدا کرتا ہے

يُخْلِقُونَ Are creating. پیدا کرتے ہیں

مُخْلَقَةٌ Well and perfectly formed. درست صورت بنایا گیا

يُخْلَقُ Will be created or produced. وہ پیدا کیا جائیگا

يُخْلَقُونَ Are being created. پیدا کئے جاتے ہیں

نُخْلِقُ We will create. ہم پیدا کریں گے

خَالِقٌ One who creates. پیدا کرنے والا

خَالِقُونَ Those who create. پیدا کرنے والے

خَلْقٌ Manner or habit a natural disposition. عادت

اِخْتِلَاقٌ A lying device. جھوٹ بات

خَالِدٌ To be eternal. ہمیشہ رہنا

مُخَلَّدُونَ Were made immortal. ہمیشہ رکھے گئے

عِلْدٌ Eternity. ابدیت۔ ہمیشگی

خَالِدُونَ Eternal. لازوال یا ہمیشہ رہنے والے

تُخَلِّدُونَ You will live for ever. تم ہمیشہ رہو گے

يَبْقَى Remains for ever. وہ ہمیشہ رہتا ہے

خَلِيلٌ (خل) A friend, an epithet of Abraham. دوست۔ ابراہیم کا خطاب

خِلَالٌ Camels entering their second year, a friendship. دوستی۔ اونت جب دوسرے برس میں قدم رکھے

خَلَوْا Dismiss or let them go. چھوڑ دو

خِلَاہ Inner compartment, between. درمیان۔ اندر

اِخْلَاءٌ A friend. دوست

خِلَاةٌ A friendship. دوستی

خَمْرٌ Wine. شراب

خَمْرٌ Coverings. پوشش یا چادریں

خَمْسَةٌ Five. پانچ

خُمْسٌ One fifth. پانچواں حصہ

خَمْسِينَ Fifty. پچاس

خَامِسَةٌ The fifth. پانچواں

خَمِيمٌ Bitter. کڑوا

خَنْزِيرٌ Swine, a pig. سور

خَنْزِيرٌ Pigs. بہت سے سور

خَنَّاسٌ The devil. شیطان

خَنَسٌ Stars. تارے

خَوَارٌ A lowing. گائے کی آواز

خَوْفٌ (خاف) Fear. ڈر

خَيْفَةٌ

قَدَرْنِي وَالْ One who fears. قَدَرْنِي وَالْ
 قَدَرْنِي وَالْ Those who fear. قَدَرْنِي وَالْ
 تُو قَدَرْتَا هِي Thou fearest. تُو قَدَرْتَا هِي
 تُم قَدَرْتِي هُو You are fearing. تُم قَدَرْتِي هُو
 مَت قَدِرْ Do not fear. مَت قَدِرْ
 قَدِرْنَا To fear. قَدِرْنَا
 قَدِرْنَا تَخْرِبُف Terror; in order to terrify. قَدِرْنَا تَخْرِبُف
 هُم قَدَرْتِي هِي We are fearing. هُم قَدَرْتِي هِي
 هُو قَدِرْتَا هِي He frightens. هُو قَدِرْتَا هِي
 هُم قَدِرْتَا هِي Are frightening. هُم قَدِرْتَا هِي
 هُو قَدِرْتَا هِي He will fear. هُو قَدِرْتَا هِي
 هُم قَدِرْتَا هِي Both are fearing. هُم قَدِرْتَا هِي
 هُم قَدِرْتَا هِي Are fearing. هُم قَدِرْتَا هِي

اَرْسَنِي بَخْشَا He bestowed. اَرْسَنِي بَخْشَا
 هُم نِي بَخْشَا We bestowed. هُم نِي بَخْشَا
 چَوْرِي (خَان) خِيَانَتَا Theft. چَوْرِي (خَان) خِيَانَتَا
 بَرَا خِيَانَتِي يَا دَغَابَاز A treacherous. بَرَا خِيَانَتِي يَا دَغَابَاز
 ف. خَانَتَا One who cheat unfaithful. ف. خَانَتَا
 دَغَا كَرْنِي وَالِي دغا کرنے والي
 خَانَتِي Those who cheat or deceive خَانَتِي
 خِيَانَت كَرْنِي وَالِي خيانت کرنے والے
 تُم خِيَانَت كَرْتِي هُو You are cheating. تُم خِيَانَت كَرْتِي هُو
 خِيَانَت كَرْتِي هِي Are cheating. خِيَانَت كَرْتِي هِي
 خَيْر (خَار) Goods, agreeable, better, best. خَيْر (خَار)
 نِيكِيَاں Good things, good works. نِيكِيَاں
 اَخْتِيَار Choice, selection. اَخْتِيَار
 پَسَنَد كَرْتَا هِي Choosing. پَسَنَد كَرْتَا هِي

تُم پَسَنَد كَرْتِي هُو You are choosing. تُم پَسَنَد كَرْتِي هُو
 اَرْسَنِي بَخْشَا He bestowed. اَرْسَنِي بَخْشَا
 اَرْسَنِي بَخْشَا We bestowed. اَرْسَنِي بَخْشَا
 اَرْسَنِي بَخْشَا He has chosen. اَرْسَنِي بَخْشَا
 اَرْسَنِي بَخْشَا I have chosen. اَرْسَنِي بَخْشَا
 اَرْسَنِي بَخْشَا We have chosen. اَرْسَنِي بَخْشَا
 سَوْت-قَدِرْنَا A thread. سَوْت-قَدِرْنَا
 صَبِيح صَادِق Dawn of day. صَبِيح صَادِق
 صَبِيح كَاذِب Just before day break. صَبِيح كَاذِب
 سَوْتِي A needle. سَوْتِي
 سَوَار-گَهْرَزِي Horses cavalry. سَوَار-گَهْرَزِي
 اَخِيَال Appears, seems, looks like. اَخِيَال
 اَخِيَال كِيَا جَاتَا هِي خيال کیا جاتا هي
 شِيَاخِي بَاز-مَغْرُور Proud, arrogant. شِيَاخِي بَاز-مَغْرُور

د

اَدَار (دَار) A mansion, abode, house. اَدَار (دَار)
 مَكَان گَهْر مکان گهر
 اَدَارَة A change of fortune. اَدَارَة
 گَرْدَش زَمَانَة گردش زمانه
 تُو دَوَار To go round. تُو دَوَار
 دَوَار پَهْرْتِي هِي وہ پھرتي هي
 دَوَار دَوَار Goes round. دَوَار دَوَار
 دَوَار دَوَار Houses. دَوَار دَوَار
 دَوَار دَوَار A dweller. دَوَار دَوَار
 دَاوِد (دَاوِد) David. دَاوِد
 دَاب (دَب) Beast. دَاب
 دَوَاب Beasts. دَوَاب
 دَام (دَام) That which endures perpetually. دَام (دَام)
 هَمِيشَة رَهْنِي وَالِي ہمیشہ رہنے والے
 دَامُون Those which endure, perpetual. دَامُون
 هَمِيشَة رَهْنِي وَالِي ہمیشہ رہنے والے
 دَامُون May remain for ever. دَامُون

دَامَت f. Remained perpetually. دَامَت
 هَمِيشَة رَهْنِي ہمیشہ رہي
 اَمِي I remained. اَمِي
 تُو رَهْنَا Thou remained. تُو رَهْنَا
 تُم رَهْنِي You remained. تُم رَهْنِي
 دَاب (دَاب) A state, custom, manner. دَاب (دَاب)
 حَالَت عَادَت-دَسْتُور حالت عادت-دستور
 دَابِر (دَبِر) } The back, hinder part. دَابِر (دَبِر)
 دَابِر } پیچھلا حصہ
 دَابِرَات f. Those who govern. دَابِرَات
 حُكُومَت-يَا تَدْبِير كَرْنِي وَالِيَاں حکومت-یا تدبیر کرنے والیاں
 اَدْبَار Bbacks. اَدْبَار
 اَدْبَار To turn the back or retreat. اَدْبَار
 پَشْت پَهْرْتِي پشت پھرتي
 اَرْسَنِي پَشْت پَهْرْتِي ارسنے پشت پھرتي
 اَدْبَار He turned his back. اَدْبَار
 اَدْبَار One who turns his back. اَدْبَار
 پَشْت پَهْرْتِي وَالِي پشت پھرنے والے

اَدْبَار Those who turn their backs. اَدْبَار
 پَشْت پَهْرْنِي وَالِي پشت پھرنے والے
 اَدْبَارُون Are meditating. اَدْبَارُون
 گَمَان كَرْتِي هِي گمان کرتے هيں
 اَدْبَارُون Considers. اَدْبَارُون
 غُور كَرْتَا هِي غور کرتا هي
 اَدْبَارُون Are considering. اَدْبَارُون
 غُور كَرْتِي هِي غور کرتے هيں
 دَاخِضَة f. Which is worthy of دَاخِضَة
 رَسْوَا هُونِي وَالِي رسا ہونے والي
 دَاخِضِين Were condemned. دَاخِضِين
 رَسْوَا كَرْنِي Cause to nullify. رَسْوَا كَرْنِي
 دَاخِرِين (دَخِر) Those which are vile. دَاخِرِين
 خَوَار هُونِي وَالِي خوار ہونے والے
 دَاخِرِين (دَخِر) That which pours fourth. دَاخِرِين (دَخِر)
 اَجْهَانِي وَالِي (پَانِي) اچھانے والا (پانی)
 دَاخِرِين (دَخِر) Were driven away, rejected. دَاخِرِين (دَخِر)
 خَارِج يَا هَانَكِي گَثِي خارج یا ہانکے گئی
 دَاخِرِين (دَخِر) Driven away. دَاخِرِين (دَخِر)
 خَارِج دُور كِيَا هُوَا خارج دور کیا ہوا
 دَاخِرِين (دَخِر) Expanded, spreaded. دَاخِرِين (دَخِر)
 پَهِيلا يَا بَجْهَا هُوَا پھیلا یا بچھا ہوا

دخان (دخان) Smoke. دھواں
 دخیل False, hypocrisy. دیا-مکر
 وہ اندر آیا He entered in. دخیل
 وہ اندر آئے They entered in. دخاوا
 وہ اندر آئی Entered in. دخلت f.
 تو اندر آیا Thou hast entered. دخلت
 تم داخل ہوئے You entered in. دخلتوا
 تم نے جمع کیا You cohibited. دخلم
 وہ جماع کی گئی Was cohibited. دخلت f.
 اندر آنے والے Those who enter in. دخلون
 میں داخل کرونگا I will introduce. ادخل
 تم دونوں آؤ You both come in. ادخلا
 تم داخل ہو You enter. ادخاوا
 تم داخل ہو You enter. ادخلی f.
 ہم نے داخل کیا We introduced. ادخلنا
 تو داخل ہو Thou enter. ادخل
 داخل کئے گئے Were entered. ادخاوا
 تو داخل کر Introduce thou. ادخل
 تم داخل ہوتے ہو You are entering. ادخاوا
 تو داخل کرتا ہے Thou art entering. ادخل
 داخل ہونیکے جگہ Place of entering or an entrance. مدخل
 داخل کرنا To enter. مدخل
 ہم داخل ہونگے We will enter. ندخل
 ہم داخل کریں گے We will enter or introduce. ندخل
 وہ داخل ہوتا ہے He enters into. يدخل
 داخل ہوتے ہیں Are entering. يدخلون
 وہ داخل کیا جائگا Will be entered. يدخل
 وہ داخل کرتا ہے He enters or introduces. يدخل

To study. (درس) دراستہ مطالعہ کرنا-پڑھنا-پڑھانا
 لوںہوں نے پڑھا They read. درسوا
 تو نے پڑھا Thou hast read. درست
 تم پڑھتے ہو You are reading. تدرسون
 وہ پڑھتے ہیں They are reading. يدرسون
 حنوک Enoch. ادریس
 چونیاں Small silver coins. دراهم
 مرتبے Ranks. (درج) درجات
 مرتبہ Honour. درجۃ
 Lowest bottom of the hell. (درک) درک
 دوزخ کا نیچلا درجہ
 Were overtaken or found. مدرکون
 پکڑے گئے یا مل گئے
 He comprehended. ادراک
 اوسنے دریافت کیا
 Reached or attained into. ادرك
 پہونچا
 Fell into the lowest bottom. ادراوا
 نچلے گرھے میں گری
 Has reached or found. ادراك
 آسکو پایا
 وہ پاسکتی ہے وہ پادرتی f. Can overtake.
 وہ پاتا ہے وہ پادرتی He overtakes.
 Shining, one which shines. (در) دري
 چمکنے والا-چمکنا
 Raining abundantly. مدراراً
 بہت برسنے والا مینہہ
 Nails, pegs (دسر) دسو
 کپلیں-میخیں
 He corrupted. (دسی) دسی
 اوسنے خاک میں ملایا
 Hides, (دس) يدس
 دپاتا ہے
 Drive away or to push. (دع) دع
 ہانک-چھوڑ-تھکیل
 A thrusting. دھکیلنا
 Thrusts. دھکیلنا ہے

Will be thrust, driven away. يدعون
 تھکیلے جائنگے
 Call upon or to call. (دعا) دعاء
 پکارنا
 A supplication, summons. دعوة
 سنت کرنا-پکارنا
 Both have summoned. دعوا
 دونوں نے بلایا
 Were invited. دعوا
 پکارے گئے
 I called. دعوت
 میں نے پکارا
 You have invited or called. دعوت
 تم نے پکارا
 دعوتوا
 چلانا-دعا A cry, prayer. دعوی
 Was invited, called. دعی
 پکارا گیا
 اوسنے بلایا He invited. دعی
 تم پکارے گئے You were called. دعیدم
 بلانے والا One who invites or calls. داع
 پکارینگے Will call. f. تدع
 پکارتا ہے تو پکارتا ہے Thou art calling. تدعوا
 تم پکارتے ہو You are calling. تدعون
 تم مانگتے ہو You are asking. تدعون
 Will or shall be called. f. تدعی
 بلائی جائگی
 ہم بلائنگے We will call. ندعوا
 بلاتا ہے Calls or calling. يدعوا
 بلائے جاتے ہیں Are being called. يدعون
 بلائے ہیں Are calling. يدعون
 بلایا جاتا ہے Is being called. يدعی
 دور کرنا To drive away. (دفع) دفع
 تم نے دور کیا You driven away. دفعتم
 تو دور کر Thou drive away. اذفع
 تم دور کرو You drive away. اذعوا

دَوَّو Drives away. دور کرتا ہے
 دَف (دَفِي) Warm clothing. موسم گرما کے کپڑے
 دَك f. To pound into dust. پیسننا-ریزہ ریزہ کرنا
 دَكَ Powdering, کوٹنا
 دَكَت f. Was knocked down. گراٹی گئی
 دَكَتَا Both were knocked down. دونوں گرائے گئے
 دَكَتَا To knock down. دے مارنا
 دَل (دَل) He pointed out or guided. اوسنے رهنمائی کی
 دَلِيل A guide, a proof. ثبوت-رہبر
 دَلِيل We are pointing out the path. ہم راہ بتاتے ہیں
 دَل I will guide. میں راہ بناونگا
 دَلِي (دَلَا) He let down. اوسنے اتارا
 دَلِي He let down. اوسنے لتکایا
 دَلُوک To fall. ڈھلنا
 دَلُوک Offering as a bribe. حاکموں کو مال یا رشوت دیتے ہو
 دَلُوک Let down. اتار
 دَلُوک A bucket. ڈول

دَلِي He approached and drew near. وہ قریب ہوا
 دَم (دَم) Blood. خون
 دَمَا The blood of one another. ایک دوسرے کا خون
 دَمَم (دَمَم) Destroyed, obliterated. مٹایا-گرایا
 دَمَم He destructed. اوسنے ہلاک کیا
 دَمَمنا We destroyed. ہم نے برباد کیا
 دَمَمیر To destroy. برباد کرنا
 دَمَمیر f. Will destroy. وہ اکھاڑیگی
 دَمَع (دَمَع) A tear. آنسو
 دَمَم (دَمَم) He drawn nearer. وہ نزدیک ہوا
 دَمَم Near, at hand. نہایت نزدیک
 دَمَم That which is near at hand or low. نزدیک ہونے والا
 دَمَم f. That which is near at hand. نزدیک ہونے والی
 دَمَم f. Are causing to be nearer. نزدیک کرتی ہیں
 دَمَم (دَمَم) Mean, inferior. کمینہ-حقیر
 دَمَم Very mean, more vile. بہت حقیر-کم قدر

دَوَات (دَال) A change of time or fortune مال داری
 دَوَات In a circuit, in a circle. ہاتھوں ہاتھ لینا (یعنی اپنے ہی لوگوں میں تقسیم کرنا)
 دَوَات We are interchanging. ہم بدلتے ہیں
 دَهَق (دَهَق) Pouring out of a full cup, a bumper. بھرے ہوئے پیالے میں سے چھلکنا
 دَهَان (دَهَان) Red leather. نری کے مانند سرخ چمڑا
 دَهَان Butter, anointing oil. مکھن-تیل
 دَهَان Thou shouldst be easy. اگر تو نرمی کریگا
 دَهَان Those who gloss over or hold in low estimation or despise. دین میں سستی کرنے والے
 دَهَان They will be easy too. وہ بھی نرمی کریں گے
 دَهَان (دَهَر) A space of time. زمانہ
 دَهَان (دَان) A debt. قرضہ
 دَهَان Religion, custom, institution. مذہب
 دَهَان Those who were paid wages. مزدوری دئے گئے
 دَهَان (دَهَان) A gold coin, a ducat. اشرفی-مہر

ذ

ذَا (ذَا) One man. ایک مرد
 ذَا What, then. کیا چیز-تُب
 ذَا This is he or it. یہ وہ ہے
 ذَاکُم These men. بہت سے مرد
 ذَاکُمَا These two men. یہ دو مرد
 ذَاکُن You all women. تم سب عورتیں
 ذَاکُ This, in that way. یہہ-یوں-اسطرح

ذَاک This. یہہ
 ذَاکُمَا Those two. یہہ دو
 ذَاکُم These all. یہہ سب
 ذَانک (ذَانک) } These two. یہہ دو
 ذَانک }
 ذَاک This one man. یہہ ایک مرد
 ذَاک This one woman. یہہ ایک عورت
 ذَاب (ذَاب) A wolf. بھیڑیا

ذَائِقَة f. One who tastes or experiences. تجربہ کرنے والی-چکھنے والی
 ذَائِق He tasted. اوسنے چکھا
 ذَائِقَا We tasted. ہم نے چکھا
 ذَائِقُون Those who taste. چکھنے والے
 ذَائِقَا Both tasted. دونوں نے چکھا
 ذَائِق He tasted. اوسنے چکھا
 ذَائِقُوا They tasted. انہوں نے چکھا

چکھتا ہے Tastes. ذوق یذوق
 چکھتے ہیں Are tasting. ذوقون یذوقون
 We are causing to taste. ذیق نذیق
 ہم چکھاتے جاتے ہیں
 تو چکھے Thou taste. ذق
 تم چکھتے ہو You are tasting. ذوقوا
 وہ چکھتا ہے He tastes. ذیق
 مکھی (ذب) ذباب A fly.
 That which is sacrificed, a victim. ذبح (ذبح)
 قربانی کے لئے حلال کرنے کا جانور
 حلال کیا گیا Was sacrificed. ذبح
 انہوں نے حلال کیا They slaughtered. ذبحوا
 تم حلال کرو گے You will sacrifice. ذبحوا
 وہ حلال کرتا ہے He sacrifices. ذبح
 حلال کرتے ہیں Are sacrificing. ذبحون
 A cubit, a stretching forth of the hand. ذراع
 دو گز Two cubits. ذراعی
 Troubled in mind. ذرع
 کم ہمت-دل میں خوف زدہ
 صرف ایک چیونٹی One single ant. ذرة
 اولاد Progeny. ذریعہ
 اولادیں Offspring, children, race. ذریعات
 He multiplied or scattered. ذرا (ذرا)
 اوسنے بکھیرا
 We multiplied or produced. ذرا
 ہم نے بکھیرا
 یاد کرنا To remember. ذکر (ذکر)
 لڑکے Male children. ذکر
 He remembered or commemorated. ذکر
 اوسنے یاد کیا
 یاد کیا گیا One who was remembered. ذکر
 نر A male. ذکر

دو نر Two males. ذکران
 تو نصیحت دے Thou admonish. ذکر
 وہ نصیحت دیگا He will admonish. ذکر
 آدمی Men. ذکران
 تو نے یاد کیا Thou hast remembered. ذکرنا
 تم سمجھائے گئے You were instructed or admonished. ذکرتم
 تم سمجھائے گئے
 انہوں نے یاد کیا They remembered. ذکروا
 سمجھائے گئے Were admonished. ذکروا
 نصیحت دینی To admonish. ذکر
 دو نر Two males. ذکرین
 نر Males. ذکر
 یاد کرنے والے یاں f. ذکرات
 یاد کرنے والے Those who remember. ذکرین
 نصیحت Admonition, warning. ذکرة
 تم نصیحت پکڑو گے You will consider. ذکرون
 تم یاد کرو گے You will remember. ذکرون
 یاد دلانا To remind. ذکیر
 تو یاد کریگا Thou shalt remember. ذکیر
 تو یاد دلاؤ گا Thou shalt remind. ذکیر
 یاد کرنے والا One who remembers. ذکر
 اوسنے یاد کیا He remembered. ذکر
 نصیحت پکڑتا ہے Accepts warning. یذکر
 ذکر کیا گیا That which was remembered. ذکور
 ہم یاد کرتے ہیں We are remembering. نذکر
 نصیحت پکڑتا ہے Hears or accepts admonition. یذکر
 یاد کیا جاتا ہے One who is being remembered. یذکر
 نصیحت پائینگے Will be warned. یذرون

کرتے ہیں Are remembering. یذرون
 You killed or slaughtered. ذکیتم
 ذل (ذل) Abasement, humility.
 ذلت
 فرمانبرداری Submission. ذل
 پیش کی گئی Was submitted. ذلت
 ہم نے تابع کیا We subjected. ذلنا
 فرمانبردار Humble, submissive. ذول
 تو لے رہا ہے Thou art bringing low. ذل
 اب کرنا Causing an abasement. ذلیل
 ذلت دیتا ہے
 رسوا و خوار ہوتے ہیں We are being humbled. ذل
 عہد و پیمانہ A treaty, good faith. ذمہ (ذم)
 مذمت کیا ہوا Abused. مذموم
 کیا گیا-بڑا کڑا ہوا Dispersed, rejected. مذموم
 گناہ A crime, fault, sin. ذنب
 گناہ Crimes, faults, sins. ذنوب
 ٹکڑا-حصہ A portion, lot. ذنوب
 صاحب-ملک Lord. ذو (ذو)
 دو صاحب Two Lords. ذوا
 ذوی
 صاحبان Lords. ذوات
 دو مالک Two masters. ذواتا
 ذوانی
 ذومرہ One of Gabriel's title.
 جبرئیل کا خطاب
 جانا To go. ذهاب
 وہ گیا He went. ذہب

وہ گئی She went. ذہبت

ہم گئے We went. ذہبنا

گئے Gone, went away. ذہبوا

جانے والا One who goes. ذائب

وہ جاتی ہے She is going. ذہب

تم جاتے ہو You are going. ذہبون

ہم جائینگے We will go. ذہب

وہ جاتا ہے He is going. ذہب

لیجاتا ہے Takes away. ذہب

دونوں جاتے ہیں Both are going. ذہبنا

تم لیجاتے ہو You are taking away. ذہبوا

وہ لیجاتیں They may take away. ذہبن

جاتے ہیں Are going. ذہبوا

Alexander the great, one with two horns. ذی القرنین

چوتھا A fourth. (ربیع) رابع

چار Four. اربع

چار اور چار Four and four. رابع

چار چار مرد Four and four men. اربعمہ

ایک چوتھائی One fourth. ربع

چالیس Forty. اربعین

بڑا مہربان Most compassionate. (راف) رءوف

عنایت مہربانی Mercy, kindness. رافعة

ہم پر رعایت کر Look at us. (رعی) راعنا

Those who respect or look at. رعایت کرنے والے راعون

چرواہے Shepherds. رعاء

درست نگہبانی کرنا A right observance. رعایة

They protected. رعوا
اونہوں نے حفاظت کی یا بنایا

چراگاہ Pasture. رعاء

قائم رہو Remain firm. (ربط) رابطوا

Confirm, tie, a body of horse consisting of five or more. رباط

قائم کرنا۔ گڑا۔ گھوڑوں کا گڑا

ہم نے باندھا We confirmed or tied. ربطنا

مضبوط کرتا یا باندھتا ہے Strengthens. ربط

A head, capital sum. (راس) راس

سردار Heads, leaders. رؤس

پہاڑ Mountains. (رسا) رواسی

پہاڑیاں Hills. راسیات

He fixed firmly. ارسا

اوسنے گاڑ دیا یا خوب قائم کیا

That which is fixed. مرسى

Who are well grounded in learning. پکے عالم (رسخ) راسخون

متوجہ ہوا Turned upon. (راغ) راغ

Took possession. (دان) دان

اوسنے قبضہ کیا یا رنگ پکڑا

I desired. (دان) راودت

اوسنے چاہا f. Desired. راودت

بھلایا Respited. راودن

اونہوں نے چاہا They wished. راودوا

تو چاہتی ہی Thou desirest. تراود

ہم خواہش کریں گے We will desire. نراود

تم چاہتے ہو You are desiring تراودون

تم چاہتی ہو f. You are desiring. تراودن

ہم چاہتے ہیں We are desiring. نراود

وہ ارادہ کرتا ہے He intends. يراود

دونوں چاہتے ہیں Both are desiring. يراودان

They are intending. يراودون

وہ ارادہ کرتے ہیں

اوسنے چاہا (دان) اراد

اُن دونوں نے چاہا Those two desired. ارادا

انہوں نے چاہا They desired. ارادوا

ہم نے چاہا We desired. ارادنا

f. They desired. ارادن

تم نے چاہا You desired. ارادتم

میں نے چاہا I desired. ارادت

I am desiring. ارید

تو چاہتا ہے Thou desirest. ترايد

Respite thou for a while. رويد

تو مہلت دے

To see, look. (رای) رای

خوش نما That which pleases. رعی

اوسنے دیکھا He saw, looked. رای

اونہوں نے دیکھا They looked. راوا

اوسنے دیکھا f. She looked. رات

اونہوں نے دیکھا f. They looked. راین

تو نے دیکھا f. Thou hast looked. رایت

تم نے دیکھا You looked. رایدم

تم نے دیکھا You looked. رایدموا

I am pointing out. اری

To show, hypocrisy. ریا

دکھا Show. ار

دکھاؤ Make to appear. اروا

رَأَيْتُ I looked. میں نے دیکھا

أَرِي I am looking or seeing. میں دیکھتا ہوں

أَرِي To dream. خواب دیکھنا

أَمْ تَرَى Thou hast not looked. تو نے نہیں دیکھا

أَمْ يَرِ He did not see. اوسنے نہیں دیکھا

أَرَيْنَا We showed. ہم نے دکھایا

أَرِي I am seeing. میں دیکھتا ہوں

أَرُوا You show. تم دکھاؤ

تَرَى Thou art seeing. تو دیکھتا ہے

تَرُونَ You are seeing. تم دیکھتے ہو

تَرَى f. Thou shalt see. تو دیکھیں گے

تَرِي Thou show. تو دکھائے

تَرَاءَ Looked at to one another. ایک دوسرے کو دیکھا

تَرَاءَتْ f. Has appeared in presence. سامنے نظر آئی

نَرَى We are seeing. ہم دیکھتے ہیں

نَرِي We cause to appear. ہم دکھاتے ہیں

يَرِي He sees. وہ دیکھتا ہے

يَرُونَ Are seeing. دیکھتے ہیں

يُرَاءِي That will be shown. وہ دکھایا جائیگا

يُرِي Shows. وہ دکھاتا ہے

يُرِيكُم Causes you to see. تم کو دکھاتا ہے

يُرِيءُونَ Are showing among themselves. آپس میں دکھاتے ہیں

رَأْبِي (ربا) That which increases. زیادہ ہونے والا

رَأْبِيَةٌ f. That which increases. زیادہ ہونے والی

رَبَّتْ That which mounts up. اُبھرتا ہوا

رَبْوٌ Interest. بیاج

رَبَّى He increases. وہ بڑھاتا ہے

رَبْوٌ Being useful. فائدہ مند ہوتا ہے

رَبْوَةٌ A hill, an elevated part of the earth. پہاڑی-تیلہ-بلندی

رَبٌّ (رب) A lord, provider. خوراک دینے یا پالنے والا

رَبَّ He has provided. اوسنے پالا

رَبَّانِيَّةٌ Those who are learned in Divine علم الہی کے عالم-خدا پرست law or pious.

رَبِّينَ People of God, people. اللہ والے لوگ

رَبِّنَا We are providing or supporting. ہم پالتے ہیں

رَبِّ Myriads. کثرت سے

رَبَّمَا Often, frequently اکثر

رَبَائِبٌ Step daughters, daughters-in-law. بھویں-سوئیلی بیٹیاں

رَبِحٌ f. Became profitable. فائدہ مند ہوئی

رَتَقٌ (رتق) Solid, anything close, impervious. تھوس چیز جسکا منہ بند ہو

رَتَّلٌ Read slowly. آہستہ پڑھا

رَتَّلْنَا We read distinctly. ہم نے تھیر تھیر کر پڑھا

رَتَّلٌ Reading the Quran in a slow and distinct way. قران کا آہستہ اور صفائی سے پڑھنا

رَجٌّ To move, shake, shiver. کانپنا

رَجَّتْ f. Was made to shiver. کانپائی گئی

رَجَالٌ (رجل) Foot-soldiers. پیادے

رَجُلٌ A man. مرد

رَجُلَانِ } Two men. دو مرد

رَجُلَيْنِ } Two men. دو مرد

رَجْلٌ A foot. پانو

رَجِلٌ A foot-soldier. پیادہ

رَجَزٌ (رجز) A plague, punishment. عذاب-وبا

رَجَزٌ Impurity. ناپاکی

رَجْسٌ (رجس) An abomination, punishment. ناپاکی-آفت

رَجَعٌ (رجع) To return, turn back. واپس ہونا-پھرنا

رَجَعٌ He turned back. وہ واپس ہوا یا پھرا

رَجَعُوا Have returned. پھرے

رَجَعْتُمْ You returned. تم پھرے

رَجَعْنَا We returned. ہم پھرے

رَجَعْتُ I was sent back or was returned. میں پھرایا گیا

أَرْجِعُ I will or shall turn back. میں پھر جاؤنگا

أَرْجِعِ Thou turn back. تو پھر جا

أَرْجِعُوا You turn back. تم پھر جاؤ

أَرْجِعِي Thou return. تو پھر جا

تَرْجِعُونَ You are turning. تم پھرتے ہو

تَرْجِعُ f. Is being turned back. وہ پھیری جاتی ہے

تَرْجِعُونَ You will be turned back. تم پھیرے جاؤ گے

يَرْجِعُ He will be returned back. وہ پھیرا جائیگا

يَرْجِعُونَ Will be turned back. پھیرے جائیں گے

يُرْجِعَانِ Both will be inclined. دونوں رجوع کرینگے

يُرْجِعِي To return. پھرنا

رَجْفَةٌ (رجف) An earthquake, mighty blast. زلزلہ-بھونچال

رَجْفُونَ Those who make a commotion. جھگڑا یا فساد کرنے والے

رَجِيفٌ f. One who trembles. کانپنے والی

رَجْمٌ (رجم) To stone. پتھراؤ کرنا

رَجْمٌ Things with which are stoned. پتھراؤ کرنے کی چیزیں

رَجَمْنَا We stoned. ہم نے پتھراؤ کیا

رَجِمٌ One who was stoned. پتھراؤ کیا ہوا

٥٥٥٥٥ You will stone. تم پتھراؤں سے ڈر گئے۔
 ٥٥٥٥٥ Will stone. پتھراؤ کرینگے۔
 ٥٥٥٥٥ Those who were stoned. جو پتھراؤ کئے گئے۔
 ٥٥٥٥٥ Halting, stage. منزل-اُترنے کی جگہ۔
 ٥٥٥٥٥ A saddle-bag. توشہ دان۔
 ٥٥٥٥٥ A journey, marching. کوچ۔
 ٥٥٥٥٥ f. Was spacious. کشادہ ہوئی۔
 ٥٥٥٥٥ An ample place, spacious. کشادہ جگہ۔
 ٥٥٥٥٥ Mercy. ترس مہر۔
 ٥٥٥٥٥ He was merciful. اوسنے مہر کی۔
 ٥٥٥٥٥ Blood relation. رشتہ-قرباب۔
 ٥٥٥٥٥ Blood relations. قربابیتیں۔
 ٥٥٥٥٥ Most merciful. نہایت مہربان۔
 ٥٥٥٥٥ Most merciful. بڑا مہربان۔
 ٥٥٥٥٥ We granted. ہم نے بخشا۔
 ٥٥٥٥٥ Merciful and compassionate. بڑا شفقت والا۔
 ٥٥٥٥٥ Kind hearted. رحم دل۔
 ٥٥٥٥٥ Were treated kindly. رحم کئے گئے۔
 ٥٥٥٥٥ Shows mercy. مہربانی کرتا ہے۔
 ٥٥٥٥٥ Have mercy. تو رحم کر۔
 ٥٥٥٥٥ Most merciful. بڑا مہربان۔
 ٥٥٥٥٥ Thou shalt be merciful. تو رحم کریگا۔
 ٥٥٥٥٥ You will be pardoned or treated with mercy. تم بخشے جاؤ گے۔
 ٥٥٥٥٥ Do mercy. رحم کر۔
 ٥٥٥٥٥ Wombs. بچہ دان۔
 ٥٥٥٥٥ Pure wine. خالص شراب۔
 ٥٥٥٥٥ A gentle wind. نسیم صحری۔

٥٥٥٥٥ To avert. پھرنے۔
 ٥٥٥٥٥ Gave back or returned. پھیر دیا۔
 ٥٥٥٥٥ Were turned back. پھیرے گئے۔
 ٥٥٥٥٥ f. Was turned back. وہ پھیری گئی۔
 ٥٥٥٥٥ I was turned back. میں پھیرا گیا۔
 ٥٥٥٥٥ We caused to turn. ہم نے پھیرا۔
 ٥٥٥٥٥ To return or avert. پھیرنا۔
 ٥٥٥٥٥ Was rejected, averted. دن کیا گیا۔
 ٥٥٥٥٥ Were restored or averted. پھیرے گئے۔
 ٥٥٥٥٥ You restore. تم پھیرو۔
 ٥٥٥٥٥ He turned or drove back. وہ اُلت گیا۔
 ٥٥٥٥٥ Both drove back. دونوں اُلتے پھرے۔
 ٥٥٥٥٥ Drove back. اُلتے پھرے۔
 ٥٥٥٥٥ You are reverting. تم پلٹتے ہو۔
 ٥٥٥٥٥ f. Will be restored or averted. وہ پھیری جائیگی۔
 ٥٥٥٥٥ You will be averted. تم پھیرے جاؤ گے۔
 ٥٥٥٥٥ We are averting or rejecting. ہم دن کرتے ہیں۔
 ٥٥٥٥٥ Will be turned back. اُلتے جائینگے۔
 ٥٥٥٥٥ Are averting. پھرتے ہیں۔
 ٥٥٥٥٥ Is being averted. پھیرا جاتا ہے۔
 ٥٥٥٥٥ Are being averted. پھیرے جاتے ہیں۔
 ٥٥٥٥٥ Are averting. پھرتے ہیں۔
 ٥٥٥٥٥ Averts. پلٹتا ہے۔
 ٥٥٥٥٥ Followed behind. وہ پیٹھہ پیچھے ہوا۔
 ٥٥٥٥٥ f. That which follows پیچھے آنے والی۔
 ٥٥٥٥٥ A strong wall. مضبوط و موٹی دیوار۔
 ٥٥٥٥٥ A helper. مددگار۔

٥٥٥٥٥ Necessarys of life. روزی۔
 ٥٥٥٥٥ He supplied or provided. وسنے روزی دی۔
 ٥٥٥٥٥ We provided. ہم نے روزی دی۔
 ٥٥٥٥٥ We were provided with. ہم روزی دئے گئے۔
 ٥٥٥٥٥ Were provided with. روزی دئے گئے۔
 ٥٥٥٥٥ The great provider. بڑا روزی دینے والا۔
 ٥٥٥٥٥ Provide thou. تو روزی دے۔
 ٥٥٥٥٥ You provide. تم روزی دو۔
 ٥٥٥٥٥ Thou art providing. تو روزی دیتا ہے۔
 ٥٥٥٥٥ You will be provided. تم روزی دئے جاؤ گے۔
 ٥٥٥٥٥ We are providing. ہم روزی دیتے ہیں۔
 ٥٥٥٥٥ He is providing. وہ روزی دیتا ہے۔
 ٥٥٥٥٥ Will be provided. روزی دئے جائینگے۔
 ٥٥٥٥٥ A well near Median. مدیان کے پاس ایک کنواں۔
 ٥٥٥٥٥ Prophetic order. پیغمبری سلسلہ۔
 ٥٥٥٥٥ Prophetic orders. رسولی عہدے۔
 ٥٥٥٥٥ He sent. اوسنے بھیجا۔
 ٥٥٥٥٥ They sent. انہوں نے بھیجا۔
 ٥٥٥٥٥ f. Sent. اوسنے بھیجا۔
 ٥٥٥٥٥ Thou sent. تونے بھیجا۔
 ٥٥٥٥٥ We sent. ہم نے بھیجا۔
 ٥٥٥٥٥ He Was sent. وہ بھیجا گیا۔
 ٥٥٥٥٥ Those who were sent. بھیجے گئے۔
 ٥٥٥٥٥ You were sent. تم بھیجے گئے۔
 ٥٥٥٥٥ We are sent. ہم بھیجے گئے۔
 ٥٥٥٥٥ Thou send. تو بھیج۔
 ٥٥٥٥٥ You send. تم بھیجو۔

مرسل One who sends. بھیجنے والا
 مرسلوا Those who send. بھیجنے والے
 مرسل One who is sent. بھیجا گیا
 مرسلون Were sent. بھیجے گئے
 مرسلۃ f. Sender. بھیجنے والی
 مرسلات f. Were sent. بھیجی گئیں
 نرسل We are sending. ہم بھیجتے ہیں
 یرسل He sends. وہ بھیجتا ہے
 رسل Prophets. رسول لوگ
 رسول A prophet. پیغمبر
 رشدا درست یا نیک راہ (رشد) A right way.
 رشد A going in the right way راہ پانا
 رشاد Right way. سیدھی راہ
 رشید A person of discernment. شخص نیکوکار
 رشدون Well directed ones. درست اور نیک راہ چاہنے والے
 یرشدون Are obtaining the right way. راہ پاتے ہیں
 مرشد One who directs aright, a guide. سیدھی راہ دکھانے والا
 رصد A lying in wait. تاک گھات
 ارضاد A means of preparation or fitting out. تاک یا گھات لگانا
 مرصا A place of ambush. گذرگاہ
 مرصد A place of observation. جائے انتظار
 رضاعة The act of sucking milk. دودہ پلانا
 ارضعن They suckled. اونہوں نے دودہ پلایا
 ارضعت She suckled. اوسنے دودہ پلایا
 ارضعی To suckle. دودہ پلانا
 رضعة f. One who suckles. دودہ پلانے والی
 مراضع Breasts. چھاتیاں

دودہ پلاتی ہیں f. یرضعن Are suckling.
 رضوان (رضی) Grace acceptance, that which is pleasing. خوش کن
 رضی Was pleased. خوش ہوا
 رضوا Were pleased. خوش ہوئے
 رضی Agreeable. دل پسند
 رضیت I accepted. میں نے پسند کیا
 رضیتم You accepted. تم نے پسند کیا
 ارضی He agreed. وہ راضی ہوا
 ترضی Thou shalt agree. تو راضی ہوگا
 ترضون You will choose. تم پسند کرو گے
 قرأص Mutual consent. باہم راضی ہونا
 قرأصوا Agreed. راضی ہوئے
 تراضیتم You were pleased. تم خوش ہوئے
 راض One who is pleased. خوش ہونے والا
 راضیة f. One who is pleased. خوش ہونے والی
 مروضی } f. Well-pleased. پسندیدہ
 مروضیة }
 مرضات Pleasures. خوشیاں
 یرضی He is well-pleased. وہ خوش ہوتا ہے
 یرضون Are well-pleased. خوش ہوئے ہیں
 یرضین May be well-pleased. خوش ہوتے ہیں
 یرضون Are being made pleased. راضی کئے جاتے ہیں
 رطب (رطب) That which is green. سبز یا تازہ
 رطب Fresh ripe dates. پکی ہوئی کھجوریں
 رعب (رعب) Fear, terror. خوف دہشت
 رعد (رعد) Thunder. بجلی کی گرج
 رغب (رغب) He desired. اوسنے خواہش کی

یرغب Desire thou. تو خواہش کر
 ترغبون You are desiring. خواہش کرتے ہو
 یرغب He desires. وہ خواہش کرتا ہے
 یرغبون Are desiring. آرزو کرتے ہیں
 رغدا Abundantly. کثرت سے۔ کھلے دل (رغد)
 رفات (رقت) Any thing broken in small pieces or dust. باریک-باریک ریڑھے
 رفث (رفث) Carnal intercourse. بے پردگی
 رفا (رغد) A gift. انعام
 رفود Was given, granted, rewarded. انعام دیا گیا
 رفوف (رفوف) A pillow, mattresses. تکیہ-چاندنیاں
 رفع (رفع) He raised up. اوسنے اٹھایا
 رفعت f. Was exalted. اونچی کی گئی
 رفعدنا We lifted up. ہم نے اونچا کیا
 رفیع One who raises up. اونچا کرنے والا
 ترفعوا You are lifting up. تم اٹھاتے ہو
 ترفع Thou shalt be exalted. تو بلند کیا جائگا
 رفوع Was raised on high. اٹھایا گیا
 رفوعة f. Exalted. اونٹھائی
 نرفع We are lifting up. ہم اٹھاتے ہیں
 یرفع Exalts. بلند کرتا ہے
 رفیق (رفیق) A companion, friend. دوست-یار
 رفیق To recline on the elbow. کھنی پر تکیہ کرنا
 مرافق Elbows. کھنیاں
 مررفق A coach. تکیہ گاہ
 ررق (رق) Scroll of parchment. طومار-ورق
 رقبة (رقب) A neck. گردن
 رقاب Necks. آوندیں

نگہبان A watcher, an observer. رَقِيبٌ

تو راہ دیکھہ Watch, thou. اِرْتَبِ

تم راہ دیکھو You watch. اِرْتَبُوا

Those who watch. مَرْتَقِبُونَ

انتظار کرنے والے

راہ دیکھتا ہے Watches, observes. يَتَرَقَّبُ

Are watching or expecting. يَتَرَقَّبُونَ

امید رکھتے ہیں

Are expecting. يَتَرَقَّبُونَ

Sleeping. (وقد) رَقُودٌ

A bed. خواب گاہ مَرَقِدٌ

One who sleeps. سونے والا مَرَقِدٌ

Was written. (رقم) مَرْقُومٌ

The name of a leaden plate on which the names of the seven sleepers were inscribed. رَقِيمٌ

وہ تختی جس پر اصحابِ رقیم کے نام گذرے تھے

An ascent. (رقي) رَقِيٌّ

Thou shalt ascend. تو چڑھینگا تَرَقِيٌّ

Clavicle or breast bones. ہنسلین تراقي

Are ascending. چڑھتے ہیں اِرْتَقُوا

Camel. (ركب) رَكَابٌ

A company mounted on camels. رَكْبٌ

Was put together. جوڑ دیا رَكِبٌ

Both mounted. دونوں سوار ہوئے رَكِبَا

One who rides on camel. ساندنی سوار رَكَابَانٌ

Mounted on. سوار ہوئے رَكِبُوا

A charger. سواری رَكُوبٌ

You are riding. تم سوار ہوتے ہو تَرَكِبُونَ

Lying in heaps. ملى ہوئی یا جڑی ہوئی مَرَاكِبٌ

Thou ride. تو سوار ہو اِرْكَبْ

You ride. تم سوار ہو اِرْكَبُوا

Are riding. سوار ہوتے ہیں اِرْكَبُونَ

To put together. جمع کرنا (رکم) رَكَمٌ

Gathered in a heap. انبار میں جمع کیا ہوا مَرْدُومٌ

Will gather together in a heap. تہ بتہ جمع کریگا يَرْكُمُ

A low sound, a whisper. (رکز) رَكْزٌ

Those who bow down in prayer. (رکع) رَكْعٌ

جھک کر سجدہ کرنے والے

Bow down. سجدہ کرو اِرْكَعُوا

Thou bow down. تو سجدہ کر اِرْكَعِيْ

Are bowing down. سجدہ کرتے ہیں اِرْكَعُونَ

One who bows down. سجدہ کرنے والا رَاكِعٌ

Those who bow down. رَاكِعُونَ

Support. (رکن) رَكْنٌ

You are bending or inclining. تم جھکتے ہو تَرْكَبُوا

Lances. (رمح) رَمَاحٌ

Ash. (رمان) رَمَانٌ

Pome-granates. (رمان) رَمَانٌ

A sign, signal. (رمز) رَمَزٌ

The ninth month of the Mohammedan year. (رمضان) رَمَضَانٌ

To throw. پھینکنا (رمی) رَمَى

Thou hast cast or thrown. تو نے پھینکا رَمَيْتَ

Casting. پھینکتی ہے f. تَرْمِيْ

Throws. وہ پھینکتا ہے يَرْمِيْ

Are accusing. تہمت کرتے ہیں اِرْمُونَ

Rotten. (رم) رَمِيمٌ

The evening. (راح) رَوَاحٌ

Mercy. رحم-مہربانی رُحْمٌ

Spirit, soul. جان رُوحٌ

Wind. ہوا رِيْحٌ

Winds, smell. ہوائیں-بو رِيَّاحٌ

That which is still or calm. (رکد) رَوَاكِدٌ

The Romans. (رام) رُومٌ

Fear, timidity. (راع) رُوعٌ

A rich and well watered meadow. (راض) رُوضَةٌ

Gardens. باغات رُوضَاتٌ

To give in pledge. (رهن) رَهَانٌ

Was given in pledge. f. رَهِيْنَةٌ

That which is given in pledge. رَهِيْنٌ

Fear. (رهب) رَهَبٌ

To fear. (رہبہ) رَهَبَةٌ

You are frightening. تم ڈراتے ہو تَرَهَبُونَ

Are frightening. ڈراتے ہیں اِرْتَهَبُونَ

Monasticism. رهبانیت رَهْبَانِيَّةٌ

A monk. زاهد رَهْبَانٌ

They wished to terrify. اِسْتَهَبُوا

Family. (رہط) رَهْطٌ

Oppressing. (رہق) رَهْقٌ

Following closely. f. تَرَهَقٌ

Covers. تھانکتا ہے يَرَهَقُ

He imposes a difficult task. اِرْهَقُ

A ditch or furrow. (رہا) رَهْوٌ

گڑھا دو پانوں کے درمیان کی کشادگی

شبهة-شکم A doubt. (واب) ریب
 شک f. A doubt. ریب
 One who is in doubt. شک و شبهہ یا گمان کرنے والا

Suspicious. مشکوک مرتاب
 He doubts. شک کرتا ہے یرتاب
 Are doubting. شک کرتے ہیں یرتابوا

Do not doubt. شک مت کرو لاترتابوا
 Feathers, fine clothing. (راش) ریش
 High hill. قتبہ یا قبلا (راع) ریح

ز

Provision for a journey. زاد (زاد)
 توشہ جو سفر میں درکار ہو

Take provision for the journey. تزودوا
 راہ کے لئے خرچ لو

He increased. زاد (زاد) زاد

They increased. زادوا

She increased. زادت

Was increased. f. ازادوا

I will increase. ازید

Thou shalt increase. تزود

You will increase. تزیدون

Is increasing. f. تزادان

We increased. زادنا

Increase or add thou. زد

Mohammed's freed man and adopted son. زيد
 محمد صاحب کا متبنی بیٹا-زيد

Was increased. مزید

We are increasing. ہم بڑھاتے ہیں
 نزيد }
 نزيد }

We exceed in number. نزيدان

Exceeds in number. يزيدان

Will or shall increase. يزيدانوا

Did not increase. لم يزد

Those who hold or holders in low estimation. زاهدین

حقیر جاننے والے یا بیزار ہونے والے

Angels who keep guard over Hell. زبانية
 دوزخ کے محافظ فرشتے

Froth, scum. زبد (زبد) زبد

Tablets for writing. زبور (زبور) زبور

Psalms. زبور داؤد

A glass vessel or a thing made of glass. زجاج (زج) زجاج

The act of driving or prohibiting. زجر (زجر) زجر
 منع کرنا-چھڑکنا-دانتنا

A single cry. زجرة

Those who prohibit. زاجرات f.
 دانتنے والیاں

Was forbidden. مزجور

That which was removed. زحج (زحج) زحج
 جو کچھ سرکایا گیا

One who removes. مزحج

An army marching in a hostile manner. زحف (زحف) زحف
 فوج جو لڑائی کے لئے جارہی ہو

Gold. زخرف (زخرف) زخرف

Rich carpets. زرب (زرب) زرابي

Farmers, cultivators. زراع (زرع) زراع
 کھیتی کرنے والے-کسان

Farm, land. زرع

Farms, lands, fields. زروع

Those who cultivate, farmers. زارعون

Those who cultivate, farmers. زارعون

Those who cultivate, farmers. زارعون

Blue. زرق (زرق) زرق

To assert, to suppose. زعم

He imagined. زعم

Thou hast imagined. زعمت

You thought. زعمتم

One who thinks or imagines. زعيم

Are supposing. يزعمون

The first part of the braying of an ass, sobbing and sighing. زفير (زفر) زفير
 لدھے کی آواز کا اول حصہ-سسکیاں لینا

Bitter almond of hell. زقوم (زقم) زقوم

Zackaria. (زکریا) زكريا

To purify. زكوة (زكي) زكوة

Pure person, pure men, pious. زكي

Has become pure. زكي

Better. زكية

More righteous. ازكي

Purified! سنوارا تزكي

Thou art purifying. تزكي

Is purifying. يزكي

Justifies. يزكي

Are purifying. يزكون

Is being purified. يزكي

The act of shaking. ززال

زلزلہ An earthquake. ہونچال

زلزلت f. Was shaken. ہلائی گئی

زلزلوا Were shaken. ہلائے گئے

زلف (Zulf) Early parts of night.
رات کے کچھ حصے جو شام کے بعد شروع ہوں

زلفۃ Nearness, proximity. سرا-نزدیکی

زلفی Degree. درجہ-مرتبہ

زلفت f. Was brought nearer.
وہ نزدیک لائی گئی

زلفنا We brought nearer.
ہم نے نزدیک پہنچایا

زلقی (Zalqi) A place in which the feet are liable to slip.
ایسی جگہ جہاں پیر ضرور پہسلین

زمر (Zamr) In crowds. گروہ-گروہ

زہر (Zahr) Excessive cold (of hell)
جہنم کی سخت سردی

زنا Fornication. حرام کاری

زانی (Man) who is guilty of fornication.
بدکار مرد

زانۃ f. (Woman) who is guilty of fornication
بدکار عورت

زانون Are committing fornication.
حرام کاری کرتے ہیں

زانیۃ f. Will commit fornication.
حرام کاری کریں گی

زنیہ (Zaniyah) Spurious, illegitimate.
حرام کاری سے بدنام

زنجبیل (Zingiber) Ginger. ادراک-سونتھہ

زور (Zaur) A falsehood. جھوٹ

زور She declines. چھوڑ دیتی ہے

زوال (Zawal) To cease, perish.
ہلاک ہونا-باقی نہ رہنا

زالت f. Separated. الگ ہوئی

زالتا Both separated one from the other.
دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے

تزل Thou shalt fail.
تو گرے گا-یا ناکامیاب ہوگا

تزلوا Both will fail.
دونوں گرے گئے یا ناکامیاب ہونگے

ازل Caused to fall. گرایا

تزل Will fall. گرے گا

زلنا We separated. ہم نے جدا کیا

زلتم (Zalim) You ceased. تم نہ رہے

تزل Will be separated. دور ہوگی

یزال Is being separated. وہ دور ہوتا ہے

یزالون f. Are making a separation.
سرکتی ہیں

زلتم (Zalim) You slipped. تم پھسلے یا گرے

زل استزل (Zalim) Caused to slip or fall, گراننا چاہا

زوج (Zawj) Husband. خاوند

زوجان Two pairs. دو جوڑے

زوجت f. Was united. ہلائی گئی

زوجنا We united. ہم نے ملایا

زوجین Two pairs, دو جوڑے

یونٹس Unites. جوڑ دیتا ہے

زہر (Zahr) Splendour. خوشنما-تازگی

زہوق (Zahiq) To vanish, disappear, vain, perishable.
پرباد ہونا-جاتا رہنا

زہق Perished or vanished.
پرباد ہوا-جاتا رہا

زہق That which vanishes away.
جو چیز جاتی رہتی ہے

زیت (Zait) Oil. تیل

زیتون The olive. ایک قسم کا درخت

زیتونۃ An olive tree. زیتون کا درخت

زایغ (Zayigh) To be inclined downwards.
نیچے کی طرف کو جھکنا

زایغ Was deviated. تیز ہوا

زایغت f. Deviated. کجی کی

زایغوا Were deviated. تیز ہوتے

یزایغ Will be perverted. تیز ہوا

زینۃ (Zayn) An ornament. زیور-سنگار

زین Decked out. بناو کیا

زینت f. She adorned. اوس نے بناو کیا

زینوا They prepared or adorned.
اونہوتے سنوارا

زینا We adorned. ہم نے بناو کیا

زین Was adorned. وہ سنوارا گیا

أزین I will make appear pleasing.
میں زینت ناک کرونگا

أزینت Appeared in pleasing disposition.
وہ خوشنما ہوئی

س

س This, near. بہ-قریب

سانۃ Name of a she-camel, an idol.
ساندنی-ایک بت

سائح (Saiḥ) Who fasts. روزہ رکھنے والی

سائغون Those who fast. روزہ رکھنے والے

سایحوا To run backwards and forwards,
One who wanders. داغ ہونے والا

سایغ Agreeable to drink. پینے میں خوشگوار

سایغ Passing easily down the throat.
حلق میں آسانی سے اترتا ہے

سائق (Saiḥ) A driver. ہانکنے والا

سایقون We are driving. ہم چلاتے ہیں

سایقون Are driving. ہانکتے ہیں

ساق Leg, stalk. پنڈلی
 دو پنڈلیاں Two legs, two stalk. ساقی
 ساقین }
 Long coats of mail. (سبغ) سابغات
 كشاده زره بکتر
 پورا کیا Caused to abound. اسبغ
 آنکن A courtyard. (ساحة) ساحه
 A lord, a person of distinction. (سان) سانت
 حاکم-سردار
 Black. اسود
 کالے pl. Black. سود
 سیاہ ہوئی f. Was black. اسودت
 کالا کیا گیا Was blackened. مسود
 کالی کی گئی f. Was blackened. مسودت
 A lord, person of distinction. سید
 مالک-سردار
 One who goes forth freely and carelessly. (سرب) سارب
 آوارہ-گلیوں میں مارا مارا پھرنے والا
 A mirage, deicietful appearance, as of water in the desert. سراب
 دھوکھا-ربت پر پانی کا گمان ہونا
 وقت-گھڑی-زمانہ (ساع) ساعه
 One who is low vile, abject. (سفل) سافل
 کمینہ-نیچے رتبہ والا
 بہت نیچے ہونے والا Being very low. اسفل
 Lower and lowest. اسفلین
 بہت نیچے ہونے والا
 Which is low. سفلی
 Those who are low. سفلین
 کمینے-نیچے رتبے والے
 Those who pass their time in vanities. (سمد) سمدون
 جو اپنا وقت لغویات میں ضائع کرتے ہیں
 One who relates fables by night. (سمر) سامر
 شبکو قصہ کہنے والا
 Name of a smith who made the golden calf for the children of Israel. سامرے
 جس سدا نے بنی اسرائیل کے لئے بچھڑا بنایا تھا

The face of the earth. (سهر) ساهرة
 صاف میدان-سطح زمیں
 Those who neglect or forget, (سها) ساهرون
 بھولنے والے-بیخبر
 Cast lots. (سهم) ساهم
 قرعہ ڈالنا
 Shaba or Sheba. (سبي) سبیا
 ایک شہر کا نام
 Rest. (سبت) سبات
 آرام
 Sabbath day. (سبت) سبت
 اتوار
 Celebrating Sabbath. (يسبتون) يسبتون
 ہفتہ کرتے ہیں
 Means. (سبب) سبب
 وجہ-حیلہ-ذریعہ
 Things connected with one another. اسباب
 تعلقات
 You are reviling. (تسبوا) تسبوا
 تم گالی دیتے ہو
 Are reviling. (يسبوا) يسبوا
 گالی دیتے ہیں
 Act of swimming. (سبح) سبح
 تیرنا
 Are swimming. (يسبحون) يسبحون
 تیرتے ہیں
 He remembered with praise. (سبح) سبح
 اوسنے ستایش سے یاد کیا
 Remember with praise. (سبح) سبح
 ستایش سے یاد کر
 Praise. (سبحان) سبحان
 پاک
 They praised. (سبحوا) سبحوا
 انہوں نے ستایش کی
 Remember with praise. (سبحوا) سبحوا
 ستایش سے یاد کرو
 Those who celebrate praises. (يسبحون) يسبحون
 تسبیح پڑھنے والے
 We remember with praise. (نسبح) نسبح
 ہم ستایش سے یاد کرتے ہیں
 Remembers with praise. (يسبح) يسبح
 ستایش سے یاد کرتا ہے
 One who is being praised. (يسبح) يسبح
 ستایش کیا جاتا ہے
 You are remembering with praise. (تسبحون) تسبحون
 ستایش سے یاد کرتے ہو
 f. Are remembering with praise (تسبح) تسبح
 ستایش سے یاد کرتی ہیں

Are remembering with pr (تسبحون) تسبحون
 سے یاد کرتی ہیں
 Are praising. (يسبحون) يسبحون
 پیش کرتے ہیں
 To celebrate or perform the (تسبح) تسبح
 of God. سناٹاں کرنا
 Seven women. (سبع) سبع
 سات عورتیں
 Seven men. (سبعة) سبعة
 سات مرد
 Seventy. (سبعون) سبعون
 ستر
 A wild-beast. (سبع) سبع
 درندہ جانور
 To be in advance. (سبق) سبق
 آگے درزا
 Preceded, advanced. (سبق) سبق
 آگے درزا
 f. Advanced (سبق) سبق
 آگے ہوئی
 Advanced, preceded. (سبقوا) سبقوا
 آگے ہوئے
 One who advances. (سبق) سبق
 ہونے والا
 f. Those who go forth. (سبقات) سبقات
 ہونے والیاں
 Go before or go forth. (سبقوا) سبقوا
 ہو جاؤ
 Those who were surpassed. (سبقوا) سبقوا
 تھکے گئے
 We are surpassing or advancing. (يسبقون) يسبقون
 سبقت کرتے ہیں
 Surpasses. (سبق) سبق
 سبقت کرتا ہے
 f. Surpasses, goes before. (سبق) سبق
 لے ہوتی ہے
 Roads. (سبل) سبل
 راستے-سڑکیں
 A road, a way. (سبيل) سبيل
 سڑک-راستہ
 Six men. (ست) ست
 چھ مرد
 Sixty. (ستين) ستين
 ساٹھ
 Sixth. (سدس) سدس
 چھٹواں
 One-sixth. (سدس) سدس
 ایک چھٹہ حصہ
 A veil, covering. (ستر) ستر
 برقع-پردہ

تسجرون You are covering or hiding. تم چھپاتے ہو

تسجور That which is hidden. چھپایا ہوا

تسجرت f. Was poured forth. وہ ڈالی گئی

تسجور Made hot, burned. گرم کیا ہوا-جلا ہوا

تسجل A written scroll. لکھا ہوا طومار

تسجیل Backed clay. کھنگڑ

تسجن A prison. قید خانہ

تسجین A place where the register of the peoples' action is kept. دروز میں ایک میدان جہاں لوگوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں

تسجن Imprisons. قید کرتا ہے

تسجن Is being imprisoned. قید کیا جاتا ہے

تسجن Imprisoned. قید کئے گئے

تسجد To bow down. سجدہ کرنا

تسجد He adored. اوسنے سجدہ کیا

تسجد Bowing down. سجدہ کرتے ہوئے

تسجدوا They bowed. انہوں نے سجدہ کیا

تسجد I will bow down. میں سجدہ کرونگا

تسجد Thou bow down. تو سجدہ کر

تسجدوا You bow down. تم سجدہ کرو

تسجدي f. Bow down. سجدہ کر

تسجد Thou art bowing down. تو سجدہ کرتا ہے

تسجدوا You are bowing down. تم سجدہ کرتے ہو

تسجد One who bows down. سجدہ کرنے والا

تسجدون Those who bow down. سجدہ کرنے والے

تسجد A place of adoration, mosque. عبادت گاہ-سجدہ کی جگہ

تسجد Mosques. مسجدیں

تسجد We are bowing down. ہم سجدہ کرتے ہیں

تسجد He bows down. وہ سجدہ کرتا ہے

تسجدان They both are bowing down. وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں

تسجدون Are bowing down. سجدہ کرتے ہیں

تسجد Tranquilled darkened. تاریکی میں-خاموش

تسجد A cloud. بادل

تسجد Will be dragged. کھینچے جاوینگے

تسجدت Unlawful, forbidden. حرام

تسجدت Destroys. ہلاک کرتا ہے

تسجد Sorcery. جادو گری

تسجد The early dawn. بڑی فجر

تسجد Morning. صبح

تسجدان Two enchantments. دو جادو

تسجد Magicians. جادوگر

تسجد A great magician. بڑا جادوگر

تسجدوا They bewitched. انہوں نے جادو کیا

تسجد One bewitched. جادو کیا ہوا

تسجدون Deluded by sorcery. جادو کئے ہوئے

تسجدون Deluded by sorcery. جادو کئے گئے

تسجد A magician, sorcerer. جادوگر

تسجدان Two magicians. دو جادوگر

تسجد The act of being far off. فاصلہ-دوری

تسجد Far distant. بہت دور

تسجد Isaac. ابراہیم اور سارہ کا فرزند اسحاق

تسجد He ridiculed. اوسنے ہنسی کی

تسجدوا They ridiculed or jeered. انہوں نے ہنسی کیا

تسجد A jeer. مسخرا

تسجد One who jeers. ہنسی کرتا ہے

تسجدون Are jeering. ہنسی کرتے ہیں

تسجد Act of jeering. مسخرا پن

تسجدون You are jeering. تم ہنسی کرتے ہو

تسجد We are jeering. ہم ہنسی کرتے ہیں

تسجدون Are jeering. ہنسی کرتے ہیں

تسجد He subdued or snbjected. اوسنے فرمانبردار کیا

تسجد We made or compelled to serve. ہم نے فرمانبردار کیا

تسجد Who was subjected or compelled. فرمانبردار کیا ہوا

تسجدات f. Who were subjected or compelled. فرمانبردار کی ہوئیں

تسجد Wrath. عذاب

تسجد He was angry or wrath. وہ غصہ ہوا

تسجدون Are getting angry. ناخوش ہوتے ہیں

تسجد A rampart, bar. دیوار

تسجد Well-directed. سیدھا

تسجد Two mountains or high walls. دو بلند دیواریں یا پہاڑ

تسجد A lote-tree. ایک بیڑ کا درخت

تسجد Uncared for, neglected. بے سرد-بھلایا ہوا

تسجد A secret. راز

تسجد Secrets. راز

تسجدون تسجرون } You are keeping private or hiding. تم چھپاتے ہو

تسجدون That which was hidden. چھپایا گیا

تسجدون Are hiding. چھپاتے ہیں

تسجد Joy. خوشی

وہ خوشی کرتی ہے Rejoices. f. تسر
 خوش کیا ہوا Rejoiced one. تسرور
 تخت A couch, throne. سرر
 کرتے Garments. (سربل) سراپیل
 چراغ A lamp. (سرج) سراج
 چھوڑنا To dismiss. (سرح) سراج
 رخصت دو Make free or give leave. سرحوا
 رخصت کرنا-طلاق Dismissal, divorce. تسریح
 You lead out to pasture in the morning تم صبح کے وقت چراتے ہو تسرحون
 Rings woven together. (سرد) سرد
 جڑی ہوی کڑیاں
 اوسنے چرایا He stole. (سرق) سرق
 چرانے والا One who steals. سارق
 چرانے والے Those who steal. سارقون
 چرانے والی f. One who steals. سارقة
 وہ چراتا ہے He steals. يسرق
 چراتی ہیں f. Are stealing. يسرقن
 اوسنے چرانا چاہا He wished to steal. استرق
 ہمیشہ Perpetually. (سرمد) سرمد
 پانی کا چشمہ Rivulet. (سری) سری
 سیر کرا To travel. أسر
 Has caused to travel by night. اسری
 رات کو سیر کرای
 Travelling by night. يسر
 رات کو سیر کرتے ہیں
 تیز-جادی Swift, prompt. (سرع) سریع
 One who hastens. سراع
 جلدی کرنے یا دوڑنے والا

Hasten, hurry up. سارعوا
 جلدی کرو یا دوڑو
 We are hastening. نسارع
 ہم جلدی کرتے ہیں
 Are hastening or running. يسارعون
 جلدی کرتے یا دوڑتے ہیں
 f. Was spreaded out. (سطح) سطات
 بچھائی گئی
 Were blessed. (سعد) سعوا
 نیک بخت کئے گئے
 Blessed one. سعيد
 نیکبخت
 Madness. (سعر) سعر
 دیوانگی
 A burning fire. سعیر
 جلانے والی آگ
 f. Was lighted. سعرت
 روشن کی گئی
 To run. (سعی) سعی
 دوڑنا
 Ran. سعی
 دوڑا
 They endeavoured. سعوا
 اونہوں نے کوشش کی
 Runs. يسعی
 دوڑتا ہے
 Are running. يسعون
 دوڑتے ہیں
 Ignorance, fault. (سفة) سفة
 نادانی-خطا
 Foolish, silly. سفہ
 جسنے خطا کی
 Fornicator. سفیه
 حرام کار
 Transgressors. سفهاء
 گنہگار لوگ
 Ship, the ark. (سفن) سفینة
 جہاز-کشتی
 A journey. (سفر) سفر
 راہ چلنا
 f. A scribe. سفرة
 لکھنے والی
 Books or tomes. اسفار
 کتابیں
 Angels who write men's deeds. سفرة
 فرشتے جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں
 Journeys, travels. اسفار
 سفر
 Brightened. اسفر
 روشن ہوا
 White سفرة
 سفید

Will shed. (سفک) سفکون
 خون بہاؤ گے
 Shedding. blood. يسفک
 خون بہاتا ہے
 To give drink. (سقی) سقایة
 پانی پلانا
 He gave to drink. سقی
 پانی پلایا
 Thou hast given to drink. سقت
 پانی پلایا
 We gave to drink. سقتا
 ہم نے پلایا
 Were given to drink. سقوا
 پلائے گئے
 f. Does not moist. لا تسقی
 تر نہیں کرتی
 Turn of drinking. سقیا
 پینے کی باری
 f. Gives to drink. تسقی
 وہ پلاتی ہے
 f. Shall be given to drink. تسقی
 پانی جاریگی
 I cause to drink. اسقی
 پلاتا ہوں
 He asked for drink. استسقی
 سنے پانی مانگا
 We gave water to drink. اسقنا
 ہم نے پانی پلایا
 We are giving to drink. نسقی
 ہم پلاتے ہیں
 We will give to drink. نسقی
 ہم پلائینگے
 Are giving to drink. يسقون
 پلاتے ہیں
 Is forced to drink. يسقئ
 پلایا جاتا ہے
 Are forced to drink. يسقون
 پلائے جاتے ہیں
 Heli-fire. (سقر) سقر
 درخ کی آگ
 He was made to fall in. سقط
 وہ ڈالا گیا
 Fallen down. سقطوا
 گر پڑے
 Thou hast fallen. اسقط
 تو گرا
 f. Falling. تسقط
 گرتی ہے
 Thou shalt cast down. تسقط
 تو گرایگا
 f. Will cast down. تساقط
 وہ گرائیگی
 We are casting down. نسقط
 گراتے ہیں

چھت (سقف) A roof. چھت
 چھتیں Roofs. چھتیں
 بیمار (سقم) Sick, ill. بیمار
 بپھوش لوگ (سکر) Drunken. بپھوش لوگ
 بپھوشی Stupefaction. بپھوشی
 f. Was made drunken or bewildered. بپھوش کی گئی
 سرکہ-کھجور کی شراب Vineger, date-wine. سرکہ
 آرام-خاموشی (سکن) Rest, quiet. آرام
 اوسنے آرام کیا He rested. سکن
 تم بسے You inhabited. سکنتم
 آرام Tranquillity, security. سکیدتہ
 تو بس Dwell thou. سکن
 تم بسو You dwell. سکنوا
 میں نے بسایا I inhabited. سکنت
 ہم نے ٹھرایا We fixed. سکننا
 تم جگہ دو You give a dwelling. سکنوا
 بسائی جاتی ہے f. Is being inhabited. سکن
 تم قرار پکرتے ہو You are securing a rest. سکنون
 گھر-مکان An abode, house, dwelling. سکن
 آبادی بستی A habitation, village. سکنونہ
 جگہیں Places, abodes. سکان
 ہم بسائنگے We will inhabit. سکن
 رہتا ہے Dwells, abides. سکن
 رہتے ہیں Are abiding. سکنوا
 چھری A knife. سکن
 کنگال لوگ Poor people. سکان
 کنگال Poor. سکان
 محتاجی Poverty, misery. سکنہ
 چپ رہا Appeased-anger. سکت

زنجیر (سلسل) A chain. زنجیر
 زنجیریں Chains. زنجیریں
 خلاصہ An extract, a brief. خلاصہ
 Withdrawing privately. چپکے سے کھسکتی ہیں
 Name of a fountain in Paradise. چپکے سے کھسکتی ہیں
 فردوس میں ایک چشمہ کا نام ہے
 قوت دی-معین کیا Was given power. (سلط) سلاط
 Power, authority, demonstration. قوت دی-معین کیا
 دلیل-غلبہ
 غالب کرتا ہے Gives victory. سلاط
 پہلے-اگلے Previous, ancient. سلف
 That which was past. سلف
 جو آگے ہوا یا گذرا
 They abused or irritated. سلقوا
 انہوں نے تیز کیا یا بھڑکایا
 چلا Walked. (سلك) سلك
 ہم چلاتے ہیں We cause you to walk. سلك
 وہ چلاتا ہے He causes to walk. سلك
 Obedience to the doctrine of Islam. اسلام کا مطیع ہونا
 اوسنے گردن رکھی He submitted. سلك
 اوسنے بچایا Preserved or delivered. سلك
 تم نے سپرد کیا You submitted or handed over. سلك
 سلام کرو Greetings. سلام
 کامل-بے عیب Perfect, sincere. سلام
 دعا A greeting of peace. سلام
 تابعداری Obedience. سلام
 وہ فرمانبردار ہوا He was submitted. سلام
 دونوں نے حکم مانا Both obeyed. سلاما
 تابع ہوئے Submitted. سلاموا

تم تابع ہوئے You were submitted. سلامتم
 میں تابع ہوا I was submitted. سلامت
 ہم تابع ہوئے We were submitted. سلامنا
 تو فرمانبردار ہو Submit thou. سلام
 تم فرمانبردار ہو You submit. سلاموا
 تم حکم مانوگے You will obey. تسلمون
 حکم بجا لانا To obey. تسلميم
 تم سلام کروگے You will greet. تسلموا
 فرمانبردار Obedient. تسلم
 پیروی کرنے والے Believers. تسلمون
 ایمان والی عورتیں Believing women. تسلمات
 سونپی گئیں Were handed over. تسلموا
 ہم اسلام لائے ہیں We believe in Islam. تسلموا
 سونپتا ہے Hands over. تسلموا
 Are believing in Islam. تسلمون
 اسلام لائے ہیں
 قبول کرتے ہیں Are accepting. تسلموا
 Those who resign themselves to God. تسلمون
 خدا کے سامنے گردن جھکانے والے
 سليمان Soloman. سليمان
 بتیریں Quails. (سلا) سلوي
 سوراخ A hole. (سم) سم
 A hot wind, a pestilential scorching wind. نہایت گرم و جھلسا نہ والی ہوا
 آسمان Heaven. (سما) سما
 آسمانوں Heavens. سماوات
 نام A name. اسم
 ناموں Names. اسماء
 نام رکھا گیا Was named. اسمي
 نام رکھنا The act of naming. اسمية

سمِعَ Is being named. وہ نام رکھا جاتا ہے
 اسمعون Are naming. نام رکھتے ہیں
 کان-سننا Ear, to hear. (سمع) سمع
 سمع He heard. اوسنے سنا
 سمعون They heard. انہوں نے سنا
 سمعت f. She heard. اوسنے سنا
 سمعتم You heard. تم نے سنا
 سمعوا We heard. ہم نے سنا
 سمیع One who hears. سننے والا
 سمعون Hearers, audience. سننے والے
 اسمع I am hearing. میں سنتا ہوں
 اسمع Hear thou. تو سن
 اسمعوا You hear. تم سنو
 اسمع He declared or announced, he made to hear. اوسنے سنایا
 اسمع What hearest. کیا سنتا ہے
 اسمع Thou art hearing. تو سنتا ہے
 اسمعون You are listening. تم سنتے ہو
 اسمعون You are hearing well. تم خوب سنتے ہو
 اسمع Thou hearest. تو سنتا ہے
 اسمع One who makes to hear or announces. سنانے والا
 اسمع One who was made to hear. سنایا گیا
 اسمع One who is hearing. سننے والا
 اسمعون Those who hear. سننے والے
 اسمع We are hearing. ہم سنتے ہیں
 اسمع He hears. وہ سنتا ہے
 اسمع He hearkeneth. وہ سنتا ہے

سمعون } Are hearing. سنتے ہیں
 اسمعون }
 سمع He hears. وہ سنتا ہے
 اسمعون Not hearing well. خوب نہیں سنتے
 سمك A highest part of the interior of a building. مکان کے اندر کی بلندی
 سمك Fat. موتا
 سمك Fat. موٹے
 لايسمن Does not fatten. موتا نہیں کرتا
 سن A tooth. دانت
 سنن A law. دستور-قانون
 سنن Ordinances. طرز-طریقے
 سناء Splendour. روشنی
 سنين A several years. کئی برس
 سنة To be musty, mouldy through age. برس-بوسیدہ-پرانا
 سنة Becomes musty. سرتا ہے
 سنة Musty, mouldy through age, سرتی ہوئی
 سنبل (سنبل) Ears of corn. اناج کے خوشے یا بالیں
 سنبلات }
 سنبل } An ear of corn. بالی-خوشہ
 سنبل }
 سنبل }
 سندس Fine silk. یک قسم کا ریشمی کپڑا
 سوء Evil. برائی
 سوء Wickedness. بدذاتی
 سوء Evils, shame, secret parts. شرم-بدذاتیاں
 سيات Evil actions. برے کام
 سيئة Wickedness. برائی
 سيء One who was vexed. برا کیا گیا-ستایا گیا

سمعت f. Were sad. غمزدہ ہوئی
 مسمي An evil-doer. بدکار
 سمعوا Are doing evil. برا کرتے ہیں
 سوء Wickedness. بدی
 سوء Worst. نہایت بری
 سواء (سوي) } Equal. برابر
 سواء }
 سوي Right, correct. درست-سیدھا
 مساوي Made equal. برابر کیا
 سوي He made right or equal. اوسنے درست یا برابر کیا
 سوي I made equal. میں نے برابر کیا
 استوي f. Being corrected. درست ہوتی ہے
 استوي Right, firm. قائم-سیدھا
 استوت f. Rested. وہ قائم رہی
 استويت Go up into. چڑھ یا سوار ہو
 استويتم You went into. تم چڑھے یا سوار ہوئے
 نسوي We are making equal. ہم برابر کرتے ہیں
 يستوي Getting equal. برابر ہوتا ہے
 يستويان Both are being equal. دونوں برابر ہوتے ہیں
 سواع Name of an idol. ایک بت کا نام ہے
 سورة A chapter of Quran. قرآن کا ایک باب
 سور Chapters. ابواب
 سور A wall. دیوار
 تسورا Climbed over the wall. دیوار پر چڑھے
 اسورة A bracelet. کنگن
 اساور Bracelets. کنگنیں
 سوق A market-place. خرید و فروخت کی جگہ

سابق Shall be driven, conducted. ہانکا گیا۔ چلایا گیا

نسوق We are conducting. ہم چلاتے ہیں

یساقون Are being driven or drawn. کھینچے جاتے ہیں

مساق The act of driving. چلنا

سیر To go, travel. چلنا (سار) سیر

سیروا Wander, journey. سفر۔ پھرنا

سیرا Those who travel. سیر کرنے یا پھرنے والے

سیرت f. Was made to go. چلائی گئی

سیر They went. وہ چلے گئے

سیر We are causing to pass away. ہم چلاتے ہیں

سیر Causes to pass away. چلاتا ہے

سیرة State, condition, nature. حالت۔ عادت

سوط A scourge. کڑا

سوف Near at hand. بالکل قریب ہے

سول He contrived or suggested. اوسنے ترغیب دی

سولت f. Prepared. اوسنے درست کیا

سول To ask, questioning, پوچھنا (سال) سوال

سول Was asked for. مانگا گیا

سئل He who asked وہ پوچھا گیا

سئلت f. Was asked. پوچھی گئی

سئلوا Were asked. پوچھے گئے

اسئل I am asking. میں مانگتا ہوں

اسئلوا Ask. مانگو

تسئل Thou art questioning. تو سوال کرتا ہے

تسئلون You are asking. تم پوچھتے ہو

تسئل Thou shalt be asked. تو پوچھا جائگا

تسئلون You shall be asked. تم پوچھے جاؤ گے

تسئلون You are asking amongst yourselves. تم آپس میں پوچھتے ہو

نسال We are asking ہم پوچھتے ہیں

نسئل We are being asked ہم پوچھے جاتے ہیں

یسئل Asks. پوچھتا ہے

یسئلون Are asking. پوچھتے ہیں

یسئل Is being asked. پوچھا جاتا ہے

یسئلون Are being asked. پوچھے جاتے ہیں

یسئلون Asking one another. آپس میں پوچھتے ہیں

سئل Ask thou. تو پوچھو

اسئل I am asking or requesting. میں مانگتا ہوں

سئل Thou ask or request. تو مانگ

اسالوا You ask. مانگو

سئلون One who was asked. پوچھا گیا

مسئلون Those who were asked. پوچھے گئے

سہول A plain or soft ground. میدان۔ نرم جگہ

سہما A sign, mark. نشان

تسئلون You are suffering or grieving. تم ملول ہوتے ہو

تسئلون You lead out to grazing. تم چرانے ہو

یسوم He tastes. وہ چکھتا ہے

یسومون They are tasting. وہ چکھتے ہیں

مسومة f. Which was marked. شان کی گئی

مسومین Those who were marked. نشان کئے گئے

مسومین Those who make a mark of distinction. نشان کرنے والے

سابل A brook, torrent. چشمہ۔ تالاب

اسلنا We caused to flow. ہم نے بہایا

سینن (سینن) Sinai territory. کوة سینا کا علاقہ

سینین

ش

اوسنے چاہا He desired, wished. (شا) شاء

تسئت Thou hast desired or wished. تو نے چاہا

شدتما You both desired or wished. تم دونوں نے چاہا

شدتم You wished. تم نے چاہا

شدنا We wished. ہم نے چاہا

تشاء Thou art willing or desirous. تو چاہتا ہے

تشاءون You are willing. تم چاہتے ہو

نشاء We are willing. ہم چاہتے ہیں

یشاء He wishes. وہ چاہتا ہے

یشاءون Are willing. چاہتے ہیں

شی A thing, matter. معاملہ۔ چیز

اشیاء Things, matters, affairs. معاملات۔ چیزیں

شاختة f. That which is fixed in horrors, as the sight of the eyes. اوپر لگنے والی

تشاءون Will be fixed in horror. اوپر لگ جائیگی

شاطی Bank of a river or valley. دریا یا وادی کا کنارہ

شطا The stalk of a plant. تنہل۔ خوشہ

شاکلة A similitude, mode, likeness. عادت۔ طریقہ

شکل A similitude, likeness. مانند

شامخات That which is lofty. بلند

شان (شان) A matter, business, thing.
کام-معاملہ

مشبہ کیا گیا (شبه) Was made alike.
مشبہ

That which is similar.
جو شبہ میں ڈالتے ہیں

Observed a mutual likeness.
شبہا پرا

مانند ہوئی f. Was alike. تشابہت

یکساں Alike. متشابه

Alike, metaphorical, ambiguous.
استعارہ متشابهات

موسم سرما (شتا) Winter. شتاء

Separated, divided into classes
الک-پراگندہ (شت) شتی

Displaced articles or things.
پراگندہ چیزیں اشقات

A plant, tree. (شجر) شجر

پودھا-درخت

Matter of controversy. شجر

A plant, a tree. شجرۃ

بخل (شم) Avarice. شح

چربیوں (شحم) Fats. شحوم

زبردست-تند (شد) Strong, violent. شداد

We hardened. شددنا

مضبوط کرو Bind firmly. شدوا

زور آور-سخت Powerful, most strong. شدید

مضبوط (شد) Strong. مشید

f. Was made strong or hard.
مضبوط کی گئی مشیدۃ

He forced or violated against.
اُس نے زور کیا یا سرکشی کی شدت

بہت سخت Very hard. شد

زور اور قوت Strength and power. شد

نہایت زبردست Most strong. شداء

مضبوط کرونگا I will strengthen. شد

سخت کر More or most strong اشد

We are strengthening. نشد

ہم مضبوط کرتے ہیں

بدی (شر) Evil. شر

آگ کی چنگاریاں Sparks of fire. شرر

To drink, a beverage. (شرب) شراب

پینا-پینے کی چیز

He drank. شرب

A portion of water. شرب

ایک مرتبہ پینے کا پانی

اونہوں نے پیا They drank. شربوا

ہم پیتے ہیں We are drinking. شربون

پینے کی جگہ A drinking place مشرب

پینے کی جگہیں Drinking places. مشارب

وہ پیتا ہے He drinks. يشرب

پیتے ہیں Are drinking يشربون

اونہوں نے کھولا (شرح) شرح

تو کھول Open thou. اشرح

We are enlarging. نشرح

ہم کشادہ کرتے ہیں

کشادہ ہوتا ہے Is being expended. يشرح

بہگادے Disperse. (شرد) شرد

A small band of men. (شرد) شردۃ

چند آدمیوں کی جماعت

To the east, eastern. (شرق) شرق

پورب کی طرف

Towards sunrise. شرقیۃ

The place of sunrise, the East. مشرق

سورج نکلنے کا مقام-پورب

The two Easts or the two places
where sun rises in winter and
summer. مشرقین

سورج نکلنے کے دو مقام

At sunrise. مشرفین

سورج نکلنے ہوئے-روشنی ہوتے ہوئے

پورب Eastern parts. مشارق

رہ چمکی Has shined. اشرفت

صبح کا وقت The sunrise. اشراق

A sharer or share-holder. (شرك) شرک

شریک Share-holder, partner. شرکاء

اونہوں نے شریک کیا He associated. اشرك

They associated. اشركوا

اونہوں نے شریک کیا

Thou associated. اشركت

تو نے شریک کیا

You associated. اشركتم

نے شریک تھرایا اشركتموا

Thou art associating. تشرک

شریک کرتا ہے

You are associating. تشرکون

ساجھی تھراتے ہو

One who gives associates. مشرک

یک تھرانے والا

Those who give associates. مشرکین

یک تھرانے والے

f. One who gives associates. مشرکۃ

یک تھرانے والی

f. Those who give companions. مشرکات

یک تھرانے والیاں

Those who partake or share. مشرکون

یک ہونے والے

We make companions. نشرک

ہم شریک کرتے ہیں

He gives companions. يشرک

وہ شریک کرتا ہے

Are giving associates. يشركون

شریک کرتے ہیں

f. Are giving companions. يشركن

شریک کرتی ہیں

One who is being associated. يشرك

شریک کیا جاتا ہے

Associate thou, shave thou. تشارک

تو شریک ہو

They sold or bartered. (شري) شروا

اونہوں نے بیچا یا خریدا

اونہوں نے مول لیا He purchased. اشترى

اؤنہوں نے مول لیا۔ They purchased. اِشْتَرَوْا
 تم مول لیتے ہو۔ You are buying. تَشْتَرُونَ
 ہم خرید کرتے ہیں۔ We are buying. نَشْتَرِي
 Barter, to buy, to take into exchange. سوداگری میں ادل بدل کرنا۔ بَشْتَرِي
 وہ خرید کرتے ہیں۔ They are buying. يَشْتَرُونَ
 خرید کرتا ہے۔ Buys. يَشْتَرِي
 مول لیتے ہیں۔ Are buying. يَشْتَرُونَ
 مول لیتے ہیں۔ خرید کرتے ہیں۔
 To lay down a law. (شرع) شَرِيعَةٌ
 قاعدہ یا قانون مقرر کرنا
 قانون۔ قاعدہ۔ شرع }
 شرع }
 شرعة }
 اوسنے مقرر کیا۔ He instituted. شرع
 Appearing openly or manifestly on the water. ظاہرا پانی پر آنے والے۔ شرع
 اؤنہوں نے تہرایا۔ They laid down. شرعوا
 طرف۔ A side, in the direction of. (شطر) شَطْر
 An extravagant falt or lie. (شط) شَطَط
 مبالغہ آمیز بات یا جھوٹ
 Thou art acting unjustly. تَشَطُّطُ
 تو زیادتی کرتا ہے
 (شعب) شعب }
 شعب }
 جماعتیں۔ کوی قوم }
 شعوب }
 Moses's Father-in-law. شعيب
 موسیٰ کے خسر کا نام
 Signs, rites, ceremonies. (شعر) شَعَائِر
 دستورات۔ نشانیاں
 نظم۔ Poetry. شعر
 بال۔ Hair. أشعار
 نظم لکھنے والا۔ A poet. شاعر
 شعر کہنے والے۔ Poets. شعراء
 Sirius, the Dog-star which was worshipped by the Arabs in Pagan times. ایک تارا جسکو دیوتا مانتے تھے

You do not percieve. لا تَشْعُرُونَ
 تم شعور نہیں رکھتے ہو
 A place appointed for sacred rites. مشعر
 مذہبی رسوم کے ادا کرنیکو ایک منتخب جگہ
 A place in the neighbourhood of Mecca. مشعر الحرام
 مکہ میں ایک جگہ ہے
 Are knowing, or having understanding. يَشْعُرُونَ
 جانتے ہیں
 Will inform, make known. يَشْعُرُ
 خبر کریگا
 Affected in the hearts core, inspired with voilent love. (شغف) شَغْفُ
 مودہ لیا۔ فریفتہ کیا
 Work, occupation. (شغل) شَغْلُ
 کام۔ پیشہ
 He has occupied or employed. شَغَلَتْ
 اوسنے کام میں لگایا
 Cure, healing. (شفا) شَفَا
 آرام
 Cures, heals. يَشْفِي
 شفا دیتا ہے
 A brink. شفا
 کنارہ
 سفارش. (شفع) شَفَاعَةٌ
 سفارش
 Those who intercede. شَافِعِينَ
 سفارش کرنے والے
 Intercessors. شَفَعَاءُ
 سفارش کرنے والے
 Are interceding. يَشْفَعُونَ
 سفارش کرتے ہیں
 Interceding. يَشْفَعُ
 سفارش کرتا ہے
 One who intercedes. شَفِيعُ
 سفارش کرنے والا
 A pair, double. شَفْعُ
 جوڑا
 دو ہونٹھہ۔ (شفة) شَفَتَيْنِ
 Redness of the sky after sunset. (شفق) شَفَقُ
 سورج تروبنے کے وقت کی سرخی
 You feared, تم ترے
 They feared. f. اشفقن
 وہ ترے
 Those who fear. مشفقون
 ترنے والے
 Split, chaved. (شق) شَقُ
 پھٹا۔ پھاڑا
 Trouble. شَقَاقُ
 لڑائی

Hardship. سختی شَقُ
 ہم نے پھاڑا۔ We asundered. شَقَقْنَا
 دور دراز سفر۔ A distance, a long way. شَقَّةُ
 تم ضد کرتے ہو۔ You are resisting. تَشَاقُفُونَ
 وہ پھٹا۔ Has asundered. اِنشَقُ
 وہ پھٹی۔ f. Asundered. اِنشَقَتْ
 وہ پھٹتا ہے۔ Is being asundered. يَشْتَقُ
 مخالفت کرتا ہے۔ Opposes. يَشَاقِقُ
 بدبختی۔ Wretchedness. (شقا) شَقْوَةٌ
 بدبخت کئے گئے۔ Are made miserable. شَقُوا
 کم بخت۔ Miserable, unhappy. شَقِي
 وہ بدبخت ہوتا ہے۔ He becomes most wretched or miserable. يَشْقِي
 تو سخت محنت میں پڑیگا۔ Thou shalt undergo a hard labour. تَشْقِي
 وہ سخت محنت میں پڑیگا۔ He shall undergo a hard labour. يَشْقِي
 شک۔ دھوکا۔ A doubt, deception. شَكُ
 احسان مند ہونا۔ To be grateful. (شکر) شَكَوُ
 اوسنے احسان مانا۔ He was grateful. شَكَرُ
 تم نے احسان مانا۔ You were grateful. شَكَرْتُمْ
 شکرینہ ادا کرنا۔ To thank, to show gratitude. شَكَوُ
 شکر گزار۔ One who is grateful. شَكَوُ
 میں احسان مانونگا۔ I shall be grateful. اَشْكُرُ
 تم احسان مانو۔ Be grateful. اَشْكُرُوا
 تم احسان مانتے ہو۔ You are grateful. نَشْكُرُونَ
 احسان ماننے والا۔ One who gives thanks. شَاكِرُ
 شکر گزار۔ Thankful. شَاكِرُونَ
 شکرینہ کے ساتھ قبول کیا۔ Gratefully accepted or acceptable. مَشْكُورُ
 وہ شکر کرتا ہے۔ He thanks. يَشْكُرُ
 شکر کرتے ہیں۔ Are thanking. يَشْكُرُونَ

شمال (شمال) The left hand side.
بائیں ہاتھ کی طرف

Left side. بائیں طرف

The sun. سورج (شمس) الشمس

Hatred. نفرت-دشمنی (شنا) شنان

Flames without smoke. بغیر دھوئیں کے شعلے (شواظ) شواظ

A mixture. ملاوت (شاب) شوب

A consultation. مشورہ (شار) شورى

Consulting with one another. باہم مشورہ کرنا (شاور) شاور

To consult. مشورہ کرنا (شاور) شاور

Made sign. اُسنے نشان دیا یا بلایا (اشارات) اشارت

Weapons, arms (party without arms) کانتا-ہتھیار کانتا (شاک) شوکت

Roasted, scalded. تلا ہوا-بھنا ہوا (شوي) شوي

Is roasting. بھونتا ہے (يشوي) يشوي

A flaming fire. شعلہ زن آگ (شهب) شهاب

Flames. شعلے (شهب) شهب

Witness, testimony. گواہی (شهادة) شهادة

Testimonies. گواہیاں (شهادات) شهادات

He gave testimony. اوسنے گواہی دی (شهد) شهد

You gave testimony. تم نے گواہی دی (شهدتم) شهدتم

They gave evidence. ادرہوں نے گواہی دی (شهدوا) شهدوا

We gave evidence. ہم نے گواہی دی (شهدنا) شهدنا

Witnesses. گواہ (شهداء) شهداء

A witness. گواہ (شاهد) شاهد

Two witnesses. دو گواہ (شہیدین) شہیدین

Witnesses. گواہوں (شاهدون) شاهدون

They are giving evidence. وہ گواہی دیتے ہیں (تشهد) تشهد

You are giving evidence. تم گواہی دیتے ہو (تشهدون) تشهدون

Witnesses. گواہوں (اشهاد) اشهاد

He made witness. اوسنے گواہ رکھا (اشهد) اشهد

Make witness. گواہ کر (اشهد) اشهد

Be witness. گواہ ہو (اشهد) اشهد

I made witness. میں نے گواہ کیا (اشهدت) اشهدت

Have or make witness. گواہ رکھو (اشهدوا) اشهدوا

You are witness. تم گواہ ہو (اشهدوا) اشهدوا

Giving evidence. گواہی دینی (مشهد) مشهد

That which was witnessed. گواہی دیا گیا (مشهدون) مشهدون

We shall give testimony. ہم گواہی دینگے (نشهد) نشهد

Are giving evidence. گواہی دیتے ہیں (يشهدون) يشهدون

A month. مہینہ (شهر) شهر

Months. مہینے (شهور) شهور

Lust. بری خواہش (شهوة) شهوة

Whatever they may desire. جو کچھ چاہیں (تشتہي) تشتہي

They will desire. وہ چاہینگے (اشتہت) اشتہت

Are desiring. خواہش کرتے ہیں (يشتمون) يشتمون

A sigh, the breath of an ass in braying. گدھے کی آواز (شہيق) شہيق

Old age. بڑھاپا (شاب) شبيب

Grey-headed, hoariness. سر کے سفید بال (شبيبة) شبيبة

An admixture of colour. رنگ برنگ یا داغ دار (وشى) شبيبة

An old man. بوڑھا (شاخ) شبيخ

Old men. بوڑھے (شيوخ) شيوخ

A sect, party. فرقے (شاع) شبيخ

True believers, faithful. وفادار-سچے ایماندار (شيعة) شيعة

Rumours. افواہیں (نشيخ) نشيخ

A devil, Satan. شیطان (شطن) شيطان

Devils. شیطانون (شياطين) شياطين

ص

The Sabeans. ستارہ پرست (صبا) صائبون

A companion, associate. ساتھی-رفیق-یار (صحب) صاحب

A consort, wife. عورت-جوڑو (صاحبة) صاحبة

Two companions. دو یار یا ساتھی (صاحبين) صاحبين

Thou shalt keep in company. تو ساتھ رکھیگا (تصاحب) تصاحب

To be kept in company. مصاحبت کئے جائیں (يصاحبون) يصاحبون

Keep company. ساتھ رہو (صاحب) صاحب

Deafening noise. بڑی سخت یا زور کی آواز (صاخة) صاخة

Swift. نہایت تیز رو (صافذات) صافذات

Those who hold their peace. چپ رہنے والے (صامتون) صامتون

To pour over. ڈالنا (صب) صب

He poured over. اوسنے ڈالا (صب) صب

Were poured out. ڈالے گئے (صبوا) صبوا

We poured. ہم نے ڈالا (صبنا) صبنا

Will be poured. دالا جائیگا

(صبح) صبح } The morning, the dawn.

صبح-پوپھتا

Early in the morning. فجر کو

Will do early in the morning.

صبح کریگا

Will be. ہونگے

One who does anything in the morning. صبح کو کرنے والا

They became. وہ ہوئے

She was. وہ ہوئی

Morning light. صبح کی روشنی

To become in the morning.

تو صبح کو ہو جائے

You rise in the morning,

تم صبح کرتے ہو

A lamp. چراغ

Lamps. چراغوں

To endure. برداشت کرنا۔ سہارنا

He endured.

اوسنے صحت کی برداشت کی

You endured. تم نے سہارا

We endured patiently. ہم نے صبر کیا

They endured patiently.

اونہوں نے صبر کیا

A great patient. بڑا صبر کرنے والا

One who is patient. صبر کرنے والا

Those who are constant or patient. صبر کرنے والے

f. One who is persevere.

برداشت کرنے والی

f. Those who are persevering.

برداشت کرنے والیاں

You persevere. تم برداشت کرو

Be patient thou. تو برداشت کر

Excel thou in patience. تو سہا

Be you constant.

تم ثابت قدم رہو یا برداشت کرو

Very patient. بڑا برداشت کرنے والا

You will excel in patience.

تم برداشت کرو گے

You will suffer patiently.

تم صبر سے برداشت کرو گے

We are suffering patiently.

ہم سہارتے ہیں

He suffers patiently. وہ سہارتا ہے

Are suffering or bearing.

صبر کرتے ہیں

Sauce. قورمہ۔ سالن

To dye, Baptism. رنگنا۔ غوطہ دینا

A male child. لڑکا

Dishes. وکابیاں

A leaf or page of a book, a book.

صفحہ یا کتاب

Big rock. بڑا پتھر

A rock. ایک پتھر

To hinder. مزاحم ہونا

He hindered. وہ مزاحم ہوا

Was hindered. مزاحمت کیا گیا

You hindered. تم نے مزاحمت کی

We diverted.

ہم نے روکا یا مزاحمت کی

The act of hindering. مزاحمت روکنا

They hindered. اونہوں نے مزاحمت کی

Were diverted. مزاحمت کئے گئے

He diverts. وہ روکتا ہے

Are diverting. روکتے ہیں

The serum in a wound, perulent matter. مواد۔ پیپ

The bosom, the breast. سینہ

Breasts. سینے یا چھاتیاں

Will proceed or go down. اترے گا

Will return. پھرے گا

Expound. پھوڑنا۔ پھٹنا

Expound into pieces. پارہ پارہ

Will have to suffer from headache. درد سر کی تکلیف اٹھائینگے

To be divided. جدا جدا ہونگے

He has turned aside.

اوسنے پھلوتھی کیا

Are turning aside.

کنارہ کرتے ہیں

Two gates. دو پھاتک

The truth. حق۔ سچ

He spoke the truth. اوسنے سچ کہا

Have spoken the truth. سچ بولے

Thou hast spoken the truth.

تو نے سچ کہا

f. Thou hast spoken the truth.

تو نے سچ کہا

We spoke the truth. ہم نے سچ کہا

He confirmed or believed in the truth.

اوسنے ساچا مانا

We believed in the truth.

ہم نے ساچا مانا

Very truthful. بڑا ساچا

A friend. یار۔ دوست

f. Very truthful. بڑی ساچی

Very truthful. بڑے ساچے

Very sincere. بڑا وفادار

To confirm. درست جاننا

You are believing.

تم ساچا مانتے ہو

Tester, one who confirms.

ساچا ماننے والا

<p>Those who verify or confirm. مصدقین سچا ماہر اقرار کرنے والے</p> <p>Those who verify. مصدقات f. سچا جاننے والیاں</p> <p>He believes. یصدق وہ سچا جانتا ہے</p> <p>They are believing. یصدقون وہ سچا جانتے ہیں</p> <p>Truthful. صاقد سچا</p> <p>Truthful. صاقدات f. سچپی</p> <p>Truthful. صاقدون سچے</p> <p>Alms. صدقة خیرات</p> <p>Alms. صدقات f. خیراتیں</p> <p>A dowery. صدقات جہیز یا مہر</p> <p>I will or shall give alms. اصدق میں خیرات کرونگا</p> <p>Give thou alms. تصدق تو خیرات کر</p> <p>You give alms. تصدقوا تم خیرات کرو</p> <p>He gave alms. تصدق اوسنے خیرات کی</p> <p>We pay penalty or retaliation. نصدق ہم تادان دیتے ہیں</p> <p>Are giving alms. یصدقوا خیرات کرتے ہیں</p> <p>Those who give alms or pay retaliation متصدقین تادان دینے والے</p> <p>Those who pay penalty. متصدقات f. تادان دینے والیاں</p> <p>Excessive cold that scorches plants. صو سخت سردی-پالا</p> <p>A loud cry. صرۃ فریاد</p> <p>A loud noise. صر زور کا شور</p> <p>They persisted. اصروا ارنہوں نے ضد کی</p> <p>Acting obstinacy. یصر ضد کرتا ہے</p> <p>Are persisting. یصرون ضد کرتے ہیں</p> <p>They did not persist. لم یصروا ارنہوں نے ضد نہ کی</p> <p>A way, and specially an open way, the name of a bridge over Hell. صراط راہ-پل دوزخ</p>	<p>A palace, a high tower. صرح ارنچا محل یا برج</p> <p>A loud roaring and furious wind. صرصر تیز و تند ہوا</p> <p>One who is subject to corea, lying prostrate. صرعی مرض مرگی کا مریض</p> <p>To turn, turn away. صرف پھیرنا</p> <p>He turned away. صرف اوسنے پھیرا</p> <p>Was turned, صرفت f. پھیری گئی</p> <p>We diverted. صرفنا ہم نے پھیرا</p> <p>We diverted over and over again. صرفنا ہم نے بار بار پھیرا</p> <p>I will divert. اصرف میں پھیرونگا</p> <p>Turn thou or avert thou. اصرف تو پھیر یا ہٹا</p> <p>Thou shalt avert. تصرف تو پھیرونگا</p> <p>You will be diverted. تصرفون تم پھیروے جاؤگے</p> <p>Turning or averting. تصرف پھیرنا</p> <p>A place to turn to, a refuge. مصرف پناہ گاہ-پھیرنے کی جگہ</p> <p>Was returned to. مصروف پھیرا گیا</p> <p>We are averting. نصرف ہم باز رکھتے ہیں</p> <p>We are averting over and over again. نصرف ہم بار بار پھیرتے ہیں</p> <p>He turns. یصرف وہ پھیرتا ہے</p> <p>Will be turned. یصرف پھیرا جائگا</p> <p>Turning aside. انصرفو ایک طرف پھیرتے</p> <p>One who brings help. صریح مدد گار</p> <p>Implores assistance. یستصرخ کسی کی مدد یا فریاد چاہتا ہے</p> <p>One who provides help. مصرخ مدد گار</p> <p>Imploring assistance. یصطرخون مدد کے لئے فریاد کرتے ہیں</p> <p>A garden whose fruit has all been gathered and trees were cut from their roots. صریم باغ کے پھل جمع کر کے درخت جڑ سے کٹے ہوئے</p>	<p>Will cut or gather the fruits. یصرمون نکلے-پھل توڑینگے</p> <p>Earth, sand or dust. صعید مٹی-خاک-ریٹ</p> <p>A severe torment in hell. صعد دوزخ کا سخت عذاب</p> <p>Name of a mountain of fire Hell. صعود دوزخ کے ایک پہاڑ کا نام</p> <p>You are ascending. تصعدون چڑھتے ہو</p> <p>Ascending with difficulty. یصعد شکل سے چڑھتا ہے</p> <p>Ascends. یصعد وہ چڑھتا ہے</p> <p>To swoon, expire. صعق بیہوش ہونا</p> <p>He was swooned. صعق وہ بیہوش ہوا</p> <p>Will be swooned. یصعقون بیہوش کئے جائینگے</p> <p>Contempt, vileness. صغار بیہودگی خرابی</p> <p>Small. صغیر چھوٹا</p> <p>One who is small. صغیرۃ f. چھوٹی</p> <p>A row, rank. صف قطار-درجہ</p> <p>Those who are arranging a line. صواف ترتیب سے قطار باندھنے والے</p> <p>Are arranged in orders. مصفوفة صفین باندھی ہوئیں</p> <p>Will be inclined towards. تصغی رجوع ہوگی</p> <p>Name of a mountain. صفا ایک پہاڑ کا نام</p> <p>A hard stone with smooth surface. صقوان چکنا صاف پتھر</p> <p>He has chosen. اصطفی اوسنے پسند کیا</p> <p>I selected. اصطفیت میں نے پسند کیا</p> <p>We selected. اصطفینا ہم نے پسند کیا</p> <p>Selects or chooses. یصطفی چن لیتا ہے</p> <p>Are chosen. مصطفین پسند کئے گئے</p> <p>Clarified, chosen. مصفا چنا ہوا-صاف کیا ہوا</p>
---	---	--

چن لیا Chosen in preference. اصحبى

معاف کرنا درگذر کرنا To pardon, forgive. صمغ

درگذر کرینگے Will pardon. يصفحوا

زردیاں Yellow. صفر

زرد Yellow. صفراء

زرد کیا گیا That which becomes yellow. مصفر

ہموار میدان A level plain. صمصف

تپانچہ مارا Stroke violently. صکت

پشت کی ہڈی The back-bone, or loins. صلب

اونہوں نے سولی چڑھایا They crucified. صلبوا

سولی دیا جائگا Will be crucified. يصلب

سولی دئے جائینگے Will be crucified. يصلبوا

سولی چڑھاؤنگا I will crucify. اُصلب

ریگانگت-مواقت Peace, reconciliation. صلح

نیک ہوا Honest, good upright. صلح

وہ صلح کرتا ہے He makes peace or reconciles. يصلح

اوسنے صلح کی He reconciled. اصطح

تم صلح کرو You reconcile or make peace. اصطحوا

ہم نے اچھا کیا We have done good. اصطحنا

تو صلح کر Reconcile thou. اصطح

تم صلح کرتے ہو You are making peace. تصطحون

صلح کرنے والا One who reconciles. مصلح

اصلاح کرنے والے Reformers مصلحون

یصلحون They are reforming.

درست کرتے ہیں

دونوں صلح کرتے ہیں Both are reconciling. يصلحا

ایک نیک مرد One who is righteous, name of a Prophet. صالح

دو نیک مرد Two good men. صالحين

نیک آدمی } Good or righteous men. صالحون

نیک عورتیں Righteous women. صالحات

ساخت پتھر Hard stone. صلد

خشک گارا Dry clay. صلصال

دعا-نماز A Prayer, صلوة

دعائیں-نمازیں Prayers. صلوات

اوسنے نماز پڑھی He performed or said prayers. صلى

تو نماز پڑھے Thou offer prayer. صل

تو نماز پڑھتا ہے Thou art saying prayer. تصلي

نماز کی جگہ A place of prayer. مصلی

اونہوں نے نماز پڑھی They have said prayers. صلوا

دروں بھیمجو Give blessing. صلوا

نماز پڑھنے والے Those who say prayers. مصلين

وہ نماز پڑھتا ہے He says prayers. يصل

نماز پڑھتے ہیں Are saying prayers. يصلون

جہنم کے نزدیک پہنچنے والا One who gets nearer to the Hell fire. صلي

آگ میں جلنا To burn. صليا

آگ کو پہنچتا ہے Reaches to the fire. يصل

آگ کو پہنچتے ہیں Are reaching in the fire. يصلون

تم سینکو You roast yourselves. اصلاوا

میں اونکو جھونکونگا I will thurst them (into the fire.) اصلي

تم تاپتے ہو You are warming at the fire. تصطاون

پہنچنا To undergo. تصلية

وہ پہنچے گا Will undergo. تصلي

بھرا Deaf. صم

بھرے ہوئے Were deaf. صموا

دایم-بے نیاز Sublime, everlasting. صمد

بنانا To make. صنع

اونہوں نے بنایا They made. صنعوا

تو بنا Make thou. اصنع

تم بناتے یا کرتے ہو You are doing or making. تصنعون

تو بنایا جائگا Thou shalt be made. تصنع

وہ بناتا ہے He makes. يصنع

بناتے ہیں Are making. يصنعون

قلعے-کنوئیں-حوضیں A cistern, cisterns, palaces. مصانع

Thicket, other trees springing from the same root. صنوان

گھنے درخت جو اوسے جڑ سے پیدا ہو

A drinking cup, measure. صواع

پیمانہ-پانی پینے کا بڑا پیالہ

خانقاہیں Monastries. صوامع

آواز A sound, voice. صوت

آوازیں Voices. اصوات

شکل A form. صورا

شکلیں Forms. صور

اوسنے شکل بنائی He formed or fashioned. صور

ہم نے شکل بنائی We formed. صورنا

شکل بنانے والا One who forms. مصور

وہ شکل بناتا ہے He forms. يصور

نوسنگہ A trumpet. صور

روزہ (صام) Fast. صوم

Necessary (for him) to fast. لازم
چاہئے کہ روزہ رکھے

Fasting days. روزے کے ایام صیام

Those who fast. روزہ رکھنے والے صائمین

Those who fast. روزہ رکھنے والے صائمات

روزہ رکھنے والیاں

He fasts. وہ روزہ رکھتا ہے بصوم

Will be desolved. (صہر) یصہر
پگھلایا جائیگا

A rain. بارش صایب

He arrived or overtook. وہ پہونچا اصاب

Overtook or arrived. وہ پہونچے والی اصابت

I will compromise. میں میل کرونگا اصب

You overtaken. تم پہونچے اصبتم

We overtaken. ہم پہونچے اصبتنا

Is arriving. وہ پہونچتی ہے اصیب

You are arriving. تم پہونچتے ہو تصیبوا

Right. درست-بیشک صواب

Who overtakes. پہونچنے والا مصیب

One who overtakes. پہونچنے والی مصیبة

We are arriving. پہونچتے ہیں نصیب

Did not overtake. نہ پہونچا ام یصب

Not overtaking. نہیں پہونچتا لایصب

A shout, mighty noise. صیاحت (صاح)

ساخت آواز

Game. شکار صید

Chase, hunt. شکار کرو اصطاکوا

Forts. قلعے صیاصی

Summer. ایام گرما صیف

ض

Sheep. بہیرہ ضان (ضائن)

Tucked up in the belly, that which is slender. شکم سے ستا ہوا-لاغر ضامر

Pauting. ہانپنا ضبع

She laughed. وہ ہنسی ضحکت

One who laughs. ہنسنے والا ضاحک

One who laughs. ہنسنے والی ضحکة

Are laughing. ہنستے ہیں یضحکون

He made to laugh. اوسنے ہنسایا اضحک

You are laughing. تم ہنستے ہو تضحکون

Time after sunrise. سورج نکلنے کے بعد کا وقت ضحلی

Adversity. مخالفت ضد

Tribulation. مشقت-محنت (ضر) ضر
ضراء

Hurt, injury. چوت-نقصان ضر
ضرر

Affliction. نقصان ضرار

You will hurt. تم نقصان پہونچاؤ گے تضرون

Hurting. نقصان پہونچاتی تضار

You will hurt. تم نقصان پہونچاؤ گے تضاروا

One who hurts. نقصان پہونچانے والا ضار

Those who hurt. چوت لگانے والے ضارین

One who was hurt. نقصان پہونچایا گیا مضار

He does hurt. وہ نقصان کرتا ہے یضر

Are injuring. نقصان پہونچاتے ہیں یضرون

Will be harmed. نقصان پہونچایا جاوے گا یضار

I will force or press. اضطرار

میں مجبور کرونگا

One who is forced to submit. مجبور کیا گیا اضطر

You forced. تم نے مجبور کیا اضطرتم

We will press. ہم مجبور کریں گے نضطر

One compelled by necessity. مجبوراً-ضورناً مضطر

To beat, strike. مارنا ضرب

Beaten. مارا ضرب

They stroke. انہوں نے مارا ضربوا

You did beat. تم نے مارا ضربتم

We did beat. ہم نے مارا ضربنا

Was declared. بیان کیا گیا ضرب

Were declared. بیان کیے گئے ضربوا

Was declared. بیان کی گئی ضربت

You are declaring. تم بیان کرتے ہو تضربوا

We are declaring. ہم بیان کرتے ہیں نضرب

He declares. وہ بیان کرتا ہے یضرب

Are declaring. بیان کرتے ہیں یضربون

Are striking. "مارتی ہیں" یضربن

A plant growing in Hell. جہنم کی کانتے دار جھازی ضریع

To humble before God. خدا کے سامنے زاری تصرعا

خدا کے سامنے زاری کرنا

زاري كي Humbled. ^{نَضَع} نَضَع

انہوں نے زاري كي They humbled. ^{نَضَعُوا} نَضَعُوا

They are humbling themselves. ^{يَضْعَوْنَ} يَضْعَوْنَ }
^{يَضْعَوْنَ} يَضْعَوْنَ }
 زاري کرتے ہیں

Weakness, infirmity. ^{ضَعْف} ضَعْف

نقاہت-ناتوانی

بہت کمزور Very weak. ^{اَضْعَف} اَضْعَف

کمزور ہوا Became or was weak. ^{ضَعِفَ} ضَعِفَ

کمزور Weak. ^{ضَعُفًا} ضَعُفًا

سست-ناتوان Weak, idle. ^{ضَعِيفًا} ضَعِيفًا

کمزور اشخاص Weak persons. ^{ضَعِيفًا} ضَعِيفًا }
^{ضَعِيفًا} ضَعِيفًا }

کمزور One who is weak. ^{مُسْتَضْعِفُونَ} مُسْتَضْعِفُونَ

Are being found to be weak. ^{يُسْتَضْعَفُونَ} يُسْتَضْعَفُونَ

کمزور پائے جاتے ہیں

کمزور سمجھتا ہے Considers weak. ^{يَسْتَضْعِفُ} يَسْتَضْعِفُ

مانند-دھرا Double, like. ^{ضَعْفًا} ضَعْفًا

دوگنا Two-fold. ^{ضَعْفَيْنِ} ضَعْفَيْنِ

دوگنے Two-fold. ^{اَضْعَافًا} اَضْعَافًا

دوگنا کرنا One who doubles. ^{مَضَاعِفًا} مَضَاعِفًا

Those who double. ^{مَضْعِفُونَ} مَضْعِفُونَ

دوگنا کرنے والے

وہ دوگنا کرتا ہے He doubles. ^{يَضَاعِفُ} يَضَاعِفُ

دوگنا کیا جائگا Will be made double. ^{يَضَاعَفُ} يَضَاعَفُ

A handful of green and dry ^{ضَغْتًا} ضَغْتًا
 grass or other herbs, broom.

سبز اور سوکھی گھاس کا مٹھیا-جھاڑو

پراگندہ Confused. ^{اَضْلَغَتْ} اَضْلَغَتْ

میںدکیاں Frogs. ^{ضَفَادِعُ} ضَفَادِعُ

گمراہی Wandering. ^{ضَلَّ} ضَلَّ }
^{ضَلَّ} ضَلَّ }

وہ راستہ بھولا He has gone astray. ^{ضَلَّ} ضَلَّ

راہ بھولے Have wandered. ^{ضَلُّوا} ضَلُّوا

تو میں راہ بھولا I shall err. ^{ضَلَلْتُ} ضَلَلْتُ

تو ہم راہ بھولے We shall err. ^{ضَلَلْنَا} ضَلَلْنَا

One who goes more astray. ^{اَضَلَّ} اَضَلَّ

بڑا گمراہ

اوسنے گمراہ کیا He caused to err. ^{اَضَلَّ} اَضَلَّ

دونوں نے گمراہ کیا Both caused to err. ^{اَضَلَّا} اَضَلَّا

انہوں نے گمراہ کیا They seduced. ^{اَضَلُّوا} اَضَلُّوا

انہوں نے بھکایا They seduced. ^{اَضَلُّوا} اَضَلُّوا

تم نے بھکایا You seduced. ^{اَضَلَّمْتَ} اَضَلَّمْتَ

میں گمراہ کرونگا I will lead astray. ^{اَضِلُّ} اَضِلُّ

تو بھول جاتا ہے Thou art erring. ^{تَضَلَّ} تَضَلَّ

تم بھٹکتے ہو You are going astray. ^{تَضَلُّوا} تَضَلُّوا

تو گمراہ کرتا ہے Thou art seducing. ^{تَضَلَّ} تَضَلَّ

گمراہ کرنا To seduce, to cause to err. ^{تَضَلَّلَ} تَضَلَّلَ

بھکانے والا One who seduces. ^{مُضِلٌّ} مُضِلٌّ

بھکانے والے Those who seduce. ^{مُضِلِّينَ} مُضِلِّينَ

گمراہ کرتا ہے He seduces. ^{يَضِلُّ} يَضِلُّ

One who is being seduced. ^{يُضَلُّ} يُضَلُّ

گمراہ کیا جاتا ہے

گمراہ کرتے ہیں Are seducing. ^{يَضِلُّونَ} يَضِلُّونَ

گمراہ لوگ Wanderers. ^{ضَالِّينَ} ضَالِّينَ

حقیر-کوٹاہ Narrow, wretched. ^{ضَنَكًا} ضَنَكًا

بخیل Greedy, aviricious. ^{ضَمِينًا} ضَمِينًا

To enlighten, to illuminate or ^{ضَاءًا} ضَاءًا
 illumination. ^{اَضَاءًا} اَضَاءًا }
 روشن کیا Illuminated. ^{اَضَاءَت} اَضَاءَت }

روشن کرتا ہے Illuminates. ^{يُضِيءُ} يُضِيءُ

نقصان Harm, injury. ^{ضَارًا} ضَارًا

An unfair apportionment. ^{ضَائِرًا} ضَائِرًا

نامناسب-خراب

مہمان A guest. ^{ضَيْفًا} ضَيْفًا

مہمانی کرتے ہیں Are entertaining. ^{يَضِيفُوا} يَضِيفُوا

Narrow, straitened. ^{ضَيْقًا} ضَيْقًا

کوٹاہی-تنگی

To reduce to straits, narrow. ^{يَضِيقُ} يَضِيقُ

کوٹاہ-تنگ

تم تنگ کروگے You shall trouble. ^{تَضِيقُوا} تَضِيقُوا

تنگ دل ہوا Was straitened. ^{ضَائِقًا} ضَائِقًا

تنگ دل ہوئی Became or was straitened ^{ف. ضَائِقًا} ف. ضَائِقًا
 or troubled.

تنگ ہونے والا That which becomes narrow or ^{ضَائِقًا} ضَائِقًا
 straitened.

Is being troubled or straitened. ^{يَضِيقُ} يَضِيقُ

تنگ ہوتا ہے

ط

One who goes round about. ^{طَائِفًا} طَائِفًا

گرد پھرنے والا

گرد پھرا Has gone round. ^{طَافَ} طَافَ

One who makes a circuit of ^{طَوَافُونَ} طَوَافُونَ
 Kaba. گرد پھرنے والا

A company which go round. ^{طَائِفَةٌ} طَائِفَةٌ

گرد پھرنے والی گروہ

دوگروہ Two companies. ^{طَائِفَتَانِ} طَائِفَتَانِ }
^{طَائِفَتَيْنِ} طَائِفَتَيْنِ }

People who go round. ^{طَائِفِينَ} طَائِفِينَ

چار طرف پھرنے والے

وہ گرد پھرتا ہے۔ He goes round. **يَطُوفُ**
 گرد پھیرا جاتا ہے۔ Is made to go about. **يُطَافُ**
 وہ گرد پھرتا ہے۔ He goes arround. **يَطُوفُ**
 دن پھرتے ہیں۔ Are going arround. **يَطُوفُونَ**
 پھرتے ہیں۔ Are going about. **يَطُوفُونَ**
 زور کا پانی-سیلاب۔ A deluge. **طُوفَانٌ**
 سٹھرا ہوا۔ Became or was clean or pure. **طَابَ**
 سٹھری ہوئی۔ Became clean. **طَبِنَ**
 سٹھرا۔ Good, agreeable, clean. **طَيِّبٌ**
 پاکیزہ لوگ۔ Clean people. **طَيِّبُونَ**
 تم پاک ہو۔ You are clean. **طَيِّبْتُمْ**
 صاف عورت۔ Clean woman. **طَيِّبَةٌ**
 دل خوش کن چیزیں۔ Good, or pleasing things. **طَيِّبَاتٌ**
 خوبی۔ Happiness, good fortune. **طُوبَى**
 ہانکنے والا۔ A driver. **طَارِدٌ**
 میں نے ہانکا۔ I drove. **طَارَتُ**
 تو ہانکتا ہے۔ Thou drivest. **تَطْرُدُ**
 رات کو ظاہر ہونے والا۔ That which appears by night. **طَارِقٌ**
 سڑک-راستہ۔ A way, road. **طَرِيقٌ**
 راہ-روشن-چلن۔ A path, a line of conduct behaviour. **طَرِيقَةٌ**
 راستے۔ Tracts. **طَرَائِقُ**
 تابعداری۔ Obedience. **طَاعَةٌ**
 اوسنے تابعداری کی۔ Obeyed. **طَاعَتٌ**
 تابعداری کرنے والے۔ Those who obey. **طَائِعِينَ**
 اوسنے تابعداری کی۔ Obeyed. **أَطَاعَ**

اذنبوا } They obeyed.
 اطعن } اذنبوا نے تابعداری کی
 اطعمتم } You obeyed.
 اطعموا } تم نے تابعداری کی
 اطعنا } ہم نے حکم مانا
 اطيعوا } Obey. حکم مانو
 اطعن } اطيعوا
 تو تابعداری کریگا۔ Thou shalt obey. **تُطِعُ**
 تم فرمانبرداری کروگے۔ You will obey. **تُطِيعُوا**
 One who was obeyed. **مُطَاعٌ** فرمانبرداری کیا گیا
 ہم فرمانبرداری کریں گے۔ We will obey. **نُطِيعُ**
 فرمانبرداری کرتا ہے۔ Obeys. **يُطِيعُ**
 اپنی طرف سے دیا۔ Has given one's self. **تَطَوَّعَ**
 Those who give themselves willingly to perform good action. **مُطَوِّعِينَ**
 نیک کام کرنے کو خود بخود آمادہ ہونے والے
 They were capable. **إِسْطَاعُوا** اذنبوا نے مقدر رکھا
 Are not able. **لَا يَسْتَطِيعُونَ** طاقت نہیں رکھتے
 Is not fit or able. **لَا يَسْتَطِيعُ** وہ طاقت نہیں رکھتا
 Not been able. **لَمْ يَسْتَطِعْ** طاقت نہ رکھی
 Are obeying. **يُطِيعُونَ** فرمانبرداری کرتے ہیں
 An order will be obeyed. **يُطَاعُ** حکم مانا جائیگا
 Power, strength. **قُوَّةٌ (طَاقٌ) طَائِقَةٌ** قوت توانائی
 They shall be bound with a collar. **يُطَوَّقُونَ** گردن میں طوق پہنائے جائیں گے
 Are having power. **يُطِيقُونَ** طاقت رکھتے ہیں
 Saul, king of Israel. **طَالُوتُ (طَالُوتُ) طَالُوتٌ** ساول-شاہ اسرائیل
 A clamity, the very great clamity, the last judgment. **طَامَّةٌ** ہنگامہ قیامت

One above another. **طَبَقٌ** (طبق) **طَبَقٌ**
 In order one above another. **طَبَقٌ**
 اوسنے مہر کی۔ He sealed up. **طَبَعَ**
 وہ مہر کرتا ہے۔ He seals. **يُطَبِعُ**
 ہم مہر کرتے ہیں۔ We are sealing. **نُطَبِعُ**
 He has spreaded out or expanded. **طَبَعًا** (طحن) **طَبَعًا**
 اوسنے بچھایا۔ Extreme part or portion, verge, border. **طَرَفٌ**
 دو کنارے۔ Two verges, borders. **طَرَفَيْنِ**
 تازہ۔ Fresh. **طَرِيٌّ**
 An eatable thing, food. **طَعَامٌ**
 ہانے کی چیز-خوراک۔ Taste. **طَعْمٌ** ذائقہ-مذا
 تم نے کھایا۔ You ate. **طَعَمْتُمْ**
 اذنبوا نے کھایا۔ They ate. **طَعَمُوا**
 کھلانا۔ To feed. **إِطْعَامٌ**
 اوسنے کھلایا۔ He fed. **أَطْعَمَ**
 تم کھلاؤ۔ You feed. **أَطْعَمُوا**
 ہم کھلاتے ہیں۔ We are feeding. **نُطْعِمُ**
 وہ کھلاتا ہے۔ He feeds. **يُطْعِمُ**
 وہ کھلانا ہے۔ He is being fed or provided. **يُطْعَمُ**
 کھلایا جاتا ہے۔
 نہ کھایا۔ Did not eat. **لَمْ يَطْعَمْ**
 کھلاتے ہیں۔ Are providing or feeding. **يُطْعَمُونَ**
 کھانے والا۔ One who eats. **طَاعِمٌ**
 براہی سے یاد کرنا۔ Evil speaking. **طَاعِنٌ**
 اذنبوا نے براہی کی۔ They committed evil. **طَاعَنُوا**
 سرکش۔ Transgressor, wicked. **طَاعِيَانٌ**

شرارت Impiety. طغری

They transgressed. طغوا

اور انہوں نے شرارت کی

Exceeded all bounds. طغی

Most extravagant in wickedness. اطحی

شرارت میں بڑھا ہوا

I caused to transgress or seduced. اطحیت

میں نے سرکش کیا

You will transgress. تطغوا

Transgressor. طاغون

A storm of thunder and lightning of extreme severity. طاغیة

بڑے زور کی ہوا حد سے بڑھنے والی

Lest he transgress. یطغی

He began. طفق

Both began. طفا

Very young child. طفل

Children. اطفال

Dew. طل

Divorce. طلاق

He divorced. طلق

You divorced or set free. طلقتم

Divorced women. مطلقات

Let go or divorce. طلقوا

He departed or went his way. انطلق

They two departed. انطلقا

You departed. انطلقت

They departed. انطلقوا

Depart, begone. انطأوا

He departs. ینطلق

A plantain tree. طلع

The spathe or sheath in which the flower of date-palm are enclosed بہتنی-شگوفہ

The rising of the sun. سورج کا نکلنا

Shined. وہ چمکی

Place of the sun's rising. سورج نکلنے کی جگہ

Has known. وہ خبردار ہوا

Thou hast known. تو خبردار ہوا

I will look in or down. میں جھانکوں گا

Will look down. وہ جھانکیگی

Those who look down. جھانکنے والے

Does inform, or manifests. آگاہ کرتا ہے

A desire. آرزو

I hope, or desire. میں توقع رکھتا ہوں

We desire, or hope. ہم بھروسا رکھتے ہیں

He is covetous. وہ حرص کرتا ہے

Are desiring. خواہش کرتے ہیں

We obliterated. ہم نے مٹایا

Was obliterated. مٹائی گئی

We are obliterating. ہم مٹاتے ہیں

Deface the features, bring to nought. نشان مٹادے

Clean thou. تو پاک کر

He cleansed. اوسنے پاک کیا

Clean you both or purify. تم دونوں پاک کرو

One who purifies. پاک کرنے والا

Was purified. پاک کی گئی

Clay. چکنی مٹی

Were purified. پاک کئے گئے

He purifies. وہ پاک کرتا ہے

They make free or purify. وہ پاک کرتے ہیں

To clean, purify. پاک کرنا

Thou art cleaning. تو پاک کرتا ہے

They are being cleaned or freed. وہ پاک یا آزاد ہوتے ہیں

A mountain. پہاڑ

A mountain. پہاڑ

Conditions, states. حالت

Power, plenty of wealth. طاقت-کثرت سے دولت ہونا

Height, prolonged. اونچائی-لباو

Long. لمبا

To be prolonged. اونچا ہونا

Name of a valley near Sinai. وادی سین کا نام

The act of rolling up. لپیٹنا-لپیٹنا

Get rolled up. لپیٹ گئی

Birds. پرندے

A flying thing. اڑنے والا

Flying. اڑتا ہے

We presaged an evil thing or drawn an evil augury. ہم نے بدبخت دیکھی

They augured. اور انہوں نے قرعہ ڈالا

That which spreads itself far and wide. خون بخود دور دور پھیلنے والا

Clay. چکنی مٹی

ظَمِنَ Migration. (ظمن) اپنے ملک سے دوسری جگہ چلے جانا

ظَفْرٌ A nail, or claw. ناخن یا پنجاہ

ظَفَرَ Gave victory. فتح دی

ظَلَّ Continued whole day. (ظل) تمام دن رہا

ظِلٌّ Shade. پرچھائیں

ظِلَالٌ Shades, shadows, groves. سایہ دار جگہیں

ظِلَّةٌ A covering, roof. سائبان

ظُلُلٌ Coverings, roofs. سائبانوں

ظَلَّلْنَا We overshadowed. ہم نے سایہ کیا

ظَلِيلٌ Shady or cold shadow. سایہ دار یا ٹھنڈا سایہ

ظَلَّاتٌ Thou become. تو ہوا

ظَلَمْتَ You became. تم ہوے

ظَلَمُوا Continued whole day. سارا دن ہوے

ظَلَّتْ f. Continued whole day. وہ سارا دن ہوئی

ظَلُّوا We will continue all day. ہم سارا دن رہینگے

يُظَلُّونَ Are becoming. ہوتی ہیں

ظَلَمٌ Wrong, injustice. بے انصافی

ظَلَمَ He acted wrongly. اوسنے بے انصافی کی

ظَلَمُوا They acted unjustly. ارنہوں نے بے انصافی کی

ظَلَمْتُ He oppressed. اوسنے ظلم کیا

ظَلَمْتُمْ You oppressed. تم نے ظلم کیا

ظَلَمْتُ I oppressed. میں نے بے انصافی کی

ظَلَمْنَا We injured. ہم نے بے انصافی کی

وَهُ تَكْلِيفٌ دیا گیا

ظَلِمَ Was injured. وہ تکلیف دیا گیا

ظَلِمُوا Were injured. تکلیف دئے گئے

ظَلُومٌ Unjust. بے انصاف

ظَالِمُونَ Unjust people. بے رحم لوگ

ظَالِمَةٌ Unjust woman. بے رحم عورت

ظَالِمٌ Very unjust. برا ظالم

ظُلُمَاتٌ Darkness. تاریکی-اندھیری

أَظْلَمَ He injured. اوسنے ظلم کیا

أَظْلَمٌ Most unjust. برا اندھیر کرنے والا

تَظْلِمُ Thou art doing injustice. تو ظلم کرتا ہے

تَظْلِمُونَ You are doing injustice. تم ظلم کرتے ہو

تَظْلِمُ Thou shalt be injured. تو ظلم کیا جائگا

تَظْلِمُونَ You will be injured. تم ظلم کئے جاؤ گے

مُظْلَمٌ One who is in the dark. اندھیرا کرنے والا-جو اندھیرے میں ہے

مُظْلَمُونَ Those who are in the dark. اندھیرا کرنے والے-جو تاریکی میں ہیں

مُظْلَمٌ One who is treated unjustly. اندھیر کیا ہوا-ستم رسیدہ

يُظْلِمُ Causes wrong. اندھیر کرتا ہے

يُظْلِمُونَ Are committing injustice. اندھیر کرتے ہیں

يُظْلِمُونَ Will be wronged. اندھیر کئے جائینگے

ظَالِمِي Those who do wrong. برا کرنے والے

لَا يُظْلِمُ Does not injure. ظلم نہیں کرتا

ظَامًا Thirsty. پیاسا

تَظْمُوْا Thou shalt be thirsty. تو پیاسا ہوگا

ظَنَّ Thought. خیال

ظَنَّ He imagined. اوسنے گمان کیا

ظَنَّا Both thought. دونے گمان کیا

ظَنُّوا They imagined. انہوں نے گمان کیا

ظَنَنْتُمْ You imagine. تم نے گمان کیا

ظَنَنْتُ I imagined or thought. ہم نے گمان کیا

ظَنْنَا We thought. ہم نے گمان کیا

ظُنُونٌ Opinions, imaginations, خیالات

ظَانِنٌ Those who form a bad opinion. گمانی کرنے والے

تَظُنُّوْا Thou art thinking. تو خیال کرتا ہے

تَظُنُّونَ You are thinking. تم خیال کرتے ہو

أَظُنُّ I am thinking. میں گمان کرتا ہوں

أَظُنُّوْا We are thinking. ہم گمان کرتے ہیں

أَظُنُّ He thinks. وہ گمان کرتا ہے

أَظُنُّونَ Are thinking. گمان کرتے ہیں

ظَهَرَ Appeared. وہ ظاہر ہوا

ظَهْرٌ The back. پشت

ظُهُورٌ Backs. پیٹھیں

ظَهِيْرٌ A helper. پشتی بان

ظَهْرِيٌّ Thrown behind the back with neglect. بے پروائی سے پشت پیچھے ڈالا ہوا

ظَهِيْرٌ Mid-day heat. دوپہر کی گرمی

ظَاهِرٌ Apparent, manifest, outward. کھلا ہوا-آشکارا

ظَاهِرِيْنٌ Conspicuous, victorious. فاتح-زبردست

ظَاهِرَةٌ f. Apparent, clear. کھلی ہوئی

ظَاهَرُوا They assisted. انہوں نے مدد کی

تظاہرون You are manifesting.
تم آشکارا کرتے ہو

تظاہرون You are declaring.
تم آشکارا کرتے ہو

یظہر He manifests.
وہ کہلاتا ہے

یظہرون Are manifesting.
دکھلاتے ہیں

یظاہرون Helping among themselves.
آپس میں مدد کرتے ہیں

تظاہرا Both helped to each other.
ہر دوسرے آپس میں مدد کی

ع

غریب (عال) عائل Poor.

محتاجی عیلة Poverty.

چلنے والے (عبر) عابری Those who pass over.

عبرة To have an instructive warning.
ذمہ دار ہونا

اعتبروا Take an instructive warning.
عبرت پکڑو

تعبرون You are interpreting.
تم مطلب بتاتے ہو

عادل Decendants from Ad the great-grandson of Shem.

بزرگان عاد کی اولاد

عاد Returned. پھر گیا

عادوا Were turned. پھر گئے

عادتم (If) You did again. تم نے پھر کیا

عادنا (If) We did again. ہم نے پھر کیا

تعودون You are turning. تم پھرتے ہو

یعود He turns. وہ پھرتا ہے

یعودون Are returning. پھرتے ہیں

یعودون Being inclined. رجوع کرتے ہیں

نعون We will return. ہم پھرینگے

نعید we will repeat or return.

ہم اعادہ کریں گے

معان A place whither one returns.

پھرنے کی جگہ

أعیدوا Forced to return to the same place.

جبراً پھرائے گئے

عیاد (عاد) A feast, festival. تیوہار

عاصف (عصف) Stormy, a tempestuous wind.
تند ہوا

عاصفة } Storms, heavy winds.
عاصفات } سخت ہوائیں

عاقرة (عقر) Barren woman. بانجھہ

عقر Wounded, bisected the hamstrings.
اُرسنے کوچیں کاتیں

عقروا They wounded or cut the hamstrings.
اونہوں نے کوچیں کاتیں

عكف (عکف) One who remains constanty in any place assiduously devoting one's-self to.
ارندھا

عاکفون Those who remain constantly in any place.
سجدہ میں-ارندھے

معكوف Was detained, kept back.
باز رکھا گیا

عام (عام) A year. برس

عامین Two years. دو برس

عبد (عبد) To adore. پوجنا

عبد A servant of God.

بندہ-خدا کی عبادت کرنے والا

عبدین Two servants of God.

دو عبادت کرنے والے

عبدین Worshippers. بندگی کرنے والے

عبد He worshipped. اوسنے عبادت کی

عبدتم You worshipped. تم نے عبادت کی

عبدنا We worshipped. ہم نے عبادت کی

عبدت Thou hast enslaved. تونے غلام بنایا

أعبد I am worshipping. میں عبادت کرتا ہوں

أعبد Thou worship. تو بندگی کر

أعبدوا You worship. تم بندگی کرو

تعبدون You are worshipping.

تم بندگی کرتے ہو

نعبد We will worship. ہم عبادت کریں گے

عابد One who worships, a worshipper.

عبادت کرنے والا

عابدون Worshippers. عبادت کرنے والے

عابدات f. Worshippers. عبادت کرنے والیاں

وہ عبادت کرتا ہے He is worshipping.

یعبدون Are worshipping. عبادت کرتے ہیں

بے مصرف-بے فائدہ (عبث) عبث Useless.

تعبثون Amusing themselves, jest, sport.
کھیلتے ہیں-کھیل-تماشہ

اوسنے نیوری چڑھائی (عبس) عبس He frowned.

أداس Austere, dismal-looking. اداس

عبقري (عبقر) A kind of rich carpet.

نپیس اور خوش قطع قالین

عذو To oppose, insolence. سرکشی کرنی

عتوا They rebelled, obstinated.

اونہوں نے سرکشی کی

عتت f. Offered an insolent opposition.
اوسنے سرکشی کی

عتی Obstinate, a decrepit old man.
سبتیابا ہوا-سرکش

عآتية Exceeding, violent. سرکش

عتل (عتل) Violent, cruel. ظالم-بدخو

اعتلو Drag him. اوسکو گھسیٹو

عتيق (عتق) Ancient. قدیم

عدن (Eden) A perpetual abode, Eden, Paradise. ابدی گھر-بہشت

عذاب (Punishment, torment, سزا

He punished. اوسنے سزا دی

We punished. ہم نے عذاب دیا

I will punish. میں عذاب کرونگا

Thou shalt punish. تو سزا دیگا

One who punishes. عذاب کرنے والا

Those who punish. عذاب کرنے والے

Were punished. عذاب دئے گئے

We will punish. ہم عذاب کریں گے

Punishes. سزا دیتا ہے

Sweet. میٹھا

An excuse. بہانہ

Excuses. بہانے

An excuse. بہانہ

Excusing themselves. بہانہ کرتے ہیں

Those who excuse themselves. بہانہ کرنے والے

Do not make an excuse. بہانہ نہ کرو

I took refuge. میں نے پناہ لی

Seek refuge (from God.) (خدا سے) پناہ مانگ

I commend to thy protection. میں پناہ دیتی ہوں

I take refuge. میں پناہ لیتا ہوں

A refuge. پناہ

Are taking refuge. پناہ لیتے ہیں

A bare place. صاف میدان (عری)

Beloved wives. محبت والی بیویاں (عرب) عرب

An Arabian. عرب کا رہنے والا

The Arabs of the desert. ریگستان کے عرب

A crooked and dry date-stalk. (عرجن) عرجون

A throne. تخت (عرش) عرش

Are building a roof. چھت بناتے ہیں

Supported on trellis-work. اونچی کی گئیں

Roofs, foundations, props. چھتیں-بنیادیں

Temporal goods, this world's gear. فانی اور دنیاوی مال (عرض) عرض

Extensiveness. کشادگی

Has set before. اوسنے ظاہر کیا

We offered. ہم نے پیش یا ظاہر کیا

Were set before. ظاہر کئے گئے

Extended. چوڑا

You concealed in your mind. تم نے پردہ میں لیا

A shield, impediment, object, butt. سپر

Leave it undone. غفلت کر

To decline. منہ موڑنا

Has declined. اوسنے منہ موڑا

Decline. منہ موڑ

Those who turn away from averse. منہ موڑنے والے

You declined. تم نے منہ موڑا

They declined. اوسنے نے منہ موڑا

Turn aside or leave it undone. تم درگزر کرو

Declines or averses. منہ پھیرتا ہے

Will decline. منہ پھیرینگے

Will be set before. وہ روپرو کیا جائیگا

Will be made to appear. ظاہر کئے جائینگے

A cloud traversing the sky. آسمان پر پراگندہ ابر

That which pleases. دل خوش کرنے والا

He recognized. اوسنے پہچانا

He made known. اوسنے جتا دیا

Name of a mountain near Mecca. مکہ کے نزدیک ایک پہاڑ کا نام

They confessed. اوسنے نے اقرار کیا

We confessed. ہم نے اقرار کیا

Purgatory. بہشت اور دوزخ کے مابین کا مقام

Thou hast recognized. تو نے پہچانا

Thou hast made known. تو نے جتایا

They recognized. اوسنے نے پہچانا

One who is known recognized. پہچانا گیا

f. Was recognized. پہچانی گئی

Are recognizing or knowing. پہچانتے ہیں

Is being recognized. وہ پہچانا جاتا ہے

f. Are being recognized. پہچانی جاتی ہیں

Are recognizing among themselves. آپس میں پہچانتے ہیں

Mounds, dams for stopping of water. زور کی زر

A handle. دستہ

Has come down upon. اوسنے چھپت لیا

Glory. بزرگی (عز) عز

Power, honour, pride. زور-اقبال

Has become powerful. وہ غالب ہوا

نہایت غالب Victorious, most mighty. عزیز
 نہایت عزت والے Most excellent. اعز
 نہایت عزت والے Worthiest, most honorable. اعز
 تو عزت دیتا ہے Thou makest honourable. تعز
 ایک درخت یا بت کا نام Name of an idol or a tree. عزی
 عزرا Ezra. (عزرا) عزیز
 انہوں نے مدد کی They assisted. عزروا
 تم نے مدد کی You assisted. عزتموا
 ہم نے قوت دی We gave help. عززنا
 تم مدد کرو گے You will help. تعزروا
 Thou hast set aside. (عزل) عزالت
 تو نے کنارہ پکڑا
 اوسنے گوشہ لیا He set aside. اعزل
 تم نے کنارہ پکڑا You set aside. اعزلتموا
 Aside, separated from the rest. معزل
 سب سے الگ-کنارہ
 I separate myself from the rest. اعزل
 میں سب سے الگ ہوتا ہوں
 You may remain aside. اعزلوا
 تم کنارے رہو
 Were removed to one side. معزلون
 ایک طرف کئے گئے
 Are setting aside. يعزلوا
 الگ ہوتے ہیں
 Courage. (عزم) عزم
 ہمت
 He resolved or determined. عزم
 اوسنے قصد کیا
 They determined. عزموا
 انہوں نے قصد کیا
 Thou hast determined. عزمت
 تو نے ارادہ کیا
 You are resolving. تعزموا
 تم قصد کرتے ہو
 A crowd, a company. (عز) عزین
 جھنڈ-گروہ
 Difficulty. (عسر) عسر
 مشکل
 Distress. سختی-تکلیف
 عسرے

دشواری Difficulty. عسرة
 نہایت مشکل میں پڑنا Difficult, dire, grievous. عسير
 رات کو تاراج کرنا To go round by night, (عس) عسس
 شہد Honey. (عسل) عسل
 It may be, perhaps. (عسي) عسي
 قریب ہے-شاید
 "Will it come to pass that ye"? (هل) عسيذم
 نزدیک ہو گے تم
 Commencement of darkness. (عشا) عشا
 شام کی تاریکی کا شروع
 An evening, evening time. عشيية
 شام کا وقت
 Withdraws. يعش
 منہ پھیرتا ہے
 Camels ten months gone with young. (عشر) عشر
 اونٹنوں جو دس مہینہ کی حاملہ ہوں
 دس عورتیں Ten women. عشر
 دس Ten. عشر
 دس مرد Ten men. عشرة
 بیس Twenty. عشرون
 دسواں حصہ One-tenth. معشر
 دس دس Ten and ten. معشر
 Kindred on the fathers side. عشيرة
 باپ کی جانب کی برادری
 چوب-دستی A staff, rod. (عصا) عصا
 لاثہیاں Staffs, rods. عصي
 Rebel, disobedient. (عصي) عصي
 نافرمان ہوا Has disobeyed, rebelled. عصي
 میں نے نافرمانی کی I disobeyed. عصيت
 نافرمانیاں Rebellion. عصيان
 نافرمانی-گناہ Disobedience, sin. معصية

They disobeyed. عصوا
 انہوں نے نافرمانی کی
 Thou hast rebelled. عصيت
 تو نے نافرمانی کی
 You rebelled. عصيتم
 تم نے نافرمانی کی
 We disobeyed. عصينا
 ہم نے گناہ کیا
 I will disobey. اعصي
 میں نافرمانی کرونگا
 He rebels. يعص
 وہ سرکشی کرتا ہے
 Are disobeying. يعصون
 نافرمانی کرتے ہیں
 f. Are disobeying. يعصون
 نافرمانی کرتی ہیں
 Grievous, heavy, a body of men from ten to forty. (عصب) عصب
 سخت-دس اور چالیس تک کی جماعت
 Heavy, grievous. عصب
 سخت
 Age, time. (عصر) عصر
 زمانہ
 Leaves and stalks of corn. (عصف) عصف
 بھوسا
 Harmless, guiltless. (عصم) عصم
 پاک دامنی
 Saves. يعصم
 بچاتا ہے
 Took hold on. اعصم
 قبضہ کیا
 They cleaved firmly. اعصموا
 انہوں نے مضبوط پکڑا
 Hold firmly. اعصموا
 مضبوط پکڑو
 Preserves one's self. يعصم
 مدافعت کرتا ہے
 An arm, a helper. (عضد) عضد
 بازو-مددگار
 They did bite. (عض) عضوا
 انہوں نے کاٹا
 Bites. يعص
 وہ کاٹتا ہے
 To cut into pieces. (عضا) عضين
 ٹکڑے ٹکڑے کرنا
 Do not hinder. (عصل) لاتعضلوا
 مت بیٹھا رکھو یا روکو
 To give, a gift. (عطا) عطا
 دینا-انعام
 Give thou. اعط

دئے گئے Were given. اعطوا
 اوسنے دیا He gave. اعطى
 ہم نے دیا We gave. اعطينا
 دئے جائینگے Will be given. يعطوا
 دیتے ہیں Are giving. يعطون
 ہڈی A bone. عظام
 ہڈیاں Bones. عظام
 بڑا-بھاری Great, heavy. عظیم
 بہت بڑا-اعلیٰ Greater, superior. اعظم
 بزرگ کرتا ہے Makes honorable. يعظم
 بزرگ رکھے May consider great. يعظم
 بہوت-پریت A daemon. عفريت
 معاف کرنا To pardon. عفا
 عفا Has forgiven or pardoned.
 اوسنے معاف کیا
 اونہوں نے معاف کیا They forgave. عفا
 ہم نے معاف کیا We forgave. عفونا
 وہ معاف کیا گیا Was forgiven. عفي
 بڑا در گذر کرنے والا Very forgiving. عفوا
 تم معاف کرتے ہو You are forgiving. تعفوا
 ہم معاف کریں گے We will forgive. نعف
 معاف کرتے ہیں Are forgiving. يعفوا
 تو معاف کر Forgive thou. اعف
 تم معاف کرو Forgive you. اعفوا
 عذاب-سزا Punishment. عقاب
 سزا دیا گیا Was punished. عوقب
 تم سزا دئے گئے You were punished. عوقبتم
 اوسنے عذاب کیا He punished. عاقب

تم نے عذاب کیا You punished. اعقبتم
 باعثاً سبباً Causa to succeed or follow.
 وہ پیچھے سے لایا
 One who puts off or reverses. معقب
 پیچھے رکھنے والا
 Who succeed each other. معقبات
 ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے
 Delays. يعقب
 دیر کرتا ہے
 Posterity. عقب
 اولاد
 دو ایڑیاں Two heels. عقبى
 ایڑیاں Heels. اعقاب
 A place hard of ascent.
 ایسی جگہ جہاں چڑھنا مشکل ہو
 آخرت End, issue. عقبى
 گرہ A knot, tie. عقدة
 گرہیں Knots. عقد
 اقرار A compact. عقود
 اوسنے عہد کیا f. Has compacted. عقدت
 تم نے عہد کیا You compacted. عقدتم
 They understood. (عقل) علقوا
 اونہوں نے سمجھا
 You are understanding. تعقلون
 تم بوجھتے ہو
 We are understanding. نعقل
 ہم سمجھتے ہیں
 وہ سمجھتا ہے He understands. يعقل
 Have no sense, or understanding. لايعقلون
 عقل نہیں رکھتے ہیں
 Barren, childless. (عقم) عقيم
 بانجہ خشک
 Manifest, public, openly. (علن) علانية
 ظاہر-اشکارا
 You manifested. اعلامتم
 تم نے آشکارا کیا
 I manifested. اعلنت
 میں نے آشکارا کیا

We are manifesting. نعلن
 ہم آشکارا کرتے ہیں
 Are publishing. يعلدون
 اشاعت کرتے ہیں
 Clotted blood. (علق) علق
 خون کا ٹھکا
 A lump of clotted blood. علقة
 جمے ہوئے خون کا لوتھڑا
 One in suspense. f. معلقة
 لٹکی ہوئی
 To know. (علم) علم
 جاننا
 He learned. علم
 اوسنے جانا
 Signs. علامات
 نشانیاں
 They learned. علموا
 اونہوں نے جانا
 f. Has learned. علمت
 اوسنے جانا
 Thou hast learned. علمت
 تو نے جانا
 You learned. علمتم
 علمتموا
 تم نے جانا
 We knew. علمنا
 ہم نے جانا
 He instructed. علم
 اوسنے سکھایا
 Thou hast taught. علمت
 تو نے سکھایا
 You taught. علمتم
 تم نے سکھایا
 I learned. علمت
 میں نے سیکھا
 We instructed. علمنا
 ہم نے سکھایا
 You were taught. علمتم
 تم سکھائے گئے
 We were taught. علمت
 ہم سیکھائے گئے
 Learned, wise. علماء
 عقلمند عالم-دانا
 Very learned, wise. علام
 بڑا جاننے والا
 Knowing. عالم
 جاننے والا
 Those who know. عالمون
 جاننے والے
 A world, species of rational creatures. عالمين
 عالم اجسام

وہ جانتی ہے۔ Knows. f. تعلم
 تم جانتے ہو۔ You know. تعلمون
 وہ سکھاتا ہے۔ He teaches. تعلم
 تم سکھاتے ہو۔ You are teaching. تعلمون
 میں جانتا ہوں۔ I know. اعلم
 تو جان۔ Know thou. اعلم
 تم جانو۔ Know you. اعلموا
 جانا گیا۔ Known one. معلوم
 سکھایا گیا۔ Was taught. معلم
 ہم جانتے ہیں۔ We know. نعلم
 ہم سکھاتے ہیں۔ We are instructing. نعلم
 وہ جانتا ہے۔ He knows. يعلم
 جانتے ہیں۔ Are knowing. يعلمون
 وہ سکھاتا ہے۔ He teaches. يعلم
 دونوں سکھاتے ہیں۔ Both are teaching. يعلمان
 سکھاتے ہیں۔ Are teaching. يعلمون
 سیکھتے ہیں۔ Are learning. يتعلمون
 One who knows the secrets. عالم
 راز جاننے والا
 اوپر چڑھنا۔ To go high, to be over. (علی) علو
 اوسنے شرکشی کی۔ Has rebelled. اعان
 بلند ہونے والا۔ Exalted one. متعال
 بلند مرتبہ۔ Exalted. علی
 بہت اونچی جگہ۔ Very high place. علیا
 سب سے اوپر۔ Over or above all. اعلیٰ
 ساتویں آسمان کے نیچے۔ Under the seventh heaven. سابع
 سب سے اونچی جگہ۔ فرانس۔ Highest place, paradise. علیین
 چڑھاؤ۔ Ascending. اعلاوا

Those who are to be exalted. اعلون
 اونچے ہونے والے
 آؤ سب مرد۔ Come you all men. (علا) تعالوا
 تم زور کرتے ہو۔ You are opposing. تعالوا
 f. Come on all women. تعالین
 تم سب عورتیں آؤ
 They behaved with great insolence. علوا
 انہوں نے شرکشی کی
 اونچا۔ بلند۔ Above, over, highest. علی
 تعالیٰ
 چچا۔ A paternal uncle. عم
 کس چیز سے۔ With what thing. عم
 پھوپھیاں۔ Paternal aunts. عمات
 A column, a lofty structure, a tent pole. (عمد) عماد
 خیمہ کی چوب۔ ستون
 ستونوں۔ Columns. عمد
 He did intentionally. عمدت
 اوسنے تصداً کیا
 ارادہ کرنے والا۔ One who proposes. متمد
 آبادی۔ An inhabitation. (عمر) عمارة
 انہوں نے بسایا۔ They inhabited. عمروا
 آباد کی ہوئی جگہ۔ Inhabited place. معمور
 آباد کرتا ہے۔ Inhabits. يعمر
 آباد کرتے ہیں۔ Are inhabiting. يعمروا
 Performed the sacred visitation to Mecca. (عمر) اعتمر
 مکہ کی زیارت کی
 عمر۔ زندگی۔ Age, life. عمر
 زندگی۔ Life. عمر
 بوڑھاپا۔ An old age. معمر
 ہم عمر دیتے ہیں۔ We grant a long life. نعمر
 Will be prolonged in life. يعمر
 عمر دراز کیا جائیگا

Name of virgin Mary's father. عمران
 مقدس مریم کے والد کا نام
 The sacred visitation of Mecca. عمرة
 مکہ کی زیارت
 Act, work. عمل
 کام
 اوسنے کام کیا۔ He acted, or worked. عمل
 انہوں نے کام کیا۔ They worked. عملوا
 اوسنے کام لیا۔ f. Has acted. عملت
 تم نے کام کیا۔ You acted. عملتم
 کام۔ Actions. اعمال
 میں کام کرتا ہوں۔ I work. اععمل
 کام کر۔ Work. اععمل
 تم کام کرو۔ Work you. اععملوا
 وہ کام کریگی۔ Will work. f. تعمل
 تم کام کرتے ہو۔ You are working. تعملون
 کام کرتے ہیں۔ Are working. تعمل
 وہ کام کرتا ہے۔ He works or acts. يعمل
 کام کرتے ہیں۔ Are working. يعملون
 کام کرنے والا۔ One who works. عامل
 Labouring women. f. عاملة
 محنت کرنے والی عورتیں
 کام کرنے والے۔ Labourers. عاملون
 دور۔ گہرا۔ Distant, deep, far off. عمیق
 دھندلا۔ اندھاپن۔ Blindness, obscure. عمی
 اندھے ہو گئے۔ Became blind. عموا
 اندھے۔ Blinds. عمی
 اندھا ہوا۔ Became blind. عمی
 اندھے۔ Blinds. عمیان
 f. Has become blind. عمیت
 وہ اندھی ہوئی

صَبِيحٌ Early morning. صبح کا وقت
 الصُّبْحُ The morning. صبح کرنی
 اَعْرَافٌ An early meal. سویرے کا کھانا
 اَعْرَافٌ Started early in the morning.
 بہت سویرے چلے
 اَعْرَافٌ Thou hast started early in the morning.
 تو صبح کے وقت چلا
 اَعْرَافٌ Come you early in the morning.
 تم صبح کو آؤ
 غَدِيقٌ Copious, abundant.
 بکثرت بہت بڑا
 اَعْرَافٌ He deceived. اوسنے فریب دیا
 اَعْرَافٌ A vain hope. فریب دینا
 اَعْرَافٌ A deceiver, the Devil. فریب دینے والا
 اَعْرَافٌ f. She deceived or seduced.
 اوسنے بہکایا
 اَعْرَافٌ May not seduce. فریفتہ نہ کرے
 اَعْرَافٌ f. Deceives. فریب دیتی ہے
 اَعْرَافٌ He deceives. وہ فریب دیتا ہے
 اَعْرَافٌ Is deceiving. فریب دیتا ہے
 اَعْرَافٌ A raven. کوا
 اَعْرَافٌ A kind of black grapes.
 ایک قسم کے سیاہ انگور
 اَعْرَافٌ Sun set. آفتاب کا ترونا
 اَعْرَافٌ The West. جانب پچھم
 اَعْرَافٌ f. Has set. وہ ترونی ہے
 اَعْرَافٌ f. Sets. وہ ترونی ہے
 اَعْرَافٌ f. Belonging to the west, western.
 پچھم والی
 اَعْرَافٌ The west, setting of the sun.
 پچھم۔ آفتاب ترونی کی جگہ
 اَعْرَافٌ Two points in the heavens where
 the sun sets in summer and
 winter. سورج کی دو جگہیں ترونی
 یعنی گرمی اور جازے میں جہاں سورج ترونی ہو
 اَعْرَافٌ The western part of the earth.
 زمین کا مغربی مقام
 اَعْرَافٌ A continuous torment. (عذاب) غم

اَعْرَافٌ A debt that must be paid, a forced-
 loan. قرضہ بیگار
 اَعْرَافٌ Were involved in debt.
 قرضدار کئے گئے
 اَعْرَافٌ Lofty apartments, the seventh
 Heaven. اونچی کھڑکیاں ساتواں آسمان
 اَعْرَافٌ A drought of water taken up in
 the hand. چلو بھر پانی
 اَعْرَافٌ Drank out of the hand.
 چلو سے پانی پیا
 اَعْرَافٌ To drown, dipping. ترونا
 اَعْرَافٌ He drowned. وہ ترونا (F)
 اَعْرَافٌ Were drowned. تروئے گئے
 اَعْرَافٌ Thou shalt drown. تو ترونا
 اَعْرَافٌ We drowned. ہم نے ترونا
 اَعْرَافٌ Drowned. تروئے ہوئے
 اَعْرَافٌ We are drowning. ہم ترونی ہیں
 اَعْرَافٌ Drowns. وہ ترونا ہے
 اَعْرَافٌ A combatant. غازی
 غازی۔ خدا کی راہ میں لڑنے والا
 اَعْرَافٌ A spinning, that which is spun.
 کانا گیا۔ سوت
 اَعْرَافٌ Corruption which flows from
 the bodies of the damned.
 مجرہوں کے بدن سے جری پیمپ بھ
 اَعْرَافٌ He has caused darkness the com-
 mencement of night.
 اوسنے اندھیرا کیا۔ رات کا شروع
 اَعْرَافٌ One who causes darkness, the
 moon, also the commencement of
 darkness. چاند۔ اندھیرا کرنے والا
 اَعْرَافٌ Dirt which flows from the
 bodies of the damned.
 گنہگاروں کے جسم کا دھوون یا میل
 اَعْرَافٌ A place for washing.
 نہانے کی جگہ
 اَعْرَافٌ Wash. دھوؤ
 اَعْرَافٌ Wash yourselves. تم نہا لو

پوشش (غشی) A covering, veil. پوشش
 اَعْرَافٌ Has covered. اوسنے چھپایا
 اَعْرَافٌ Has covered well.
 نے خوب تھانپا
 اَعْرَافٌ One in a swoon. ہوش کیا گیا
 اَعْرَافٌ We covered. ہم نے تھانپا
 اَعْرَافٌ f. Was covered. وہ تھانپ گیا
 اَعْرَافٌ Are covering with a garment
 آپ سے لپیٹتے ہیں
 اَعْرَافٌ Coverings. ساہبانوں
 اَعْرَافٌ }
 اَعْرَافٌ } Covers. وہ تھانپتا ہے
 اَعْرَافٌ }
 اَعْرَافٌ }
 اَعْرَافٌ }
 اَعْرَافٌ f. One who covers. چھپانے والی
 اَعْرَافٌ To carry off by force.
 زبردستی چھین لینا
 اَعْرَافٌ He carried off. اوسنے چھین لیا
 اَعْرَافٌ Something which sticks in the
 throat, anger. لے میں کچھہ اٹکنا۔ خفگی
 اَعْرَافٌ To be angry. غصہ کرنا
 اَعْرَافٌ Became angry. اوسنے غصہ کیا
 اَعْرَافٌ Angry, full of wrath.
 غصہ سے بھرا ہوا
 اَعْرَافٌ Became angry. غصے ہوئے
 اَعْرَافٌ Was incensed. غصہ کیا گیا
 اَعْرَافٌ Full of wrath. غصہ بھرا
 اَعْرَافٌ A veil, covering. برفق۔ پردہ
 اَعْرَافٌ Pardon. معافی بخشش
 اَعْرَافٌ He pardoned. اوسنے معاف کیا
 اَعْرَافٌ We forgave. ہم نے معاف کیا
 اَعْرَافٌ Very forgiving. بہت بخشش والا

غفور One who forgives. بخشنے والا
تغفروا You are forgiving. تم بخشش کرتے ہو
اغفر Forgive thou. تو بخش
مغفرة Pardon, to forgive. بخشنا
غافر One who forgives. بخشنے والا
غافرون Those who forgive. بخشنے والے
نغفر We are forgiving. ہم بخشتے ہیں
یغفر He forgives. وہ بخشتا ہے
یغفرون Are forgiving. بخشتے ہیں
یستغفر Asks pardon. بخشش چاہتا ہے
یستغفرون Asking pardon. بخشش چاہتے ہیں
یغفر Will be forgiven. بخشا جائگا
مستغفرون Those who ask pardon. بخشش چاہنے والے
استغفار The act of asking forgiveness. بخشش چاہنی
استغفر I will ask pardon. میں بخشش چاہوںگا
استغفر Ask pardon. بخشش مانگ
استغفرت Thou hast asked pardon. تونے معافی چاہی
استغفروا They asked pardon. انہوں نے بخشش چاہی
استغفروا Ask forgiveness. معافی مانگو
استغفرے f. Ask pardon. معافی مانگ
غفلة Negligence. غفلت-بھول
غافل One who is negligent or careless. بے خبر-بے پروا
غفلذا Caused to neglect. بے پروائی کرانی
غافلین Those who are careless. بے خبر لوگ
غافلات Careless. بے خبر
تغفلون You are careless. تم غافل ہو

غلب (عل) Hidden. چھپایا
غلب Enmity. عداوت-دشمنی
غلبوا You bind. تم باندھو
غلبت f. Was bound. باندھی گئی
مغولة f. Bound, tied up. بند کی ہوئی
یغلب Defrauds, hides. چھپاتا یا خیرات کرتا ہے
یغلب Defrauds. خیانت کرتا ہے
لا تغلبوا Do not defraud. خیانت مت کرو
اغلال Fethers, collors, yokes. زنجیریں-طوق-جوا
غلبوا To exceed what is just and proper. حد سے یا حق سے درگذر کرنا
اغلی The act of boiling. ابلنا-جوش مارنا
یغلی Will get boiled. واد جوش کھائینگا
غلب Garden (planted) with thick trees. گھنے درخت کا باغ
غلب Power. طاقت زور
غلبت f. Has forced. زبردستی کی
غلبوا They forced. انہوں نے زور کیا
غلبوا Were defeated. مغلوب کئے گئے
غالب Powerful, victorious. فاتح زبردست
غالبون Powers. زبردست لوگ
تغلبون You will conquer or overcome. تم غالب ہو گے
اغلب I will conquer or overcome. میں غالب ہوںگا
مغلوب Was overcome or conquered. دبا یا گیا
یغلبوا Will be victorious. غالب ہونگے
یغلب He will be victorious. وہ غالب ہوگا
یغلبون Will be conquered. مغلوب ہونگے
خول (غلف) A case. خول
خولون Cases. خولوں

نوجوان لڑکا A boy, a youth (غلم) غلام
دو لڑکے Two boys. غلامین
لڑکے Boys. غلمان
غلق (غلق) He has shut. (door). اوسنے (دروازہ) بند کیا
غلیظا Hard, thick. سخت-گاڑھا (غلظ)
غلیظ Rough, severe, strong. تند-بیرحم
اغظ Press upon. ساختی کر
غم Anguish, affliction. نہایت سخت درد (غم) غم
غمام Clouds. بدلیاں
غمة In the dark. تاریکی میں پوشیدہ
غمرات The pangs of death. (غم) غمرات
غمرت کی تکلیف یا درد
غمرة A flood of water, senseless. بیہوش
بھیڑ-بکری (غنم) غنم
غنم You acquired booty. تم اورت لائے
مغانم Plunder, spoils لوٹ کی چیزیں
غنی A rich. مالدار
اغنی He enriched or made satisfied. اوسنے مالدار یا بے پروا کیا
اغنت f. Has enriched or satisfied. اوسنے مالدار یا بے پروا کیا
اغنی I will stand for. میں کام آؤنگا
تغنن Was dwelling. بستی تھی
تغنن Stood for or profitted. نفع پہونچایا کام آیا
تغنی Will stand for or will profit. کام آؤنگی
تغنون Those who stand in place of another. بچانے والے
تغنوا Making self-sufficient. بے نیاز کرتے ہیں
تغنون Are dwelling. رہتے ہیں
تغنی Does avail. کفایت کرتا ہے

غواص Are availing. کفایت کرتے ہیں

غذیاء Rich. مالدار

غوطے لگانے خور. A diver. (خاص) غواص

غوطہ لگانے ہیں. Are diving. یغوصون

مرض-سر پھرنا. Inebriation. (غال) غول

ہلاکت-گمراہی. Error, destruction. (غوی) غوی

گمراہ ہوا. Has gone astray. غوی

گمراہ One who is in the wrong. غوی

ہم گمراہ ہوئے. We have gone astray, غوینا

تو نے گمراہ کیا. Thou hast caused to err. اغویت

ہم نے بہکایا. We led astray. اغویدا

I will cause to astray. اغوی

بے راہ کرتا ہے. Leads in the wrong. یغوی

The bottom of a well. (غاب) غیابت

Secret, mystery. غیب

Mysteries, secrets. غیوب

وہ غیب کرتا ہے. He traduces. یغتب

چھپنے والی. That which is hidden. غائبہ

چھپنے والے. Those who hide. غائبون

بارش. Rain. (غاث) غیث

Shall have plenty of rain. غاث

Abated, diminished. (غاض) غیض

Diminishes. غیض

To incense, irritate. (غاظ) غیظ

One who gets angry. تغیظ

He makes angry. یغیظ

ف

پہرائی. Returned. (فاء) فاءت

پہرے. Returned or got back. فاءوا

To bring under the authority. آفاء

مانحت کرنا

تھلنا ہے. Turns itself about. یتفیع

Will incline or return. f. تفی

وہ رجوع کریگی

Behaving with insolence. (فواہ) فواہین

با تکلیف-گستاخ

A clamity, that which breaks the verteberæ. (فقر) فاقرة

کمریا پیتہ توڑنے والی بلا

Poverty, a clamity. فقر

Poors, needy. فقراء

Very poor, hard up. فقیر

Pure or fast yellow colour. (ققح) قاقح

شوخ زرد رنگ

A fruit. (فکھ) فاکھة

Fruits. میوہ جات فواکہ

Those who are very joyful. فاکھون

خوش ہونے والے

Are jesting. فکھین

You are jesting. تم باتیں بنائے ہو

Perishable, liable to decay. (فنی) فانی

نسبت ہونے والا

A mouth. منہ (فاه) فالا

To open. کھولنا (فتح) ففتح

One who opens. کھولنے والا

Those who open or victorious. فاتحین

فاتح یا کھولنے والے

He revealed. آسنے ظاہر کیا

Was opened. ظاہر کی گئی

We opened or revealed or gave victory. ہم نے ظاہر کیا

They opened. انہوں نے ظاہر کیا

Will be revealed. ظاہر کئے جائیں گے

Open thou. تو کھول

Keys. چابیاں

Was opened. کھولی گئی

Opens. وہ کھولتا ہے

Victorious فاتحین

Are asking assistance. مدد چاہتے ہیں

Asking for assistance or judgment. فیصلہ چاہتے ہیں

Weakness. (فتر) فترۃ

Splitted, cleaved, assundered, بہت پڑا

To try or prove or test. جانچنا

They tried or proved. انہوں نے جانچا

You tested. تم نے جانچا

You were proved or tempted. تم جانچے گئے

فَتَنُوا They were tempted or proved. وہ جانچے گئے

فَتَنُوا We tempted or proved. ہم نے جانچا

فِتْنَةٌ A temptation. آزمائش

تَفْتِنُ Thou art exposing to the trial. تو مصیبت میں ڈالتا ہے

تَفْتِنُونَ You will be tried. تم جانچے جاؤ گے

مَغْنُونٌ Dimented, distracted. عقل سے خارج

نَفْتِنُ We are testing or proving. ہم جانچتے ہیں

يَفْتِنُونَ Are tempting. جانچتے ہیں

يَفْتِنُ He tests or tempts. وہ آزماتا ہے

يَفْتِنُونَ Are being proved. جانچے جانے ہیں

فَانْتِنِينَ Those who try or prove. جانچنے والے

فَتَى A young man. جوان آدمی

فَتَيَاتٌ Young women, maid-servants. جوان عورتیں-اونٹیاں

فَتَيَانٌ Young men. جوانوں

فَتَيَانٌ Two young men. دو جوان مرد

فَتِيَةٌ A few young men. کئی جوان مرد

سَأَلْتُ Ask opinion. پوچھنا

تَسْأَلُ Thou art asking. تو پوچھتا ہے

تَسْتَفْتِيَانِ You both are asking. تم دونوں پوچھتے ہو

يَسْتَفْتُونَ Asking opinion or consulting. مشورہ کرنے یا اجازت چاہنے ہیں

اِفْتِ Explain thou. تو بیان کر

اِفْتُوا You explain. تم بیان کرو

اِفْتَى To declare judgment. فتویٰ دینا

تَفْتَتُوا Thou shalt leave or desist for ever. تو ہمیشہ کو چھوڑ دیگا

فَتِيلٌ A small skin in the cleft of a date-stone. کھجور کی گتھلی کا ٹکڑا

فَجْرٌ A broad way. چوڑا راستہ

فَجَاجٌ Broad ways between two mountains. دو پہاڑوں کے درمیان کھلے راستے

فَجْوْرٌ Wickedness. بدکاری-گناہ

فَجَّارٌ Wicked persons. بدکار آدمی

فَاجِرٌ Wicked. بدکار

يَفْجُرُ He transgresses. وہ نافرمانی کرتا ہے

فَجَّوْرٌ Wicked, stubborn. مگرا-دھیتھہ

فَجْرٌ To act wickedly, the dawn, day-break. گناہ کرنا-صبح

فَجْرَتْ Was flowed. بہائی گئی

يَفْجُرُ Flows. جاری ہوتا ہے

اِنْفَجْرَتْ f. Has flowed. بہی

تَفْجِيرٌ To cause to flow. بہانا

تَفْجِرُ Thou shalt cause to flow well. تو اچھی طرح بہائیگا

تَفْجُرُ Thou shalt flow. تو بہائیگا

فَجْرْنَا We flowed. ہم نے بہایا

يَفْجِرُونَ Are causing to flow. بہاتے ہیں

فَجَّشٌ (فَجَّشٌ) Filthy, shameful, or dishonourable conduct. ناپاکی-بے حیائی

فَوَاحِشٌ Abominable crimes. ناشایستہ کلم

فَاحِشَةٌ An adulterous woman. بدکار عورت

فَخَّارٌ Vain-glorious, a boaster, earthenware. شیخی باز-مٹی کا پکا ہوا برتن

تَفَاخُرٌ Mutual boasting. خودستائی

فَخْوَرٌ A boaster, vain-glorious. اپنی بڑائی کرنے والا-شیخی باز

فِدَاءٌ A ransom. عوض

فَدِيَةٌ A fine that which is given to redeem a fault. جرمانہ

اِفْتَدَى He redeemed himself. اوسنے خود عوض دیا

اِفْتَدَوْا They gave ransom. انہوں نے عوض دیا

اِفْتَدَتْ She redeemed herself. اوسنے خود عوض دیا

فَدَيْنًا We gave ransom. ہم نے بدلہ دیا

يَفْتَدِي Is giving ransom. قدیہ دیتا ہے

يَفْتَدُوا Will be given ransom. قدیہ دئے جائینگے

فَرَاتٌ (فَرَاتٌ) Sweet water. شہریں یا خوش مزہ پانی

فَرَّأٌ To flee. بھاگنا

فَرَرْتُمْ You fled. تم بھاگے

فَرَرْتُ I fled. میں بھاگا

فَرَّتْ f. She fled. وہ بھاگی

فَرُوا You flee. تم بھاگو

مَفْرٌ A place of refuge. پناہ کی جگہ

يَفِرُّ He flees. وہ بھاگتا ہے

فَرَّاشٌ Moths. پتنگے

فَرَّاشٌ A thing to spread, a carpet. قالین-بچھانے کی چیز

فَرَّشٌ An animal for slaughter, subjected, pressed. ذبح کرنے کا جانور

فَرَّشٌ Carpets. بچھونے

فَرَّشْنَا We spreaded. ہم نے بچھایا

فَرَّاقٌ Separation, distinction. قاصدہ-جدائی

فَرَّقْنَا We divided. ہم نے جدا کیا

فَرَّقُوا They scattered. انہوں نے پراگندہ کیا

فَرَّقْتُ Thou hast caused division or separation. تو نے جدائی کی

فَرَّقَانٌ One who makes distinction. جدا کرنے والا

اِفْرَقٌ Divide. جدا کر

تَفْرُقٌ To be divided. پھوٹنا یا پھوٹینا

تَفْرِيقٌ To divide. جدا کرنا

تَفَرَّقُوا They scattered. وہ بکھرے

يَتَفَرَّقَا Both are getting separated. دونوں جدا ہوتے ہیں

فَرَّقُوا We are making separation. ہم جدا کرتے ہیں

يَفْرِقُونَ They are causing separation. وہ جدائی ڈالتے ہیں

يُفْرَقُ He will get separated. وہ جدا ہو جائیگا

مُتَفَرِّقَاتٌ Different, various. الگ الگ جدا جدا

يَتَفَرَّقُونَ Are getting separated. جدا ہوتے ہیں

مُتَفَرِّقُونَ Were divided or separated. جدا جدا کئے گئے

لَمْ يَفْرِقُوا They did not separate. انہوں نے جدائی نہ کی

فَرَقَةٌ A band of men. آدمیوں کا گروہ

فَرِيقٌ A part, portion, a party of men. حصہ-جماعت

فَرِيقَانِ } Two parties or classes. دو جماعتیں

فَرِيقَيْنِ }

فَرِيقٌ A separate part, heap, hillock. پھانک

فَرْثٌ Fæces, dung. گوبر-علحدہ حصہ

فَرْجٌ An interstice, break, flaw. شکاف-سوراخ

فُرُوجٌ Several flaws, holes. کئی سوراخ یا شکاف

فُرِّجَتْ f. Was splitted, cleaved asunder. وہ چھری گئی

فَرِحَ He was glad. وہ خوش ہوا

فَرِحُوا They were glad. وہ خوش ہوئے

فَرِحٌ } Those who are glad. خوش ہونے والے

فَرِحُونَ }

تَفَرَّجٌ Thou art getting charmed. تو فریفتہ ہوتا ہے

تَفَرَّجُوا You are getting charmed. تم فریفتہ ہوتے ہو

يَفْرَحُ He rejoices. وہ خوش ہوتا ہے

يَفْرَحُونَ Are rejoicing. خوش ہوتے ہیں

فَرَادٍ All alone, without companions. تنہا-اکیلا

فَرَادِي Alone, without companions. اکیلے اکیلے

فَرْدَوْسٌ Paradise. فردوس

فَرَضَ He appointed. اوسنے مقرر کیا

فَرِيضَةٌ An ordinance of God. خدا کا حکم

فَرَضْتُمْ You fixed. تم نے مقرر کیا

فَرَضْنَا We fixed. ہم نے مقرر کیا

مَفْرُوضٌ Determined or appointed. فرض کیا گیا

فَارِضٌ An old aged (cow). بہت بوڑھی (گائے)

فَرُطٌ To advance or exceed unjustly. بے انصافی یا ظلم کرنا

فَرَطْتُمْ You exceeded beyond the limit. تم حد سے بڑھے

فَرَطْتُ I acted negligently. میں نے کوتاہی کی

فَرَطْنَا We omitted. ہم نے کوتاہی کی

مُفَرِّطُونَ Were extravagantly reproached. بڑی سختی سے ملامت کئے گئے

يَفْرِطُ He advances or exceeds bounds. وہ زیادتی کرتا ہے

يَفْرِطُونَ They are becoming insolent. وہ گستاخ ہوتے ہیں

فَرْعٌ A branch or top of a tree. شاخ یا درخت کی چوٹی

فَرْعُونَ Pharaoh. مصر کے بادشاہ کا نام

فَرَعْتَ Thou hast finished. تو فارغ ہوا

فَارِغٌ Empty, void. خالی ہونے والا

أَفْرِغُ I will pour out. میں ڈالوں گا

أَفْرِغْ Pour out thou. تو ڈال

فَرِيٌّ A lie, to invent, forge. جھوٹ

إِفْتِرَاءٌ Feign, forgery, lie. جعل-تہمت-جھوٹ

إِفْتَرَى He forged. اوسنے تہمت باندھی

إِفْتَرَيْتُ I invented a lie. میں نے تہمت باندھی

إِفْتَرَيْنَا We forged, defamed. ہم نے تہمت باندھی

مُفْتَرٌ A forger, one who defames. تہمت کرنے والا

مُفْتَرُونَ Forgers. بہتان کرنے والے

مُفْتَرِيٌّ One who is blamed. تہمت کیا گیا

مُفْتَرِيَّاتٌ Forged or invented. تہمت بنائی ہوئی

يَفْتَرُونَ Are forging or defaming. تہمت کرتے ہیں

يَفْتَرِي He forges. بہتان کرتا ہے

يَفْتَرِي A lie is invented. تہمت باندھا گیا ہے

يَفْتَرِينَ They are inventing a lie. تہمت باندھتی ہیں

تَفْتَرُونَ You are forging. تہمت کرتے ہو

تَفْتَرِي Thou forgest. تو بہتان کرتا ہے

خَوْفٌ-كَهْرًا Terror. خوف-گھبراہٹ

فُرِعَ Was terrified. خوف کیا-گھبرایا

فُرِعَ Had been freed from fear. خوف یا گھبراہٹ دور کی گئی

فُرِعُوا They were smitten with fear. وہ گھبرائے

خَرَابِيٌ Corruption. خرابی

فُتِدَتْ f. Was corrupted. تباہ ہوئی

فُتِدَا Both were corrupted. دونوں خراب ہوئے

أَفْسَدُوا They corrupted. انہوں نے خراب کیا

مُفْسِدٌ One who despoils. خراب کرنے والا

مُفْسِدُونَ Those who cause to despoil. خراب کرنے والے

يَفْسِدُ He despoils. وہ خراب کرتا ہے

يَفْسِدُونَ They are despoiling. وہ خراب کرتے ہیں

لَا تَفْسِدُوا Do not commit violence. فساد مت کرو

فَسَقٌ Wickedness, disobey the commandment of God. گناہ-نافرمانی

فَسَقَ He disobeyed. اوسنے گناہ کیا

فَسَقُوا They acted wickedly. اونہوں نے گناہ کیا

فَسَوْقٌ To act impiously. گناہ کرنا

تَفْسِقُونَ You are disobeying. تم نا فرمانی کرتے ہو

فَاسِقٌ Wicked, impious. بدکار-گنہگار

فَاسِقُونَ Those who act wickedly. نا فرمانی کرنے والے

يَفْسِقُونَ Are acting wickedly. نا فرمانی کرتے ہیں

فَشَلْتُمْ You fainted or became faint-hearted. تم سہمے یا ترے

فَصَلَ To make division. جدا کرنا

فَصَلَ He was separated. وہ الگ ہوا

فَصَلَّتْ f. Was separated. وہ الگ ہوئی

فَصَلْنَا We explained distinctly. ہم نے اچھی طرح سے بیان کیا

فَصَلَّتْ f. Was separated. الگ کی گئی

فَصِيلَةٌ A family. خاندان-گھرانہ

تَفَصَّلَ To explain. بیان کرنا

فَاصِلِينَ One who makes distinction. الگ کرنے والا

مُفَصَّلٌ Was explained. بیان کیا گیا

مُفَصَّلَاتٌ f. Were separated. جدا کی گئیں

يُفَصِّلُونَ Are explaining. بیان کرتے ہیں

يُفَصِّلُ Divides. الگ کرتا ہے

يُفَصِّلُ Explains. بیان کرتا ہے

تَفْصِيمٌ The act of being broken. ٹوٹنا

فِضَّةٌ Silver. چاندی

اِنْفَضُوا Were dispersed. پراگندہ ہوئے

يَنْفَضُوا Get dispersed جاویں

فَضْلٌ Preference. ترجیح

فَضَّلَ He preferred, اوسنے ترجیح دی

فَضَّلْتُ I gave preference. میں نے بزرگی یا ترجیح دی

فَضَّلْنَا We gave preference. ہم نے ترجیح دی

فَضَّلُوا Were exalted. بزرگی دئے گئے

تَفْضِيلٌ Excellence, merit, favour. بزرگی

نَفِضٌ We make plentiful, or increase. ہم زیادہ کرتے ہیں

فِطْرَةٌ (فطر) Creation, religion. پیدائش-مذہب

فَطَرَ He created. اوسنے خلق کیا

فَاطِرٌ Creator. خالق

فَطْرٌ A crack, flaw, fissure. دراز-سوراخ

مُنْفَطِرٌ That which cleaves, renting asunder. پھٹنے والا

يُنْفَطِرُونَ f. Will be cloven or rent. پھٹینگے

اِنْفَطَرَتْ f. Was asundered or rent. وہ پھٹ گئی

فَضٌّ Harsh, severe. سنگ دل-تند

فَعَلٌ To do, make. کرنا-بنانا

فَعَلَ He did. اوسنے کیا

فُعِلَ Was done or made. وہ کیا گیا

فَعَلْتَ Thou hast done. تو نے کیا

فَعَلْتُ I did. میں نے کیا

فَعَلْتُمْ You did. تم نے کیا

فَعَلُوا f. They did. اونہوں نے کیا

فَعَلْنَا We did. ہم نے کیا

فَعَلُوا They did. اونہوں نے کیا

فَعَالٌ One who does well. اچھی طرح سے انجام دینے والا

اِفْعَلْ Do thou. کر تو

اِفْعَلُوا You do. تم کرو

تَفْعَلُ Thou art doing. تو کرتا ہے

تَفْعَلُونَ You are doing. تم کرتے ہو

تَفْعُولٌ Was done. کیا گیا

نَفْعَلٌ We are doing. ہم کرتے ہیں

يَفْعَلُ He does. وہ کرتا ہے

يَفْعَلُونَ They are doing. وہ کرتے ہیں

يَفْعَلُ Is being done. وہ کیا جاتا ہے

فَاعِلٌ One who does. کرنے والا

فَاعِلُونَ Those who do. کرنے والے

فَكَ (فك) The act of freeing of (captives) چھڑانا-خلاص کرنا

مُنْفَكِينَ Those who vacillate. جدا ہونے والے

فَكَرَ He meditated. اوسنے سوچا

يَتَفَكَّرُونَ Are considering or thinking. گمان کرتے ہیں

فُلَانٌ (فلان) Such an one, a certain person. وہ شخص یا فلان شخص

فَلَقٌ Day-break, breaking forth. پوپھتا-صبح کا وقت

فَالِقٌ One who causes to break forth. چیرنے والا

اِنْفَلَقَ Was cloven. وہ پھٹ گیا

فَلَكَ (فلك) The orbit of a celestial body. آسمان کا حلقہ

فُلُكٌ Ship or ships. جہاز

فَلَاحٌ Happiness, prosperity. نجات

مُفْلِحُونَ Those who are prosperous or happy. نجات پانے والے

فُؤَادٌ The heart. دل

اِفْتَدَى Hearts. کئی دل

فَوَاقٌ To make above. اوپر اوتھانا

فَوْقٌ Above, over. اوپر

اِفْتَأَنَ He became again to him-self, recovered. وہ اپنے ہوش میں آیا

فَوَاتٌ To pass away. گذر جانا

تَفَارُتٌ Escape, slip, separation. بچنا-الگ رہنا-فرق

فوج (فاج) A troop or company. جماعت یا لشکر

فجوة (فجا) A clear open space. کشادہ میدان

فوجیں Troops or armies. فرجیں

فوراً-جلدی (فار) Immediately. فور

فار Was boiled up or over. اوسنے جوش مارا

ف. Boils up. رے جوش مارتی ہے

فوز (فاز) To receive salvation. نجات پانا

فار To obtain one's desire. مراد کو پہونچنا

فائزون Those who obtain their desires.

مراد کو پہونچنے والے

فوز I will obtain. میں مراد کو پہونچونگا

مفاز To attain or reach. پہونچنا

مفارة An escape, place of refuge.

پناہ یا میدان محفوظ

فوم (فام) Garlic. لہسن

فہم (فہم) We made to understand.

تے سمجھایا

فأمة (فام) A band or army. جماعت یا لشکر

فئتان } دو گروہیں
فئدین } Two parties.

ففي (فی) In, into. میں-بیچ

فیل (فال) An Elephant. ہاتھی

ق

قاصد (قاب) A space, distance. فاصلہ

قارعة (قرع) Adversity, that which strikes. سختی-تھوکنے والی-مصیبت

قاصد (قصد) Easy or moderate (journey). آسان-میانہ (سفر)

قصد The right way, the middle path. درست یا میانہ راہ

القصد The middle way. بیچ کی راہ

القصد One who halts between. درمیان میں-تھرنے والا

القصد Who keeps to the right path. سیدھی راہ یا عدل سے چلنے والے

قاصف (قف) A heavy gale of wind. سخت ہوا کا جھونکا

قانت (قنت) One who obeys. فرمانبرداری کرنے والا

قانتات Obedient women. فرمانبردار عورتیں

قانتون Those who obey, or constant in prayer. برابر تابعداری کرنے والے

قانت Obeys. فرمانبرداری کرتا ہے

القانتی Be obedient. بندگی کر

قانع (قنع) One who is contented, one who asks humbly. سوال نکرنے والا یا عاجزی سے مانگنے والا

القانتین Those who lift up the head. سر اڑھانے والے

قاهر (قہر) The conqueror. فاتح

قاهرون Conquerors. فاتح لوگ

قہار The Omnipotent, the Victorious God. پوری قدرت والا-خدا کا نام

لا تقہروا Do not press or subdue. مت دبا

قبر (قبر) A grave, veil, screen. قبر پرده

قبرون Graves. پردے-قبریں

قبرستان Cemeteries. قبریں یا قبرستان

قہس (قبس) Lighted fuel. دھکتا شعلہ

نقہس We are lighting a fire- ہم آگ سلگاتے ہیں

قبض (قبض) To seize, take contract. پکڑنا

قبضت I seized or contracted. میں نے پکڑا

قبضنا We seized. ہم نے پکڑا

مقبوض Was taken. قبضہ کیا گیا

مقبوضة f. Was taken. قبض کی گئی

يقبض He contracts. وہ تنگ کرتا ہے

يقبضون They are contracting. وہ تنگ کرتے ہیں

يقبضن f. Are contracting. تنگ کر رہے ہیں

قبضة A handful. مٹھی

قبيل (قبل) Before, formerly. پہلے-آگے

قبل In presence of. دربرو-سامنے

قبل Towards. طرف

قبلة The point in the direction of which, prayer must be made to be efficacious. بجانب کعبہ نماز پڑھنا

قبول A favourable reception. خیر مقدم کیا

اقبل He turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

اقبلوا They turned towards.

قبول کرنے والا One who accepts. قابل
 وہ قبول کرتا ہے He accepts. یقبل
 وہ قبول کیا جاتا ہے He is being accepted.
 وہ قبول کرتا ہے He accepts. یقبل
 وہ قبول کیا جاتا ہے Is being accepted. یقبل
 قبول نہ کی جائیگی Will not be accepted. لن یقبل
 گواہ-ضامن Surety, bail, sponsor. یقبل
 ہلاک کرنا To kill, or slay. قتل
 باہم لڑنا The act of fighting. قتال
 اس نے مار ڈالا He killed. قتل
 انہوں نے قتل کیا They killed. قتلوا
 تو نے مار ڈالا Thou hast killed. قتلتم
 تم نے قتل کیا You killed. قتلتموا
 ہم نے قتل کیا We killed. قتلنا
 وہ مارا گیا He was killed. قتل
 وہ مارے گئے They were killed. قتلوا
 وہ ماری گئی She was killed. قتلتم
 تم مارے گئے You were killed. قتلتم
 وہ مارے گئے They were killed. قتلوا
 تم مارے گئے You were killed. قتلتم
 ہم مارے گئے We were killed. قتلنا
 ماری گئی f. Was killed. قتلوا
 مردے-لاشیں Deads, corps. قتلی
 میں ہلاک کرونگا I will slay. اقتل
 تم مار ڈالو You kill. اقتلوا
 اوسنے لڑائی کی He fought. اقتل
 انہوں نے لڑائی کی They fought. اقتلوا

تو مار ڈالینگا Thou shalt kill. تقتل
 تم مار ڈالو گے You shall kill. تقتلون
 تو لڑائی کرتا ہے Thou art fighting. تقاتل
 تم لڑائی کرو گے You will fight. تقاتلون
 The act of slaughtering. تقتیل
 حلال کرنا-مار ڈالنا
 ہم مار ڈالتے ہیں We are slaying. نقتل
 ہم لڑائی کرتے ہیں We are fighting. نقتل
 We shall mortify well. نقتل
 ہم اچھی طرح سے ہلاک کریں گے
 وہ قتل کرتا ہے He kills. یقتل
 جان سے مارتے ہیں. Are killing. یقتلون
 جان سے مارتی ہیں f. Are killing. یقتلن
 وہ مارا جاتا ہے He is being killed. یقتل
 وہ مارے جاتے ہیں They are being killed. یقتلون
 وہ لڑائی کرتا ہے He fights. یقاتل
 وہ لڑائی کرتے ہیں They are fighting among themselves. یقاتلون
 آپس میں لڑتے ہیں
 دونوں لڑتے ہیں Both are fighting. یقتتلان
 وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں They cut into pieces. یقتلون
 وہ ٹکڑے ٹکڑے کئے جاتے ہیں Are being cut into pieces. یقتلون
 بخیلی، Niggardly (قتر) قذور
 Straited condition or to be in reduced circumstances. یقتروا
 محتاجی-تنگی
 گرد و غبار Dust. قترۃ
 سیاہ-سیاہی Black, blackness. قتر
 To be in reduced circumstances. مقتر
 نہایت محتاجی کی حالت
 کھیرا یا کتری Cucumber. قثاء
 ریزہ ریزہ کرنا پھاڑنا To rend. (قد) قث
 اوسنے پھاڑا f. Has rent. قثت

پھاڑا گیا Was torn. قد
 مختلف راہیں Different ways. قدن
 The act of striking fire. (قدح) قدح
 آگ سلگائی
 To estimate, value. قدر
 اندازہ کرنا جانچنا
 اوسنے اندازہ کیا He estimated. قدر
 They estimated. قدروا
 انہوں نے اندازہ کیا
 ہم طاقتور ہوئے We were powerful. قدرنا
 That which is predestined. قدر
 ٹہرا دیا گیا He determined beforehand. قدر
 وسنے پہلے سے مقرر کیا
 They estimated. قدروا
 انہوں نے اندازہ کیا
 تو اندازہ کر Estimate thou. قدر
 قابل-زبردست } Powerful, able, potent.
 قادر }
 قدیر }
 Those who are powerful and mighty. قادرون
 وہ جو زبردست ہیں
 تم قابل ہو گے You will be able. تقدروا
 اندازہ Estimate, measure. مقدار
 ٹھہرایا گیا Was predestined. مقدور
 ہم تنگ کرتے ہیں We are determining a measure. نقدر
 وہ قدرت رکھتا ہے He has power. یقدر
 اندازہ کرتا ہے Estimates, measures. یقدر
 ہرگز قابل نہوگا Will never be able. لن یقدر
 Having no power or ability. لا یقدرون
 قدرت نہیں رکھتے
 Are having power. یقتدرون
 قدرت رکھتے ہیں
 Powerful, able to prevail. مقتدر
 قدرتی والا

Those who are powerful. **مقتدرون** طاقت والے

Purity, sanctity. **قدس** پاک

The most holy. **قدوس** بہت پاک

Was made sacred, holy, sanctified. **مقدس** پاک کیا گیا

Was sanctified. **مقدسة** پاک کی گئی

We declare with sanctity. **نقدس** ہم پاکیزگی سے بیان کرتے ہیں

A foot. **قدم** پانو

He sent before. **قدم** اوسنے آگے بھیجا

I sent before. **قدمت** میں نے آگے بھیجا

You put forward. **قدمتم** تم نے آگے رکھا

We sent before. **قدمنا** ہم نے آگے بھیجا

They sent before. **قدموا** انہوں نے آگے بھیجا

Being forward. **قدموا** آگے لاؤ

He came forward. **تقدم** وہ آگے بڑھا

You will precede. **تقدموا** تم آگے بڑھو گے

Is preceding. **يتقدم** آگے چلتا ہے

Are going forward. **يتقدمون** آگے جاتے ہیں

One who is preceding. **مستقدمين** آگے ہونے والا

Precedes. **يتقدم** آگے بڑھتا ہے

Old, ancient. **قديم** پرانا لاابتدا

He cast. **قذف** اوسنے پھینکا

We cast. **قذفنا** ہم نے پھینکا

We are casting over. **نقذف** ہم پھینک مارتے ہیں

Casts or throws. **يقذف** پھینکتا ہے

Are casting. **يقذفون** پھینکتے ہیں

Are being cast. **يقذفون** پھینکے جاتے ہیں

To remain quiet. **قرار** خاموش رہنا

Be quiet or cool. **قرن** خاموش ہو

Was firmly fixed. **مستقر** ٹھہرایا گیا

That which remains firmly fixed. **مستقر** ٹھہرانے والا

Glass bottles or slates. **قوارير** شیشے کی بوتلیں یا تختیان

Delight, coolness of the eye. **قرۃ** خوشی آنکھ کی ٹھنڈک

Cool thyself. **قري** اپنے تئیں نازہ یا ٹھنڈا کر

You confirmed. **اقررتم** تم نے اقرار کیا

We confirmed. **اقررنا** ہم نے اقرار کیا

Papers. **قراطيس** کاغذات

Paper. **قرطاس** کاغذ

To read. **قران** پڑھنا

A period of woman's monthly course. **قروء** ایام حیض

He read. **قرء** اوسنے پڑھا

Thou hast read. **قرات** تو نے پڑھا

We read. **قرانا** ہم نے پڑھا

Has been read. **قري** وہ پڑھا گیا

Thou readest. **قرء** تو پڑھتا ہے

Read thou. **قرء** تو پڑھ

You read. **اقرروا** تم پڑھو

They are reading. **يقروون** وہ پڑھتے ہیں

We are reading. **نقروء** ہم پڑھتے ہیں

We cause or make to read. **نقروء** ہم پڑھانے ہیں

Drawing nigh. **قرب** نزدیک ہونا

Relationship. **مقربة** رشتہ داری

Nearer ones. **قربے** نزدیک والے

He has caused to draw nigh. **قرب** نزدیک کیا

Both have caused to draw nearer. **قربا** دونوں نے نزدیک کیا

We made near. **قربنا** ہم نے نزدیک کیا

Pious works which draw men unto God. **قربات** کام انسان کو خدا کے نزدیک کر دیں

A sacrifice, or gift offered to God. **قربان** قربانی یا اللہ کو نذر چڑھانا

Kinsfolk. **قربا** رشتیدار

Were drawn nearer. **مقربون** ایک کٹے گئے

Near, nigh. **قريب** نزدیک

He may come near. **تقرب** نزدیک ہو

They both came nearer. **تقربا** دونوں نزدیک ہوئے

They came nigh. **تقربوا** وہ نزدیک ہوئے

Thou mayest draw near. **تقرب** نزدیک کر دے

Nearest. **اقرب** نہایت نزدیک

Kinsfolk, most nearly related. **اقربون** رشتیدار

He approached near. **اقترب** نزدیک ہوا

She approached near. **اقتربت** نزدیک ہوئی

Desire thou to be near. **اقترب** و نزدیکي تھونڈا

We are making near. **نقرب** ہم نزدیک کرتے ہیں

Are drawing nigh. **يقربوا** نزدیک ہوتے ہیں

Cause to be nearer. **يقربوا** نزدیک کریں

A horn, a generation. **قرن** سینگ لپشت

An intimate companion. **قرين** ساتھی

Trumpets, horns. **قرواء** شحنے

Those who are associating with each other. **مقربون** آپس میں میل جول رکھنے والے

Those who are able to do a thing. **مقرونين** کسی کام کو کرنیکی طاقت رکھنے والے

Those who are bound together. ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے
 Two horns. دو سینگ
 Korah. قارون
 He of the two horns, Alexander the Great. دو سینگ والا۔ سکندر اعظم
 A wound. زخم (قرح)
 An ape بندر (قرد)
 Apes. کچی بندر (قرد)
 A loan. ادھار (قرض)
 Gives loan, lends. قرض دیتا ہے
 A village, city, town. گاؤں۔ بستی۔ شہر (قری)
 Villages. بستیاں (قری)
 Two cities or villages. دو بستیاں (قرین)
 The two cities of Mecca. مکہ کے دو شہر (ام القریہ)
 A noble Arab tribe. عرب کا ایک شریف قبلیہ ہے (قریش)
 A balance. ترازو (قسطاس)
 Justice, equity. انصاف (قسط)
 More just, to be just. نہایت اچھا۔ انصاف (اقسط)
 Do justice. انصاف کرو (اقسطوا)
 Will do justice. انصاف کرو (اقسطوا)
 Those who do justice. انصاف کرنے والے (مقسطین)
 An oath. قسم (قسم)
 I swear. میں قسم کھاتا ہوں (اقسم)
 You swore. تم نے قسم کھائی (اقسمتم)
 They have sworn. انہوں نے قسم کھائی (اقسموا)
 You will swear. تم قسم کھاؤ گے (تقسموا)
 He swears. وہ قسم کھاتا ہے (یقسم)
 Both are swearing. دونوں قسم کھاتے ہیں (یقسمان)

To portion out. حصہ کرنا (قسمۃ)
 We apportioned. ہم نے بانٹا (قسمنا)
 Those who divide. حصہ کرنے والے (مقسمین)
 Those who make partition. الگ الگ کرنے والے (مقسمات)
 Was divided. حصہ کیا گیا (مقسم)
 They are dividing. وہ حصہ کرتے ہیں (یقسمون)
 Hardness. سختی (قسا)
 Hard-hearted. سخت دل والی (قاسیۃ)
 Became hard-hearted. سخت دل ہوئی (قست)
 A lion. شیر ببر (قصورۃ)
 A Christian priest. عیسائی پادری (قس)
 He narrated. اوستے بیان کیا (قص)
 The act of following. قدم بقدم چلنا (قصص)
 Narratives, stories, histories. فسانے یا داستانیں (قصص)
 We declared. ہم نے بیان کر دیا (قصنا)
 Follow footsteps. قدم بقدم چل (قصی)
 Declare, narrate. ذکر کر (اقصص)
 Thou art mentioning. تو ذکر کرتا ہے (تقصص)
 We are declaring. ہم ذکر کرتے ہیں (نقصص)
 He relates. وہ ذکر کرتا ہے (یقص)
 They are narrating. وہ ذکر کرتے ہیں (یقصون)
 We have broken in pieces. ہمنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا (قصمنا)
 Distant. فاصلے۔ حد (قصر)
 More remote, further. نہایت (اقصر)
 Further. دور (قصر)

Palace, castle. قلعہ۔ محل (قصر)
 Palaces, castles. قلعوں۔ محلوں (قصور)
 Were confined, kept at home. چھپائی ہوئے (مقصورات)
 Those who keep in restraint. تنگ کرنے والے (قاصرات)
 Are diminishing or cutting short. کم کرتے ہیں (یقصرون)
 Those who cut short (their hair). بال کترا کر چھوٹے چھوٹے کرانے والے (مقصرین)
 Trefoil or clover. سبز ترکاری (قضب)
 He commanded. رسنے حکم کیا (قضی)
 They commanded. اونہوں نے حکم کیا (قضا)
 Has brought to an end, decreed. فیصلہ کیا گیا (قضی)
 Was fulfilled. تمام ہوئی (قضیت)
 Thou hast ended. تو نے ختم کیا (قضیت)
 I ended or accomplished. میں نے تمام کیا (قضیت)
 You commanded. تم نے حکم کیا (قضیتم)
 We completed. ہم نے تمام کیا (قضینا)
 Was decreed or paid up. چکا دیا گیا (مقضی)
 One who decrees, judges. حکم کرنے والا (قاض)
 That which comes to an end. آخر ہونے والی (قاضیۃ)
 Do command. حکم کرو (اقض)
 Get fulfilled. کر چکو (اقضوا)
 Thou shalt command. تو حکم کریگا (تقضی)
 Commands. حکم کرتا ہے (یقضی)
 Are commanding. حکم کرتے ہیں (یقضون)
 He will be sentenced. وہ فتویٰ دیا جائیگا (یقضی)
 A judge's sentence. منصف کا نتیجہ۔ فیصلہ (قضا)

پگھلا ہوا پیتل (قطر) Molten brass. قَطْر

گندک Sulphur. قَطْرَان

کناریہ Sides. اَقْطَار

تکڑا (قطع) A part. قِطَاع

تکڑے Parts. قِطَع

وہ نکلا گیا Was cut off. قِطَع

اوسنے خوب نکلا He cut off well. قِطَع

وہ پھاڑی گئی Was cut off. قِطَعَتْ

تم نے تراشا You cut. قِطَعْتُمْ

انہوں نے تراشا They cut. قِطَعُوا

ہم نے تراشا We asundered. قِطَعْنَا

تم کالو You cut down. اِقْطَعُوا

میں کالونگا I will cut down. اِقْطَعُ

تم کالنے ہو You are cutting down. تَقْطَعُونَ

وہ نکلا گیا He was cut off. قِطَع

انہوں نے نکلا They cut down. قِطَعُوا

وہ نکلا گئی Was cut down. قِطَعَتْ

وہ کالے گی Will cut down. قِطَعُ

تم کالنے کو کرے گی You will cut into pieces. تَقْطَعُونَ

وہ نکلا گیا That which is cut off. قِطَع

وہ نکلا گئی That which is cut off. قِطَعَتْ

وہ نکلا گیا He cuts off. قِطَعُ

وہ نکلا گئی They are cutting down. قِطَعُونَ

وہ نکلا گئی A thin skin which envelopes a date stone. قِطَعِي

وہ نکلا گئی Bunches of grapes. قِطَعِي

خاموش بیٹھنا، To sit upon, sit still. قَعُد

وہ بیٹھا He sat. قَعَدَ

وہ بیٹھے They sat. قَعَدُوا

ہم نشیں Those who sit in company. قَعِيد

میں بیٹھونگا I will sit. اَقْعُد

بیٹھو Sit down. اَقْعُدُوا

بیٹھنے والیاں Those who sit down. قَوَاعِدُ

تو بیٹھے گا Thou shalt sit. تَقْعُد

تم بیٹھو گے You will sit. تَقْعُدُوا

بیٹھنا An act of sitting. مَقْعَد

بیٹھنے کی جگہیں Sitting places, seats. مَقَاعِد

بیٹھنیوالا One who sits. قَاعِد

بیٹھنے والے Those who sit. قَاعِدُونَ

مت بیٹھو Do not sit. اَلْتَقْعُدُوا

وہ نکلا گئی We caused to follow or succeed. قَفِينَا

وہ نکلا گئی Thou mayest follow. تَقْفِي

وہ نکلا گئی An ornament of the neck, wreath or garland. قَلَانِي

کنجیاں Keys. مَقَالِي

دل A heart. قَلْب

دو دل Two hearts. قَلْبَان

دل Hearts. قَلْبَان

انہوں نے پھرا They caused to turn. قَبَّرُوا

وہ اڑھائی کی جاوے گی Will be turned upside down. قَبَّرُ

تم پھرا جاوے گی You will be changed or turned about. تَقَبَّرُونَ

پھرا To turn about. قَبَّرَ

وہ پھرا گئی We are causing to turn about. قَبَّرُوا

پھرتا ہے He causes to turn. يَقْبِرُ

پھرتا ہے He causes to turn about. اِنْقَلَبَ

وقت اور جگہ کی جگہ Time and place of journey. مَقَابِل

تم پھراو گے You will be turned. تَقْبِرُونَ

تم پھراو گے You shall return. تَقْبِرُوا

پھرا ہوا Turned one. مَقْبِر

آگیا ہے Returns or turns. يَنْقَلِبُ

پھرتے ہیں Are returning. يَنْقَلِبُونَ

وہ پھرتے They turned about. اِنْقَلَبُوا

تم پھرتے You turned about. اِنْقَلَبْتُمْ

وہ نکلا گئی Became a little or small. قَلَّ

کم Few, little, small. قَلِيل

تھوڑے-تھابت کم Fewer, poorer. قَلِيلِينَ

تھوڑی Little. قَلِيلَةٌ

بہت کم A very little, fewer. اَقَلَّ

وہ نکلا گئی Burnt or carried. اَقْلَتْ

وہ نکلا گئی He makes few. يَنْقَلِ

وہ نکلا گئی He hated. (قَلَى) قَلَى

جس سے لکھتے ہیں A pen. قَلَم

چاند The moon. قَمَر

جس سے لکھتے ہیں Live. قَمَل

تھوڑا A shirt. قَمِيص

وہ نکلا گئی Calamitous (day). قَمَطَرِي

تھوڑا Heap. قَمَطَر

تھوڑوں کے تھوڑے Heaps of talents. قَمَطَرِي

وہ نکلا گئی Are made into heaps (counted by talents). مَقَطَرَةٌ

نَامِيد (قنط) Despair. قنطوا
 نَامِيد ہوئے۔ Were despaired. قنطوا
 Those who despair. قانطین
 نَامِيد ہونے والے
 You will be despaired. تقنطوا
 تم نَامِيد ہو گئے
 Do not be despaired. لا تقنطوا
 نَامِيد مت ہو
 نَامِيد ہوتا ہے۔ He despairs. يقنط
 تم کہتے ہو۔ You are saying. تاقولون
 میں کہتا ہوں۔ I am saying. اقول
 میں نے نہیں کہا۔ I did not say. لم اقل
 باتیں یا مقولات۔ Words or saying. اقاول
 ہم کہتے ہیں۔ We are saying. نقول
 وہ کہتا ہے۔ He is saying. يقول
 وہ دونوں کہتے ہیں۔ They both are saying. يقولوا
 وہ کہتے ہیں۔ They are saying. يقولون
 کہا جاتا ہے۔ Is being said. يقال
 کہا گیا۔ Was said. قيل
 One who sleeps at mid-day. قائل (قال)
 دوپہر کو آرام کرنے والا
 Place of repose at noon. مقيل
 دوپہر کے آرام کرنیکی جگہ
 A people. قوم (قام) جماعت-گروہ
 کھڑا ہونا یا اُٹھانا۔ To stand upright. قيام
 تم کھڑے ہو۔ You stand up. قوموا
 کھڑا ہونے والا۔ Standing upright. قائم
 کھڑے ہونے والے۔ Those who stand. قائمون
 f. That which stands upright. قائمت
 کھڑے ہونے والی
 سیدھا کھڑا ہوا۔ Stood firm and fast. قام
 وہ سیدھے کھڑے ہوئے۔ They stood fast and firm. قاموا
 سیدھا کھڑا ہونا۔ To stand upright. اقامة
 سیدھا۔ Straight. قوام

اُسنے کہا۔ She said. قالت
 دو عورتوں نے کہا۔ Two women said. قالتا
 کہنے والا۔ One who says. قائل
 کہنے والے۔ Those who say. قائلون
 وہ بنا لایا۔ He fabricated. تقول
 وہ کہتی ہے یا تو کہتا ہے۔ She says or thou sayest. تقول
 تم کہتے ہو۔ You are saying. تاقولون
 میں کہتا ہوں۔ I am saying. اقول
 میں نے نہیں کہا۔ I did not say. لم اقل
 باتیں یا مقولات۔ Words or saying. اقاول
 ہم کہتے ہیں۔ We are saying. نقول
 وہ کہتا ہے۔ He is saying. يقول
 وہ دونوں کہتے ہیں۔ They both are saying. يقولوا
 وہ کہتے ہیں۔ They are saying. يقولون
 کہا جاتا ہے۔ Is being said. يقال
 کہا گیا۔ Was said. قيل
 One who sleeps at mid-day. قائل (قال)
 دوپہر کو آرام کرنے والا
 Place of repose at noon. مقيل
 دوپہر کے آرام کرنیکی جگہ
 A people. قوم (قام) جماعت-گروہ
 کھڑا ہونا یا اُٹھانا۔ To stand upright. قيام
 تم کھڑے ہو۔ You stand up. قوموا
 کھڑا ہونے والا۔ Standing upright. قائم
 کھڑے ہونے والے۔ Those who stand. قائمون
 f. That which stands upright. قائمت
 کھڑے ہونے والی
 سیدھا کھڑا ہوا۔ Stood firm and fast. قام
 وہ سیدھے کھڑے ہوئے۔ They stood fast and firm. قاموا
 سیدھا کھڑا ہونا۔ To stand upright. اقامة
 سیدھا۔ Straight. قوام

He caused to stand still. اقام
 اوسنے سیدھا کھڑا کیا
 They caused to stand upright. اقاموا
 انہوں نے کھڑا کیا
 Thou hast caused to stand firm. اقامت
 تو نے سیدھا کھڑا کیا
 You caused to stand upright. اقمتم
 تم نے کھڑا کیا
 Make thou straight. اقم
 تو سیدھا کر
 You will make straight. اقموا
 تم سیدھا کرو گے
 More correct. اقومه
 نہایت درست
 f. Stands up. تقم
 وہ کھڑی ہوتی ہے
 Thou art standing up. تقوم
 تو کھڑا ہوتا ہے
 You are standing up. تقوموا
 تم کھڑے ہوتے ہو
 You will keep or make firm. تقيموا
 تم قائم کرو گے
 One who dwells. مقيم
 رہنے والا
 A place of standing. مقامه
 کھڑا ہونے کی جگہ
 کھڑا ہونا۔ To stand up. مقامه
 رہنے والے۔ Inhabitants. مقيمين
 ہم کھڑا کرتے ہیں۔ We are raising up. نقيم
 وہ کھڑا ہوتا ہے۔ He raises up. يقوم
 Both are rising. يقومان
 دونوں کھڑے ہوتے ہیں
 وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ They are rising. يقومون
 قائم رکھتے ہیں۔ Are keeping straight up. يقيمون
 رہنے والے۔ Those who live in. مقيمون
 وہ دونوں کھڑا کرتے ہیں۔ They both are causing to stand up. يقيمان
 وہ کھڑا کرتے ہیں
 Are putting right or straight. يقيموا
 درست کرتے ہیں

تَقْوِيم To put straight. درست کرنا

قِيَامَةٌ To raise, the Resurrection. اورتھانا

قِيَمَةٌ Firm, upright. سیدھا-مضبوط

قِيَوْمٌ Self-subsisting (God). خود قائم رہنے والا

قِيَمٌ True observer. درست نگاہ رکھنے والا

قِيَمٌ Right. سیدھا

قِيَمٌ Right way. سیدھی راہ

قِيَمٌ Becomes right. سیدھا ہوتا ہے

قِيَمَةٌ (قاع) A level plain. صاف میدان

قَاعًا A plain. میدان

قِيَضْنَا (قاض) We prepared or destined. مقرر کیا

قِيَضْنَا We are preparing or destined. مقرر کرتے ہیں

ک

كَانَ (کان) Is near at hand or just on the point of. قریب ہے

كَانَتْ f. Was near at hand. وہ قریب تھی

كَانُوا They were near or a little way. وہ نزدیک تھے

أَنَا I am near. میں قریب ہوں

كَانَتْ She is near. وہ قریب ہے

يَكُنْ He is near. وہ نزدیک ہے

يَكُونُونَ They are near. وہ نزدیک ہیں

كَانَتْ Thou wast near. تو نزدیک تھا

لَمْ يَكُنْ Not near. نزدیک نہیں

كَاسٌ (کاس) A cup. پیالہ

كَاطِمِينَ (کظم) Those who obstruct or choke anger. غصہ پی جانے والے

كَاطِمٌ Grieving inwardly and in silence. غم کو دبا رہنا ہے۔ تنگ دل ہو رہا ہے

مَكْظُومٌ Oppressed with silent sorrow. غصہ بہرا۔ غمگین

كَالْحَدِيدِ (کلم) Those who grin and show their teeth. دانت دکھانا۔ کھیس نکالنا

كَامِلٌ f. Perfect, whole, complete. کامل تمام پوری

كَامِلَيْنِ Two perfect. دو پورے

كَانَ (کان) To be, become, happen. تھا۔ ہے۔ ہوگا

كَانَا Both were. دونوں تھے

كَانَتْ f. She was. وہ تھی

كَانَا f. They both were. وہ دو تھیں

كَانُوا They were. وہ تھے

كُنْ Be thou. تو ہو

كَانُوا f. They were. وہ عورتیں تھیں

كُنَّا We are. ہم ہیں

كُنْتَ f. Thou art. تو تھی

كُنْتُ I am. میں ہوں

كُنْتَ Thou wast. تو تھا

كُنْتُمْ You are. تم ہو

كُنْتُمْ You all women were. تم سب عورتیں تھیں

كُنْتُ Shall be, will be. ہوگا

كُنْتُمْ You are. تم ہو

كُنْ Be thou. تو ہو

أَنَا I am. میں ہوں

كُنْتَ Thou shalt be. تو ہوگا

كُنْتُمْ You both shall be. تم دونوں ہوگے

كُنْتُمْ You shall be. تم ہوگے

مَكَانٌ A place, house. گھر۔ رہنے کی جگہ

مَكَانَةٌ A place purpose, intention. جگہ یا ارادہ

نَكُنْ We are remaining. ہم رہتے ہیں

نَكُونُ We shall be. ہم ہونگے

يَكُونُ He is being. وہ ہوتا ہے

يَكُونَا They both be. وہ دونوں ہوں

يَكُونُونَ They will be. وہ ہونگے

لَمْ يَكُنْ Has not been. نہوا

يَكُ Being. ہوتا ہے

لَا تَكُنْ Do not be. مت ہو

لَمْ نَكُ We were not. ہم نتھے

كَانَ Though. گویا

كَاهِنٌ (کہن) A soothsayer. کھولنے والا

كَيْفَ (کاین) How many. کتنی ایک بہت

كِبْرٌ (کبر) Greatness, pride. غرور۔ بڑائی

كِبْرٌ Old age. بڑھاپا

كِبْرٌ Greater things or matters. معاملات یا بڑی چیزیں

كَبُرَ He attained greatness. بزرگ ہوا

كَبُرَ Magnify. مبارک

كَبِيرٌ Great, grand, aged. بزرگ

كَبُرَتْ f. Became great. بزرگ ہوئی

كَبِيرٌ f. Great. بڑی

كِبْرِيَاءٌ Greatness. بزرگی

كَبِيرٌ The biggest or eldest. بڑا یا بزرگ

كَبِيرَةٌ Grievous. بہت بڑی۔ شدید

مَتَكَبِّرٌ One who is haughty and arrogant. غرور کرنے والا

The self-exalting people. خود ستائی کرنے والے لوگ
 One who is puffed up with pride. غرور کرنے والا
 Proud, insolents. مغرور تکبر کرنے والے
 Behaves insolently. تکبر کرتا ہے
 Are behaving arrogantly. تکبر کرتے ہیں
 Grievous sins. بڑے گناہ
 Greatest. بہت بڑا
 They understood it greatest. انہوں نے بہت بڑا سمجھا
 The act of magnifying. مبارک باد دینا یا بڑائی کرنا
 You will magnify. تم بڑائی کرو گے
 Is becoming great. وہ بڑا ہوتا ہے
 Are becoming great. بڑے ہوتے ہیں
 Was thrown prostrated. اوندھا کیا گیا
 They were made to prostrate. وہ اوندھے کیٹے گئے
 f. She was made to prostrate. وہ اوندھی کی گئی
 He exposes to ignominy. وہ ذلیل کرتا ہے
 Those who bow their head with shame. شرم سے سر جھکانے والے
 Written book. نوشتہ
 He wrote. اوسنے لکھا
 Books, scriptures. نوشتے کتابیں
 He ordained. اوسنے فرض کیا
 We wrote. ہم نے لکھا
 Prescribed or ordained period. فرض کیا گیا زمانہ
 May I write. میں لکھوں

Write thou. تو لکھ
 You write. تم لکھو
 He has written. اوسنے لکھا لیا
 You will write. تم لکھو گے
 f. Will be written. وہ لکھی جائیگی
 Written. لکھا ہوا
 We are writing. ہم لکھتے ہیں
 He writes. وہ لکھتا ہے
 They are writing. وہ لکھتے ہیں
 Name of the angels who write man's good and evil deeds. وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال نیک و بد لکھتے دھتے ہیں
 He concealed. اوسنے چھپایا
 Hides. چھپاتا ہے
 f. Are hiding. چھپاتی ہیں
 They are hiding. وہ چھپاتے ہیں
 Do not hide. مت چھاؤ
 To be much, many, numerous. بہتایت
 Was increased. بہت ہوا
 f. Became abundant. وہ بہت ہوئی
 He has multiplied. اوسنے بہت کیا
 Much, many, numerous. بہت-زیادہ
 Many things. بہت چیزیں
 Abundance, the greater number. شماریں بہت زیادہ
 Thou hast multiplied. تو نے بہت کیا
 The act of multiplying. بہتایت
 A good thing, sweet. بہت شیریں-عمدہ چیزیں
 A heap of sand. ریت کا تودہ
 Act of labouring after anything کسی چیز کے لئے مشقت کر کے پہونچنا

One who labours after. کوشش کرنے والا
 A lie. جھوٹ
 A great liar. بڑا جھوٹا
 To falsify. جھٹلانا
 He told a lie. اوسنے جھوٹ کہا
 f. She told a lie. وہ جھوٹ بولی
 He falsified. اوسنے جھٹلایا
 You falsified. تم نے جھٹلایا
 We falsified. ہم نے جھٹلایا
 They told a lie. انہوں نے جھوٹ کہا
 They were falsified. وہ جھٹلائے گئے
 They falsified. انہوں نے جھٹلایا
 They were falsified. وہ جھٹلائے گئے
 To falsify. جھٹلانا
 You both will falsify. تم دونوں جھٹلاؤ گے
 You will falsify. تم جھٹلاؤ گے
 A liar. جھوٹا
 Liars. جھوٹے
 f. Liar. جھوٹی
 Are telling a lie. جھوٹ بولتے ہیں
 Is falsifying. جھٹلاتا ہے
 They are falsifying. وہ جھٹلاتے ہیں
 Those who falsify. جھٹلانے والے
 One who was falsified. جھٹلایا گیا
 We are falsifying. ہم جھٹلاتے ہیں

گہرا دکھ، تکلیف Grief, distress. (کرب) کرب	وہ برا سمجھ کر ہوا They felt it disagreeable.	وہ کماتا ہے He gains. یگسب
ایک بار-قسمت کا پھیر A return, a turn of luck. (کر) کر	لازمی زبردستی Compulsion. اکر	کھاتے ہیں They are gaining. یگسبون
دو بار Two other times, twice again. کر تین	تو نے مجبور کیا Thou hast compelled. اکرہت	(کسف) کسف A segment, a piece cut off
تخت چوکی A throne. (کرس) کرسی	وہ زبردستی کیا گیا He was compelled. اکر	پکڑے Pieces or fragments. کسف
تو نے عزت دی Thou hast honoured. (کرم) کرم	تم برا جانتے ہو You are disliking. تکرہون	پوشاک پہنے Clothing. (کسا) کسمو
ہم نے عزت دی We honoured. کرہنا	تو زور کرتا ہے Thou art compelling. تکرہ	ہم نے پہنایا We clothed. کسوننا
اوسنے عزت دی He honoured. اکرام	بیزار ہونے والے One who hates. کارہون	پہناؤ Clothe. اکسوا
اوسنے عزت کی He honoured. اکرم	ناگوار Repugnance, hateful, abomination, disagreeable. مکرہ	ہم پہناتے ہیں We are clothing. نکمو
Make honourable. اکرہی	وہ زبردستی کرتا ہے He compels. یکرہ	کامل سست Lazy, sluggish. (کسل) کسالی
دوست کر-عزت دار کر	وہ نفرت کرتے ہیں They are hating. یکرہون	f. Will take off-a cover. (کشط) کشطات
عزت دی تجھکو Thou wast honoured. اکرمن		چھلکا نکالے گی
تم عزت کرتے ہو You are respecting. تکرہون	جنس کا فروخت ہونا The act of remaining unsold. (کسد) کساد	نکا کرنا کھولنا To uncover. (کشف) کشف
عزت کی گئی f. Was honoured. مکرہ	اوسنے کمایا He gained, acquired. (کسب) کسب	اوسنے کھولا f. He uncovered. کشف
عزت دینی To honor. اکرم	دو نے کمایا Both acquired. کسبا	تو نے کھولا Thou hast uncovered. کشف
عزت دینے والا One who honours. مکر	f. Has gained or acquired. کسبت	ہم نے کھولا We uncovered. کشفنا
عزت دئے گئے Were honoured. مکرہون	اوسنے کمایا You gained. کسبتم	تو کھول Uncover thou. اکشف
مہربان بخشنے والا Generous, kind. کریم	اونہوں نے کمایا They gained. کسبوا	One who removes, takes off or reveals. کاشف
Honourable, nobles. کرام	اوسنے کمایا He gained. اکتسب	ظاہر کرنے والا Those who take off or reveal. کاشفوا
شریف-معزز-بزرگ لوگ	اونہوں نے کمایا They gained. اکتسبوا	ظاہر کرنے والے f. One who removes or takes off or reveals. کاشفہ
زبردستی Detesting, aversing. (کرہ) کرہ	اوسنے کمایا f. Has gained. اکتسبت	He takes off, removes or reveals. یکشف
ناپسند ناخوش Dislike, disagreeable. کرہ	اونہوں نے کمایا f. They gained. اکتسبن	ظاہر کرتا ہے
اوسنے نفرت کی He hated. کرہ	وہ کماتی ہے f. Does gain. تکسب	وہ کھولا جاتا ہے Is being uncovered. یکشف
نفرت انگیز کیا Rendered hateful. کرہ	تم کماتے ہو You are gaining. تکسبون	کعبہ Ka'ba. (کعب) کعبہ
تم نے ناپسند کیا You disliked. کرہتموا		دو تانے Two ankle-joints. کعبین

كِرَاعِب Damsels with swelling breasts.
زوجوان عورتیں جنکی پستان ابھری
ہوتی ہوں

مصیبت-تکلیف Trouble, misery. (کبد) کبد
To throw down headlong. (کبکب) کبکبوا
ارتے ڈالے جانا

ارسنے روکا He restrained, withheld. (کف) کف
میں نے روکا I withheld, kept back. کففت

روکے گئے Were withheld. نفرا

کافی-بالکل f. Altogether, the whole. كافا

وہ باز رکھتا ہے He keeps back. يَكْف

وہ باز رکھتے ہیں They are keeping back
يَكْفِرُونَ

پنچہ-ہتھیلی A hand, or palm. كف

دو ہتھیلیاں Two hands, or palms. كفَي

A place where things are gathered
together. (کفت) کفتا

To deny the existence of God,
خدا کی عتی سے انکار

نا شکرے لوگ Ungrateful people. كَفِر

An atonement, an expiation.
پاک کرنے والا كَفَارَة

وہ منکر ہوا He has denied. كَفَرَ

منکر ہونے والا One who denies. كَاْفِر

Infidels, unbelievers. كَاْفِرُونَ

منکر ہونے والی One who denies. كَاْفِرَة

Denial, ungratefulness. كُفْرَان

نا شکر گزاری-انکار

One who is ungrateful. كُفْرَان

نا شکر گزار لوگ Ungrateful people. كُفْرَان

Un-believers. كُفْرَان

وہ منکر ہوے They denied. كَفَرُوا

وہ منکر ہوئی She denied. كَفَرَتْ

تو منکر ہوا Thou hast denied. كَفَرْتَ

تم منکر ہوے You denied. كَفَرْتُمْ

انکار کیا گیا Was disbelieved. كُفِرَ

We have covered over or expiated.
ہم نے دور کیا یا ڈھانپا كُفِرْنَا

Cover or expiate. ڈھانپ-دور کر كُفِرْ

I am committing ingratitude. اِنْفِرْ

میں نا شکر گزاری کرتا ہوں

He became ungrateful اِنْكُفِرْ

ارسنے نا شکر گزاری کی

تو کافر ہو Be thou infidel. اِنْكُفِرْ

تم منکر ہو Be you unbeliever. اِنْكُفِرُوا

میں انکار کرونگا I will disbelieve. اِنْكُفِرْ

تو منکر ہوتا ہے Thou art denying. تَكْفِرْ

کافر عورتیں Infidel women. كُوَاْفِرِ

تم منکر ہونے ہو You are disbelieving. تَكْفُرُونَ

ہم منکر ہونگے We will deny. تَكْفِرْ

ہم دور کریں گے We will expiate. نَكْفِرْ

وہ منکر ہوتا ہے He denies. يَكْفِرْ

وہ منکر ہوتے ہیں They are denying. يَكْفُرُونَ

وہ منکر ہونے والے They will be made ungrateful. يَكْفُرُوا

وہ ناشکرے کئے جائیں گے

وہ دور کرتا ہے He expiates. يَكْفِرْ

کافور Camphor. كَاوِر

A portion, a like part. (کفل) کفل حصہ

دو حصے Two portions. كَفْلَيْنِ

He made answerable اِرْسِنے جواب دہ کیا اِنْفَلْ

A sponsor, surety, bail. ضامن اِنْفِيلِ

Becomes or stands as surety. يَكْفُلْ

پالتے ہیں Supporting, nursing. يَمْقُرُونَ

مانند برابر Like, equal. (کفا) کفوا

کافی ہے Is enough. (کفی) کفی

ہم بس ہیں We are sufficient. كُفِينَا

کفایت کرتا ہے Suffices. يَكْفِيْ

Will not be sufficient. لَنْ يَكْفِيْ

ہرگز نہ کفایت کریگا

بس ہونے والا One who is sufficient. كَافٍ

All, whole totality universality. (کل) كل

عام یا سب چیز

A heavy burden. بھاری بوجھہ كَلٌّ

دو مرد Two men. كَلَّا

دو عورتیں Two women. كَلَّتَا

Certainly not. ہرگز ایسا نہیں كَلَّا

Kindred, a distant relative. كَلَالَة

دور کے رشتہ دار

A word. (کلم) کلام

A word, a decree. کَلِمَة

Words. بانیں کَلِمَات

کَلَام

اُس نے بات کی He spoke. كَلَّمَ

The word was spoken. f. كَلِمٌ

وہ بات کی گئی I will not speak or utter a word. لَنْ اَكْلِمَ

میں بات نہ کرونگا

بات کرنا To speak. تَكَلَّمَ

تو بات کرتا ہے Thou art speaking. تَكَلَّمْ

ہم بات کرتے ہیں We are speaking. نَتَكَلَّمْ

تم بانیں کرو گے You will speak. تَكَلَّمُونَ

ہم بانیں کرتے ہیں We are talking. نَتَكَلَّمْ

وہ بات کرتا ہے He speaks. يَتَكَلَّمْ

کلام نہ کریں گے Will not talk. لَنْ يَتَكَلَّمُونَ

ایک کتا A dog. كَلْبٌ

Those who train dogs or other animals to hunt. مُكَلِّبِينَ

کسی دوندہ یا کتے کو شکار سکھانے والے

جب-کب کب As often, how often. کلمہ
 کتنا-کسقدر How, much, how many. (کم) کم
 تمہارا-تم کو You, your. (کم) کم
 تم دونوں کو To you both. (کما) کما
 خزانہ A treasure. (کنز) کنز
 خزانے Treasures. کنز
 تم نے گاڑا You buried (a treasure). کنز
 تم گاڑتے ہو You are burying. کنز
 وہ گاڑتے ہیں They are burying. کنز
 (Stars) hiding themselves in
 the rays of sun. کنز
 تارے جو سورج کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں

ناشکر، گذار Ungrateful. (کند) کند
 تارے Stars. (کوکب) کوکب
 تارہ A star. کوکب
 f. Was intertwined or folded up
 تہ کی گتی (کار) کورت
 غار A cave, cavern. کہف
 پوری عمر والا One of full age. (کمل) کمل
 مکر اور فریب A stratagem. کد
 ہم نے دارن سیکھایا We taught a trick. (کد) کدنا
 You contrive a stratagem کنز
 تم فریب کرو میں تدبیر کرونگا I will devise a plot. کنز

Were plotted against. کنز
 They are plotting ہیں فریب کرتے ہیں
 How, in what way. (کاف) کیف
 ناپ-پیمانہ A measure. (گال) گیل
 انہوں نے ناپا They measured. گیل
 انہوں نے ناپ لیا They have measured. گیل
 تم نے ناپا You measured. گیل
 تاکہ تانہو So that, lest. (کی) کیلا
 So that not. لکیلا
 Blind from birth. (کم) کم
 To behave in an abject man-
 ner to humiliate one'sself. (کان) کان

ل

ضرور-خاص Verily, surely, certainly. ل
 نہیں Not, no. (لا) لا
 کاشکہ I wish, would that. (لات) لات
 چپکنے والا Adhesive. (لزب) لزب
 پوشاک A garment. (لبس) لبس
 You are obscuring or mystifying. (لبس) لبس
 تم ملاتے ہو
 Do not obscure or confuse. (لبس) لبس
 مت ملاؤ
 You are wearing. (لبس) لبس
 تم پہنتے ہو
 Clothed. پہنے (لبس) لبس
 پہنے ہیں (لبس) لبس
 Are clothed.
 شبہہ میں ڈالتے ہیں (لبس) لبس
 Are confusing.
 دو پہنیں گے Two will wear. (لبس) لبس
 ہم نے گزبڑا دیا We have obscured. (لبس) لبس
 زرہ بکتو A coat of mail. (لبس) لبس
 To cover, mystify. (لبس) لبس
 دھوکا یا کام کا چھپانا

وہ رہا Has remained. (لبث) لبث
 میں رہا I remained. (لبث) لبث
 تم رہے You remained. (لبث) لبث
 ہم نے دیر کی We delayed. (لبث) لبث
 انہوں نے دیر کی They delayed. (لبث) لبث
 رہنے والے Those who remain. (لبث) لبث
 ٹھہرنا To remain. (لبث) لبث
 وہ ٹھہرے They remained. (لبث) لبث
 وہ دیر کرتے ہیں They are delaying. (لبث) لبث
 Much, hence a dense crowd. (لبث) لبث
 انبوة اعظیم
 دودھہ Milk. (لبث) لبث
 A great body of water. (لبث) لبث
 دریا یا کثرت سے پانی
 Vast and deep river. (لبث) لبث
 عمیق اور پر آب دریا

وہ آڑے They have persisted. (لبث) لبث
 گوشت Flesh. (لحم) لحم
 گوشتوں Pl. flesh. (لحم) لحم
 A vicious pronunciation (لحن) لحن
 داڑھی-وریش The beard. (لحی) لحي
 جھگڑا لو One who quarrels. (لد) لد
 Very contentious, fond of quarrelling. (لد) لد
 جھگڑنے والا
 نزدیک-پاس At, near, with. (لدن) لدن
 نزدیک-ساتھ Near, with. (لدی) لدی
 In my opinion. (لدی) لدی
 میرے نزدیک یا میری نظر میں
 خوش کن مزہ Agreeable, pleasure. (لذ) لذ
 Will find delight or pleasure in. (لذ) لذ
 لذت پاریگی
 ثابت قدم Firm. (لزم) لزم
 لزام

He compelled or made compulsory. اوسنے لازم کیا
 We compelled. ہم نے لازم کیا
 We make it compulsory. ہم لگا دیتے ہیں
 A tongue, language. زبان
 Tongues, languages. زبانیں
 A tongue of truth. سچی زبان
 Gracious, kind. مہربان
 Hell-fire. دوزخ کی دھکنی آگ
 Playing, play, sport. (لعب) لعب
 Playing, play, sport. نشاطہ کھیل ورزش
 Let us play. ہم کھیلیں
 He plays. وہ کھیلتا ہے
 They are playing. وہ کھیلتے ہیں
 Those who do not play. نہ کھیلتے والے
 Perhaps. شاید
 A curse. پھتکار
 He cursed. اوسنے پھتکار کی
 Was accursed. وہ لعنت کی گئی
 We cursed. ہم نے نفریں کی
 Has cursed. اوسنے پھتکار کی
 They were accursed. وہ لعنت کئے گئے
 Those who curse. لعنت کرنے والے
 We are cursing. ہم لعنت کرتے ہیں
 He curses. وہ لعنت کرتا ہے
 Curse thou. تو لعنت کر
 Was accursed. لعنت کی گئی
 Accursed. پھتکاری گئی
 Vain words. فضول یا بیہودہ باتیں

Discourse vainly. بکواس کر
 Weariness. تھکنا
 A mingled crowd. خلط ملط
 Joined together, has embraced. لپٹ گئی
 Thickly planted. گنجان بوٹے ہوئے
 To find. تلاش کرنا پانا
 A nickname. خطاب
 An Arab Sage. عرب کے ایک حکیم کا نام
 To meet, meet with. ملنا
 Both met with. دونوں نے ملاقات کی
 They met with. انہوں نے ملاقات کی
 You met with. تم نے ملاقات کی
 He sent or cast upon. اُسے اتارا
 One who meets with. ملاقات کرنیوالا
 He met with. وہ ملا
 They both met with. وہ دونوں ملے
 We met with. تم نے ملاقات کی
 A meeting one with another. ملاقات کرنی
 One who meets. ملنے والا
 Those who meet. ملنے والے
 Meets. ملاقات کرتا ہے
 Are meeting. ملاقات کرتے ہیں
 Sends or throws down. ڈالتا ہے
 Are throwing down. ڈالتے ہیں
 He threw or cast upon. اوسنے ڈالا
 They poured over. انہوں نے ڈالا
 I threw upon. میں نے ڈالا
 He cast over. اوسنے ڈالا
 You pour. تم ڈالو

Was poured. ڈالا گیا
 I will shed. میں بہاؤنگا
 Shed thou. تو بہا
 Shed you both. تم دونوں ڈالو
 We have shed upon. ہم نے ڈالا
 Thou shalt shed. تو ڈالیگا
 Thou shalt be poured. تو ڈالا جائیگا
 You will pour upon. تم ڈالو گے
 You are sending a message. تم پیغام بھیجتے ہو
 Those who cast. ڈالنے والے
 Those who pour upon. ڈالنے والے
 We are casting forth. ہم ڈالتے ہیں
 Will be poured. ڈالا جائیگا
 They will or shall meet. وہ ملاقات کریں گے
 He will be met with. وہ ملاقات کیا جائیگا
 They will be met with. وہ ملاقات کئے جاویں گے
 They both are meeting with. وہ دونوں ملتے ہیں
 (لکن) لیکن } But, still, nevertheless.
 (ولکن) لیکن-پر-تو-بھی
 But I. لیکن میں
 Not, not yet. نہیں ابھی تک نہیں
 Why. کیوں
 Altogether, entirely. تمام بالکل
 When. جب
 The twinkling of an eye. ایک پلک میں دیکھنا
 Slanderers defamers. عیب چیں اور آنکھ سے اشارہ کرنے والے
 To defame. بدنام کرنا انگشت نما کرنا

Are defaming or scoffing. اشارہ کنایہ سے بدنام کرتے ہیں

Do not make signs with your finger. انگلیوں سے اشارہ مت کرو

We felt with the hand or we touched. ہم نے چھوا (لمس) لمسنا

They touched. انہوں نے چھوا لمسوا

You touched. تم نے چھوا لامستم

Seek, search. ڈھونڈو اَلدَّمَسُوا

That which is near, hence small faults. گناہ کے نزدیک ہونا (لم) لَمَم

By no means. ہرگز نہیں (لن) لَنْ

If. اگر؟ اِنْ

Thou became soft. تو نرم ہوا (لان) لَنْفَ

Is becoming soft. وہ نرم ہوتی ہے f. تَلَيَنَّ

We made soft. ہم نے نرم کیا اَللَّيْنَا

Soft. نرم لَيِّن

A kind of Palm-tree. ایک قسم کا کھجور کا درخت اَللَّيْنَةُ

If, although, unless. (لو) لَوْ

Why not. کیوں نہیں لَوْمَآ

اگر-اگرچہ-اگر ایسا نہو

That which darkens. سیاہ کرنے والی (لج) لَوَاجِدَةٌ

A broad table. ایک چوڑی میز یا تختی اَلرَّوْحُ

Boards or tables. تختیاں اَلرَّوْحُ

The act of flying for shelter. پناہ کی جگہ کو بھاگنا لَوَاذِ

That which renders pregnant or fecundates. دس بھریں (لحم) لَوَاقِحُ

Blame, reproof. ملامت کرنا (لام) لَوْمَةٌ

Do not blame. ملامت نہ کرو اَلْوَمُّوا

Who blames or reproofs. ملامت کرنے والی f. اَلْوَامَّةُ

You are blaming or accusing. تم ملامت کرتے ہو لَوَمُّوْنَ

Blamed person. ملامت کیا گیا اَلْمَلُومُ

Reprehensible or blamed. ملامت کئے گئے اَلْمَلُومِينَ

Deserving of blame. ملامت کے لائق اَلْمَلُومِ

Are blaming one another. آپس میں ملامت کرتے ہیں اَلْمَلُومُونَ

Lot. لوط (لاط) لَوَطٌ

Pearls, a large pearl. بڑے موتی (لاط) لَوَاطِ

Colour, external form. رنگ (لان) لَوْنٌ

Colours. کئی رنگ اَلْوَانُ

Flaming fire. شعلہ زن آگ (لہب) لَهَبٌ

A plaything, amusement. تماشہ-کھلونا لَهْوٌ

He occupied me in amusement. اوسنے کھیل میں مشغول رکھا اَلْهَى

م

جو-وہ-ایسا That, which, what, such. جَو-وَه-اَيْسَا

پانی-رقیق Water, liquor. (ماء) مَاءٌ

ایک سو A hundred. (مائی) مَائَةٌ

دو سو Two hundred. (مائین) مَائِيْنٌ

A table set out with food. آراستہ دسترخوان (ماد) مَائِدَةٌ

جھکیگی Will move or bend. جَهَكِيْغِي

Magog. (ماجوج) مَاجُوجٌ

انکو پاقت کی اولاد سے بتلایا جاتا ہے

Fire free from smoke. بغیر دھوئیں کا شعلہ (مرج) مَرَجٌ

Name of a rebellious angel. ایک شرکش فرشتہ کا نام ہے (ماروت) مَارُوْتُ

Household stuff. روز مرہ برتنے-کی چیزیں (معن) مَاعُوْنٌ

Keeps occupied. مشغول رکھتا ہے اَلْمُشْغُوْلُ

Act of twisting or perverting. (لوی) لَوِيٌّ

They have turned aside or perverted. انہوں نے تھایا یا اَلتَّوَلَّوْا

Hiding or covering or clothing. چھپانے یا اَلتَّوَلَّوْا

Getting nearer. (لویون) لَوِيُوْنَ

Not looked back. اَلتَّوَلَّوْا

کے نہ دیکھا تم متوجہ نہیں ہوئے

Night. رات (لیل) لَيْلٌ

One night. ایک رات اَللَّيْلَةُ

Nights. راتیں اَللَّيَالِ

I wish. (لات) لَيْتٌ

It was not. Is not? (لیس) لَيْسَ

نہیں تھا-کیا نہیں وہ نہیں ہے f. لَيْسَتْ

They are not. وہ نہیں ہیں لَيْسُوا

Thou art not. تو نہیں تھا لَيْسَتْ

I am not. میں نہیں ہوں لَيْسْتُ

You are not. تم نہیں ہو لَيْسْتُمْ

Lest. (اسلا) لَسْتُ

دولت-صورتا Riches, wealth. (مال) مَالٌ

Goods, chattels, provision capital. اسباب-پونجی (متع) مَتَاعٌ

Household stuff. (مذمة) مَذْمَعَةٌ

میں فائدہ دوں گا I will bestow. (مذم) مَذْمَعٌ

Thou hast bestowed. (مذمت) مَذْمَعْتِ

میں نے فائدہ دیا I bestowed. (مذمت) مَذْمَعْتِ

تم نے راحت دی۔ You gave pleasure. منعم
 ہم نے راحت دی۔ We caused to enjoy. منعم
 خوشی یا راحت دو۔ Give pleasure or delight. منعم
 اوسنے حظ حاصل کیا۔ He enjoyed. تمنع
 تو حظ لے۔ Enjoy thou. تمنع
 تم حظ آگھاؤ۔ You enjoy. تمنعوا
 تم راحت دئے جاؤ گے۔ You will be permitted to enjoy. تمنعون
 ہم راحت دیتے ہیں۔ We are giving pleasure. تمنع
 راحت پذیر کرتا ہے۔ Makes to enjoy. يمنع
 خوش کئے جائینگے۔ Will be given pleasure. يمنعون
 فائدہ اٹھاتے ہیں۔ Are driving delight or pleasure. يمنعون
 گوشہ گیر ہونے والا۔ One who goes aside or retreats. متحيز
 جھگڑالو غیبت کرنے والا بدخو۔ Quarrelling person or those who are at variance with each other. متشاكسون
 اہل سے دریافت کرنے والا۔ Those who guess a thing by its outward signs, intelligent. متوسم
 ہم شتاب داغ دینگے۔ We will braod immediately. متوسم
 کب۔ When. متا
 مضبوط قوت والا۔ Strong, powerful. متن
 کہارت۔ A parable. مثل
 مانند۔ مطابق۔ Similitude, likeness. مثل
 کہارتیں۔ Parables. مثلات
 دو ایک طرح کے یا دو برابر۔ Two equivalent. مثلي
 نہایت مشہور۔ Most distinguished. مثلي
 بہتر۔ Best. امثل
 (جلس) مجلس۔ A place of sitting or assemblies. مجلس گاہیں

آتش پرست۔ Magic or fire-worshippers. مجوس
 بزرگ۔ شاندار۔ Glorious, glorified. مجد
 قوت۔ Power. محال
 چوپایوں کے لئے خطیرہ بنانے والا۔ One who builds a fold for cattle. محظور
 منع یا حرام کیا گیا۔ Was prohibited, hindered. محظور
 ہم نے مٹایا۔ We obliterated. محونا
 مٹانا ہے۔ Blots out, abolishes. محو
 جگہ یا بچنے کی راہ۔ A place or way of escape. محيص
 ماہواری حیض۔ The monthly courses of a woman. محيض
 حیض لانا ہے۔ Having courses. يحضن
 کانتوں سے پاک کیا گیا۔ Deprived of thorns, purged out. محضون
 بھوک۔ Hunger. محض
 کھینچنا۔ To stretch. مد
 کھینچی گئی۔ Was stretched. مدت
 اوسنے کھینچا۔ He stretched forth. مد
 ہم نے کھینچا۔ We drew out. مدنا
 وہ کھینچتا ہے۔ He draws. مد
 وہ کھینچتے ہیں۔ They are drawing. مدون
 ہم کھینچتے ہیں۔ We are drawing. نمد
 کہینچا گیا۔ That which was stretched. ممدون
 بہت کھینچی گئی۔ Widely extended. ممدولة
 سیاہی۔ Ink. مدان
 سہارا۔ مدد۔ Help, auxiliary. مدد
 اوسنے مدد کی۔ He helped. امد
 ہم نے مدد کی۔ We helped. امدنا
 مدد دینے والا۔ One who assists. امد

ہم مدد کرتے ہیں۔ We are assisting. امد
 تم میری مدد کرو گے۔ You will help me. امدون
 وہ مدد کرتا ہے۔ He assists. امد
 (در) مدرار۔ An abundant of rain. مدرار
 شدت کی بارش۔ Two gardens of a dark green colour. مدھامتان
 سبز اور سیاہی مائل دو باغ۔ Midian. ملک مدیان
 شہر۔ مدینہ۔ A city, Medina. مدینة
 شہروں۔ Cities. مدائن
 Wavering to and fro. (ذبذب) مذبذبين
 مترد
 Those who are submissive. (ذعن) مذعنين
 بارود کرنے والے۔ گردن جھکانے والے۔ To pass by. مر
 گذرنا
 وہ گذرا۔ He passed by. مر
 وہ گذری۔ Passed by. مر
 گذرنا ہے۔ Passes by. مر
 گذرتے ہیں۔ Are passing by. مرون
 گذرنا۔ The act of passing away. مروا
 سخت۔ بہت کڑوا۔ Bitter, grave, heavy. امر
 تم گذرتے ہو۔ You are passing by. مرون
 وہ گذریگی۔ Will pass away. مر
 مضبوط۔ That which is transient, powerful. مستمر
 ایک بار۔ Once. مرة
 دو بار۔ Twice. مرتان
 کئی بار۔ Several times. مرات
 سمجھ۔ عقل۔ Understanding. مرعة
 مرد۔ (مرا) مرء
 مرد۔ A man. امرء

امرأة A woman. عورت
 امرأتان Two women. دو عورتیں
 هضم هونے والا Easy of digestion. ہضم ہونے والا
 شك (مري) Doubt. شک
 تو جھگڑتا ہے Thou disputest. تمار
 تم جھگڑتے ہو You are disputing. تم مارون
 انہوں نے شک کیا They doubted. ہماروا
 تم شک کرتے ہو You are doubting. تم مارون
 شک کرتے ہیں Are doubting. یہ مارون
 جھگڑتا کرتے ہیں Are disputing. ہمارون
 Those who doubt. شک کرنے والے
 شك A doubt. شك
 پناہ گاہ A place of refuge. (مراغ) مراغ
 بہت خوش ہونا To be very joyful. (مرح) مرح
 In a saucy or insolent manner. انراہے ہوی
 Those who rebelled obstinately. وہ جو حد سے گذری
 Obstinate in rebellion. سرکش
 Firmly and compactly united. خوب جڑا ہوا۔ مطبوطی سے
 Illness, sickness, infirmity. (مرض) مرض
 کمزوری بیماری
 I got ill. میں بیمار ہوا
 Sick, ill persons. بیماروں
 Sick, ill. بیمار
 Name of a mountain near Mecca. مکہ میں ایک پہاڑ کا نام
 Blessed Virgin Mary. مبارک پاک کنواری کا نام
 That which is mixed with wine. (مزج) مزاج
 ملا ہوا

نھری Few, small. (زجا) مزجات
 Propels, drives forward. (زجا) یزجی
 آگیاں سے
 You were torn, or dispersed. (مزق) مزق
 تم بھاری گئے
 ہم نے بھارا We scattered or tore. مزقنا
 Time or place of scattering. (مزق) مزق
 جس وقت بھارا گیا یا پراگندہ کیا گیا
 Who wraps himself in a garment. (زمل) مزمل
 اپنے اپکو کپڑے سے لپیٹنے والا
 Cloud. (مزن) مزن
 چھونا To touch. (مس) مس
 چھوا Touched. مس
 That which was touched. (مس) مس
 چھوئی ہوئی
 Touching, mutual contact. (مس) مس
 چھونا
 Touches. (مس) مس
 چھوتے ہیں
 وہ چھوئی ہے } f. Touching. تمس
 تمس }
 تمس }
 You are touching. تم چھوئے ہو
 Fornicating women. (مفس) مفسحات
 زنا کار عورتیں
 Fornicators. (مفس) مفسحین
 زنا کار
 Poured forth. (مفوح) مفوح
 بہایا گیا
 To wipe, to pass the hand over anything in order to wipe. (مسح) مسح
 ہاتھ پھیرنا یا چھونا
 The annointed, one who wipes away, Christ. (مسح) مسح
 تم مسح کرو You wipe. امسحوا
 We transformed or changed into. (مسخ) مسخنا
 ہم نے بد شکل کیا
 Twisted fibres of the Palm tree, coir. (مسد) مسد
 کھجور کے درخت کی چھال کی بٹی ہوئی
 دسی

Hunger, famine. (مصب) مصبة
 Musk. (مک) مک
 To hold fast. (امساک) امساک
 رکنا
 He held. (امسک) امسک
 اوسنے رکھا
 You held fast. (امسکتکم) امسکتکم
 پکڑ رکھا
 They detained. (امسکن) امسکن
 رکھے رکھا
 Retain thou. (امسک) امسک
 رکھو
 You keep holding. (امسکوا) امسکوا
 رکھو
 He watches. (يمسك) يمسك
 دیکھتا ہے
 One who retains, miser. (ممسك) ممسك
 رکھنے والا
 Those who hold fast. (ممسكات) ممسكات
 پکڑنے والے
 Will withhold. (تمسكوا) تمسكوا
 بند کرو گے
 Are snatching away. (يمسكون) يمسكون
 لے رہے ہیں
 Those who hold fast. (متمسكون) متمسكون
 پکڑنے والے
 Poured forth, flowing. (مصب) مصب
 بہا رہا گیا
 Propped up. (مسند) مسند
 لگی ہوئی
 The left hand, the damned. (مشماتة) مشماتة
 دئے ہوئے۔ بائیں طرف
 To walk, go, proceed. (مشي) مشي
 Who proceeds or who slanders. (مشاء) مشاء
 دینے والا یا تہمت لگانے والا
 They walked or slandered. (مشوا) مشوا
 لگائی۔ وہ چلے
 You walk. (امشوا) امشوا
 تم چلو
 You are walking. (تمشون) تمشون
 تم چلتے ہو
 Walks or goes. (تمشي) تمشي
 وہ چلتی ہے } f.
 He goes about. (يمشي) يمشي
 وہ چلتا ہے
 Are going. (يمشون) يمشون
 چلتے ہیں
 A large city, Egypt. (مصر) مصر
 بڑا شہر۔ ملک مصر

خواب گاہیں (ضجع) Sleeping places. مضاجع
 گوشت کی بوٹی (مضغ) A morsel of flesh.
 گذرا ہے (مضی) That which is passed.
 گذری f. Passed by.
 بارش (مطر) Rain.
 بارش برسا To cause to rain.
 برساتی گئی f. Was caused to rain.
 ہم نے برسایا We rained down.
 برساتے والا That which causes or brings rain.
 (طف) Those who give short measure. مطفین
 دوز کرنے والے
 (مع) With, together or in company. مع
 ہمراہ ساتھ
 (غیب) Were received into favour. معتبین
 خوش کئے گئے
 Will be received into favour. يستعقبون
 مقبول ہوئے یا عتاب دفعہ کئے جانے
 (جرم گناہ) A crime. معر
 بکری (معز) A goat.
 روکنے والے (عائق) Those who hinder. معوقین
 ہتھوڑا (مخ) A mace. معاقع
 (قبح) Abhorred, rendered loathsome. مقبوحین
 ملامت یا بدی کئے گئے
 (مقت) An abominable thing, haterd, anger. مقت
 مکرہ۔ غصہ۔ گناہ
 (قبح) Those who are forced to keep their head up so that they cannot see. مقمقرون
 جو مجبور تاکہ دیکھ نہ سکیں۔ سر اونچا کئے گئے
 (مکا) To whistle. مکی
 مکہ (مک) Mecca.
 (مکت) Delay. مکث

اوسنے دیر کی He delayed. مکث
 وہ ٹہرتا ہے He abides or remains. يمكث
 حیلہ کرنا To contrive a plot. مكر
 اوسنے دار کیا He plotted. مكر
 اونہوں نے دار کیا They plotted. مكر
 ہم نے حیلہ کیا We plotted. مكرنا
 Those who lay plots. ماکرین
 فریب دینے والے
 تم مکر کرتے ہو You are plotting. تم مكر
 وہ داد کرتا ہے He plots. يمكر
 فریب کرتے ہیں Are deceiving. يمكرون
 قوت یا زور دیا Given strength. (مكن) مكن
 ہم نے طاقت دی We gave power. مكننا
 ہم قوت دیتے ہیں We are strengthening. نمكن
 وہ زور دیتا ہے He gives power. يمكن
 Firmly fixed, one whose rank is well established. مرتبہ والا مكنين
 زوردار Powerful. امكن
 گروہ۔ گروہر۔ (ملا) A band, nobility, chiefs. ملا
 بھرنا To fill. ملأ
 بھری گئی f. Was filled up. ملئت
 اوسنے دیر کی He delayed. املأ
 ایک معقول مدت A considerable time. ملى
 میں مہلت دوں گا I will grant a respite. املأى
 میں نے برابر تھیل دی I continued to cause delay. املأيت
 ہم لکھتے یا لکھاتے ہیں We write or dictate. نملأى
 لکھی جاتی ہے Is being written. نملأى
 (مل) A religion, a form of worship. ملأ
 مذہب
 لکھتا ہے Writes at dictation. يملأ
 جائے پناہ (مجا) A place of refuge. ملأجا

نمک (ملح) Salt. ملح
 قبضہ اختیار (ملك) Power, possession. ملك
 One who possesses, a king. ملك
 اختیار والا۔ بادشاہ
 مالک ہوئی f. Became possessor. ملكت
 تم مالک ہوئے You possessed. ملكتم
 A kingdom, dominion. ملكوت
 سلطنت بادشاہی ملك
 بادشاہوں Kings, lords. ملوك
 تم مالک ہو گئے You will possess. تملكون
 مالک ہوتا ہے Became possessor. يملك
 Are becoming possessors Are becoming possessors يملكون
 مالک ہوتے ہیں
 Lord, possessor, an angel who has charge over Hell. ملك
 وہ فرشتہ جو دوزخ کا داروغہ ہے
 مختار Possessors. مالكون
 شاہنشاہ A monarch. ملك
 مال۔ غلام Possessed, owned, slaves. مملوك
 فرشتہ An angel. ملك
 دو فرشتے Two angel. ملكين
 فرشتگان Angels. ملائكة
 سے۔ کوئی From, whoever. (من) من
 سے اس چیز سے From, out of this. مما
 سے کس سے From, whoever. ممن
 سے۔ سے From, out of. (من) من
 کون Who. من
 ہرنجبین Manna, manna of the desert. (من) من
 احسان کرنا To be gracious towards. من
 وصنے احسان کیا He bestowed a favour. من
 احسان کرنا To oblige, to bestow favour. آمن
 Thou art bestowing favour. تمن
 تو احسان رکھتا ہے
 We are bestowing favour. نحن
 ہم احسان رکھتے ہیں

ہم نے احسان کیا We bestowe favour. ^{مذنا}

وقت-زمانہ-مدت Time. ^{منون}

احسان رکھتے ہیں Are bestowing favour. ^{منون}

وہ احسان رکھتا ہے He bestows favour. ^{منون}

احسان نہ رکھو Do not bestow favour. ^{منون} لا تمذوا

An idol worshipped by Pagan Arabs. ^{مذات}

ایک بت کا نام جو بت پرست عرب پوجتے تھے

خواہش-آرزو A wish, desire. ^{امذیة}

آرزویں Desires, wishes. ^{امانی}

تم آرزو کرتے ہو You are desiring. ^{تتمذوا}

آرزو کرتے ہیں Are desiring. ^{یتتمذوا}

تم آرزو کرتے ہو You are desiring. ^{تمذون}

تم آرزو کرو You desire. ^{تمذوا}

اوسنے آرزو کی He desired. ^{تمنی}

نطفہ Sperma genitale. ^{منی}

گرایا جاتا ہے Is being emitted. ^{یمنی}

خواہش پیدا کرتا ہے Creates desire. ^{یمنی}

انگ ہونا بھاگنا To retreat, fly. ^{مذاص}

گلا گھونٹتی ہوئی That which is strangled. ^{مذخقة}

روک رکھا Prevented, detained. ^{مذع}

بچانے والی One who defends. ^{مذاعة}

بڑا اٹکاؤ کرنے والا One who is a great hinderer or obstructor. ^{مذاع}

نادینے والا منع کرنے والا One who holds back. ^{مذوع}

تو بچاؤے Defend thou. ^{مذع}

منع کی گئی Was forbidden. ^{مذوعة}

ہم منع کرتے ہیں We are forbidding. ^{مذع}

وہ منع کرتے ہیں They are forbidding. ^{مذعون}

جڑ سے اکھڑا ہوا That which is torn up by the roots. ^{مذعور}

صاف و کشادہ راستہ (نہج) A clear and open way. ^{مذہاج}

زرد سے ڈالنا-بارش (ہمر) Pouring forth, rain. ^{مذہجر}

پانی میں چلنے والیاں (مخر) f. That which ploughs the waves with a dashing noise. ^{مواخر}

میدان لڑائی (وطن) A battle field. ^{مواطن}

جائے ہلاکت (وبق) A place of destruction. ^{موبق}

ہلاک کرتا ہے Causes to perish. ^{یوبق}

مرنا (مات) To die. ^{مات}

موت Death. ^{مات}

مردے Dead, corpse. ^{موتی}

مردے (اموات) ^{اموات}

مر جاؤ Die. ^{موتوا}

وہ مرا He died. ^{مات}

اوسنے مارا He caused to die. ^{امات}

تو نے مارا Thou hast caused to die. ^{امت}

میں مردنگا I will die. ^{اموت}

میں مارتا ہوں I am causing death. ^{امیت}

وہ مرتی ہے She dies. ^{تموت}

تم مردگے You will die. ^{تموتون}

وہ مارتا ہے He causes death. ^{یمیت}

وہ مرتا ہے He dies. ^{یموت}

وہ مرتے ہیں They are dying. ^{یموتون}

ہم مرتے ہیں We are dying. ^{نموت}

We are causing death. ^{نمیت}

مردے (میت) Dead. ^{میت}

فانی (میتة) Mortal. ^{میتة}

مرا ہوا That which is dead. ^{میت}

مردے (میتون) Deads. ^{میتون}

تم نہیں مردگے You will not die. ^{لاموتون}

لہر (ماج) A wave. ^{موج}

Waves, or moves. ^{یومج}

Killed by a blow from a club. ^{موتونة}

To be moved to and fro, agitated. ^{مور}

Fluctuates or moves. ^{ف. مور}

Moses. ^{موسی}

Was covered over, veiled. ^{ف. موصدة}

Interwoven (with gold and precious stones). ^{موضونة}

Was made full, or ample. ^{موفور}

Was buried alive. ^{ف. موعودة}

A refuge. ^{مویل}

A couch, a bed. ^{مهاد}

Earth, a bed, cradle. ^{مهد}

I have made agreeable. ^{مهدت}

The act of making smooth. ^{تمہید}

Are spreading. ^{یمہدون}

Those who hasten with fixed gaze or extended neck. ^{مہطعین}

Fused brass. ^{مہل}

Grant a time, or delay, give respite. ^{مہل}

Whatever and whensoever. ^{مہما}

Was poured out. ^{مہیل}

The guardian, keeper, custodian, one who preserves. ^{مہیمن}

Despicable, contemptible. ^{مہین}

Michael, the archangel. (میکال) میخائیل

ایک مقرب فرشتے کا نام

To turn away from. (مال) میل

ایک بار جھکنا. A single act of turning. ميلة

Do not turn aside. لانہ میلوا

ایک طرف مت جھکو

ن

هم We. (نا) نا

عین انا

دور هوا. Has retired, gone far away. (ناي) نا

دور ہوتے ہیں. Are getting far away. (نہن) نہن

آگ Fire. (نار) نار

روشنی Light. نور

وہ شے جو. That which gives light. منیر

روشن کرے

پیشانی A forelock, forehead. (نصا) ناصیة

پتے پیشانیان. Forelocks or foreheads. (نواصي) نواصي

Over and above than what are

ایک حد سے زیادہ. commanded. (نفل) نافلة

غنیمتیں Spoils, booty. (نقال) نقال

اورتی A she-camel. (ناق) ناقة

A trumpet, drum. (نقر) ناقور

پھونکا جائیگا. To be blown. نقر

A smallest matter. نہایت خفیف سا معاملہ. (نقییر) نقیر

Those who turn aside. (نکب) ناکبون

تبرہ ہونے والے۔ الگ ہونیوالے

Shoulders, a tract of country. (مناكب) مناكب

کاندھے یا ملک کا کچھ حصہ

خبر News. (نباء) نبأ

He announced or made acquainted. (نبا) نبا

اوسنے خبردار کیا

Tell me, or declare to me. (انباؤا) انباؤا

Are seeking information from. (يستنبون) يستنبون

آگاہی چاہتے ہیں

وہ خبردار. He makes acquainted with. (ينبئ) ينبئ

کرتا ہے

خبر دار کیا جائیگا. Will be informed. (ينبئ) ينبئ

تم خبر دو. You inform. (نهدوا) نهدوا

خبر دے. Inform, announce. (نبئ) نبئ

نبوت Prophecy. (نبوؤة) نبوؤة

A Prophet or one who delivers a

پیغمبر یا ایک ایسا شخص جس نے

We are informing. (ننبئ) ننبئ

نبی لوگ Prophets. (نبيون) نبيون

اوسنے اطلاع کی. He informed. (نباؤا) نباؤا

میں نے اطلاع دی. I informed. (نباؤا) نباؤا

The germinating thing. (نبت) نبتات

اگرے والی چیز

اورگاتی ہے. Produces. (تنبت) تنبت

وہ آگاتا ہے. He causes to produce. (يذبت) يذبت

Let us make imprecations. (نبتل) نبتل

آدھم زاری کریں یا لعنت کے لئے دعا مانگیں

اوسنے پھینکا. He threw. (نبت) نبت

اُسنے کٹاڑا کیا. He rejected. (انبتت) انبتت

انہوں نے پھینکا. They threw. (نبتوا) نبتوا

اوسنے پھینکا. She threw. (نبتت) نبتت

ہم نے پھینکا. We threw. (نبتنا) نبتنا

پھینکا گیا. Was thrown. (نبت) نبت

میں نے پھینکا. I threw. (نبتت) نبتت

پھینکا جائیگا. Will be thrown. (ينبت) ينبت

پھینک Throw. (انبت) انبت

We shook or raised. (نعتق) نعتقنا

ہم نے اوتھایا یا ہلایا

Deliverance. (نجا) نجاؤة

تو نجات دے. Save thou, deliver thou. (نج) نج

Thou hast attained deliverance. (نجوت) نجوت

تو نے خلاصی پائی

وہ بچا. He escaped. (نجي) نجی

اوسنے نجات دی. He saved. (نجي) نجی

ہم نے بچایا. We saved. (نجينا) نجينا

وہ بچایا گیا. He was saved. (نجي) نجی

اوسنے نجات دی. He delivered. (انجي) انجي

Thou hast delivered. (انجيت) انجيت

تو نے نجات دی

We have set free or delivered. (انجينا) انجينا

ہم نے رہائی دی

تو رہائی دیا. Thou shalt be saved. (تذجي) تذجي

جائیگا

ہم رہائی دیتے ہیں. We are delivering. (ننجد) ننجد

بچائے. Might deliver. (ينجد) ينجدي

وہ بچائے. He might deliver. (ينجد) ينجدي

A private conference. خفیہ گفتگو. (نجري) نجري

سرگوشی

One who is associated in a secret. (نجي) نجی

راز دار

You held private conference. (ناجيتم) ناجيتم

تم نے سرگوشی کی

You are discoursing privately. (تجاجوا) تجاجوا

تم کان میں بات کرتے ہو

You discourse privately. (تجاجيتم) تجاجيتم

تم کان میں بات کہو

يَتَذَاجِرُونَ Are holding conference.

مشورہ کرتے ہیں

دو بلند گھاٹیاں (نجد) Two highways.

ناپاک (نجس) Filth, unclean.

تارا (نجم) A star.

تارے Stars.

دھواں یا پگھلا ہوا پیتل (نجاس) Smoke or molten brass.

بدبخت Unlucky, bad luck.

بدبخت باتیں Unlucky things, or circumstances.

قسم-ذمہ (نحب) A vow.

شہد کی مکھی (نحل) Bee.

مہر A free gift, especially a dowry.

ہم (نحن) We.

سڑایا گلا ہوا (نخر) Rotten.

کھجور کے درخت (نخل) Palm-trees or date-palm.

کھجور کا درخت (نخيلہ) A date-palm.

کھجور کا ایک درخت (نخلۃ) One date-palm.

پکارنا (ندا) To call.

اوسنے بلایا (نادت) f. She called.

تمنے بلایا (نادیتم) You called.

ہم نے پکارا (نادینا) We called.

پکارنا (تَدَا) To call.

اونہوں نے پکارا (تَدَاوَا) They called.

اوسنے پکارا (تَدَا) He called.

اونہوں نے پکارا (تَدَاوَا) They have called.

پکارا گیا (تَدَا) That which was called.

وہ پکارے گئے (تَدَاوَا) They were called.

مُذَكِّرٍ A preacher, one who makes a

proclamation. تشہیر کرنے والا پکارنے والا

يَذَاجِرُونَ Are calling. پکارتے ہیں

يَذَاجِرُونَ Will be called. پکارے جائینگے

يَذَاجِرُ He calls. وہ پکارتا ہے

مَجْلِسٍ A council. مجلس

مَجَالِسٍ Councils. مجلسیں

توبہ-پشیمانی (ندم) Repentance, penitence.

قسم-عہد-منت (نذر) To vow.

میں نے عہد کیا (نذرت) I vowed.

تم نے عہد کیا (نذرتم) You vowed.

منتیں (نذور) Vows.

آگاہ کرنا (نذر) To warn.

آگاہ کرنے والے (نذر) Those who warn.

چتانی والا (نذير) One who warns.

اوسنے چتایا (آذرت) He admonished.

تو چتا (آذرت) Warn thou.

تو نے آگاہ کیا (آذرت) Thou hast warned.

ہم نے چتایا (آذرتنا) We admonished.

تم ڈراؤ (آذروا) You warn.

تو ڈرا (آذرت) Warn thou.

ڈرانے والا (مُذَكِّرٍ) Warner.

چتانی والے (مُذَكِّرُونَ) Those who warn.

ڈرانے والے (مُذَكِّرِينَ) Preachers.

وہ ڈراتا ہے (يَذَرُ) He warns.

ڈرائے جاتے ہیں (يَذَرُونَ) Are being warned.

تو نے نہیں ڈرایا (لَمْ يَذَرْ) Thou hast not warned.

تو نے نہیں ڈرایا

اوسنے نکالا (نزع) He plucked out.

نکالنے والے (نزاعۃ) Those who extract.

ہم نے نکالا (نزعنا) We brought out.

یہ نکل رہے ہیں (يُنزِعُونَ) They are drawing out.

کھینچتے ہیں

ہم نکالینگے (نزع) We will draw out.

وہ کھینچتا ہے (يُنزِعُ) He plucks out.

تم جھگڑے (تَنَازَعْتُمْ) You disputed.

تم جھگڑو گے (تَنَازِعُونَ) You will dispute.

جھگڑتے ہیں (يَتَنَازَعُونَ) Are disputing.

جھگڑتا ہے (يُنَازِعُ) Disputes.

برائی کی طرف (نزع) Incites to evil.

اوسنے فتنہ ڈالا (نزع) He incited to evil.

وہ ورغلا تا ہے (يُنزِعُ) He suggests an evil.

وہ اترا (نزل) Descended.

اوسنے اوتارا (نزل) He sent down.

وہ اوتارا گیا (نزل) Was brought down.

ایک بار اترا (نزل) One descent.

وہ اتاری گئی (نزلت) Was made to descend.

ہم نے اوتارا (نزلنا) We sent down.

اتارا گیا (انزل) That which was sent down.

میں اتارتا ہوں (انزل) I am causing to descend.

تو اتار (انزل) Thou send down.

تو نے اتارا (انزلت) Thou hast sent down.

اتاری گئی (انزلت) f. Was sent down.

تم نے اتارا (انزلتموا) You sent down.

ہم نے اتارا (انزلنا) We sent down.

تَنْزِلُ f Descended gradually.

وہ درجہ بدرجہ اترتی

تَوُّ أَوْتَارِيكَ Thou shalt send down.

وہ اترتی Descended.

مَنْزِلٌ Mansion, station. مکان یا ٹہرنے کی جگہیں

أَتَارِنِي One who sends down. اتارنے والا

أَتَارَا گیا Was sent down.

أَتَارِنِي One who sends down. اتارنے والا

أَتَارِنِي Those who send down. اتارنے والے

أَتَارِنِي Were sent down. اتارے گئے

لَمْ يَنْزِلْ Did not descend. نہ اترتا

نَنْزِلُ We are going down. اترتے ہیں

يَنْزِلُ Is descending. اترتا ہے

يَنْزِلُ He sends down. اتارتا ہے

نَسَبٌ Consanguinity, or affinity.

تعلقات رشتہ ناطہ

أَنْسَابٌ Consanguinities. ذاتیں

نَسَخٌ (نسخ) We are consigning to a

gradual punishment. ہم آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں

نَسِخَةٌ A copy of a book. ایک کتاب

نَسَخْنَا We are transcribing. ہم لکھتے ہیں

نَسَخْنَا We are abolishing. ہم مٹاتے ہیں

يَنْسَخُ He abolishes. وہ مٹاتا ہے

نَسْرٌ Name of an idol. ایک بت کا نام ہے

نَسَفٌ (نسف) To destroy, to uproot, to winnow. برباد کرنا آڑانا

نَسَفْتُ f Was winnowed. گٹی گئی

نَسْفٌ We will scatter. ہم بکھیرینگے

يَنْسِفُ He will scatter. وہ بکھیرینگا

نَسَفْنَا We will drag. ہم گھسیٹینگے

نَسَكٌ (نسک) Victims for sacrifice.

قربانی کی لئے جانور

مَنَاسِكٌ Rites and ceremonies. رسوم حج

مَذْبَحٌ A place of sacrifice. قربانی کی جگہ

نَسْلٌ Progeny, stock. لڑکے یا اولاد

يَنْسِلُونَ Are hastening. جلدی دور نکل

بھاگتے ہیں

نَسِيَ (نساء) The putting off a sacred month

till a later month. تہرت مقررہ کو

قال دینا یا اوردھار کرنا

عَصَا A staff.

نَسِيَ (نسي) To forget, neglect. بھولنا

نَسِيَ He forgot. وہ بھولا

نَسِيَا Both forgot. دونوں بھولے

نَسُوا Have forgotten. وہ بھولے

نَسَيْتَ Thou hast forgotten. تو بھولا

نَسَيْتُمْ You forgot. تم بھولے

نَسَيْتُ I forgot. میں بھولا

نَسِينَا We forgot. ہم بھولے

نَسِيَ Was neglected. وہ بھلایا گیا

أَنْسَى He neglected. اوسنے بھلایا

أَنْسَوْا They neglected. اونھوں نے بھلایا

نَسْنَا We are neglecting. ہم بھلاتے ہیں

نَسِينَا We are forgetting. ہم بھولتے ہیں

يَنْسِي He forgets. وہ بھولتا ہے

يَنْسِي He causes to neglect. وہ بھلاتا ہے

تَنْسُونَ You are forgetting. تم بھولتے ہو

نَسِيَ f Forgets. وہ بھولتی ہے

تَنْسِي Thou art being forgotten.

تو بھلایا جاتا ہے

لَا تَنْسُوا Do not forget. مت بھولو

نِسَاءٌ } عورتیں Women.

نِسْوَةٌ

نَشَأَ To produce, raise, create. پیدا کرنا

إِنْشَاءٌ To create. بنانا

أَنْشَأَ He created. اوسنے پیدا کیا

أَنْشَأْتُمْ You created. تم نے پیدا کیا

فُيُنشِئَاتُ f Were created. بنائی گئیں

مُنْشِرُونَ Those who create or produce.

پیدا کرنے والے

نُنْشِئِي We produce or create. ہم پیدا کرتے ہیں

يُنْشِئِي He creates or produces. وہ پیدا کرتا ہے

يُنْشِئِي Is being created. پیدا کیا جاتا ہے

نَشَأَتْ To rise by night. رات کا اٹھنا

نَشَرَ To spread abroad.

دور تک پھیلانا

نُشِرَتْ f Was spread abroad. وہ بکھیری گئی

نُشِرٌ Dispersed. پراگندہ

النُّشُورُ Resurrection, resuscitation. قیامت

فُيُنْشِرَاتُ Those who spread abroad.

پراگندہ کرنے والے

يُنْشِرُ He spreads abroad. وہ پراگندہ کرتا ہے

يُنْشِرُونَ They are spreading abroad.

وہ پراگندہ کرتے ہیں

أَنْشَرَ He has raised or resuscitated.

اوسنے اوبھارا

أَنْشَرْنَا We raised. ہم نے اوبھارا

أَنْشَرُوا Stand up. اٹھ کھڑے ہو

أَنْشَرُوا Spread. پھیلو

تم پھیلتے ہو You are spreading. تَنْشُرُونَ
 ہم اربھارتے ہیں We are raising. نَشْرُ
 وہ جھڑ گئی Was dispersed. اَنْشُرَتْ
 پراگندہ کیا گیا Was dispersed. مَنشُور
 That which spreads itself abroad. مَنشُور
 ازخود پراگندہ ہونے والا
 اوتھائے گئے Were raised. مَنشُورِينَ
 کھولے ہوئے Unfolded, expanded. مَنشُورَةٌ
 بد خوئی Ill conduct. (نشز) نَشُورُ
 اُتھائے ہیں Are raising. نَشْرُ
 اُڑتے کھڑے ہو Stand up. اَنْشُرُوا
 Act of drawing up quickly and (نشط) نَشْطًا
 سہولیت و جلدی سے کہہ بیچتے
 easily. ہین
 Those who draw up easily. نَاشِطَاتُ
 کہہ بیچتے ہیں سہولیت سے
 خدایند یسوع ناصری Christian. (نصر) نَصْرَانِي
 کے پیرو
 Christian or people of Nazareth. نَصْرَانِي
 شہر کے ناصرہ والے یا عیسائے
 مدد کرنا To help, aid, assist. نَصْرُ
 مددگار Helper. نَصِيرُ
 اونہوں نے مدد کی They helped. نَصَرُوا
 ہم نے مدد کی We helped. نَصَرْنَا
 مددگار Helpers. اَنْصَارُ
 مدد کر Help. اَنْصُرُ
 تم مدد کرو You help. اَنْصُرُوا
 اوسنے بدلہ لیا He avenged. اِنْتَصَرَ
 اونہوں نے They took vengeance. اِنْتَصَرُوا
 بدلہ لیا

تو بدلہ لے Thou take vengeance. اِنْتَصَرَ
 تو مدد کرتا ہے Thou art assisting. تَنْصُرُ
 تم مدد کرو گے You will aid. تَنْصُرُوا
 You will be helped. تَنْصُرُونَ
 تم مدد کئے جاو گے
 You are helping one another. تَنْصُرُونَ
 تم ایک دوسرے کو مدد کرتے ہو
 You both will take vengeance. تَنْتَصِرَانِ
 تم دونوں بدلہ لو گے
 وہ مدد کرتا ہے He helps. يَنْصُرُ
 وہ مدد کرتے ہیں They are helping. يَنْصُرُونَ
 ہین
 وہ مدد کئے They will be helped. يَنْصُرُونَ
 جائینگے
 مدد چاہتے ہیں Are seeking help. يَنْتَصِرُونَ
 مددگار A helper, Protector. نَاصِرُ
 مدد کیا گیا One who was helped. مَنصُورُ
 Those who were helped. مَنصُورُونَ
 مدد کئے گئے
 Those who take vengeance. مَنصُورُونَ
 بدلہ لینے والے مَنصُورِينَ
 One who is able to defend himself. مَنصُورُ
 جو اپنا بچاؤ کرتا ہے
 صدمہ-حادثہ A calamity. نَصَبُ
 Labour thou or bear hardship. اِنْصَبْ
 تو صدمہ مشقت اوتھا
 A stone used by the Pagan Arabs نَصَبُ
 ایک پتھر جسپر بت پرست عرب
 قربانی کرتے تھے
 بت Idols. اَنْصَابُ
 وہ کھڑی کی گئی Was erected. اِنْصَبَتْ

حصہ A part, a portion. نَصِيبُ
 سماجھانا To admonish. (نصح) نَصَحُ
 I admonished. نَصَّحْتُ
 میں نے نصیحت کی
 They admonished or gave نَصَّحُوا
 counsel or advised. نصیحت کرنے والا
 One who advises. نَاصِحُ
 Those who give counsel. نَاصِحُونَ
 نصیحت کرنے والے
 I am advising. نصیحت کرتا ہوں I اَنْصَحُ
 True and sincere repentance. نَصُوحُ
 سچی-توبہ
 The half. (نصف) نَصْفُ
 Two fountain pouring forth نَصَّاحَتَانِ (نصح)
 copiously and continuously. در چشمے بہتے ہوئے
 Well cooked, done enough نَصَّاجَتْ (نصح)
 in cooking. خوب پکی ہوئی
 Brightness, refulgence. نَصْرَةٌ
 تازے ہیں Are fresh. نَاصِرَةٌ
 نہ بتہ Piled one over another. (نصد) نَصِيْبُ
 نہ بتہ کیا ہوا Piled up in order. مَنصُورُ
 منی کی بوند Sperma genitale. (نطف) نَتْفَةٌ
 That which is gored to نَصَائِحَةٌ (نطع)
 سینگ سے ماری گئی death.
 دیکھنا To look, behold. (نظر) نَظَرُ
 اوسنے دیکھا He looked. نَظَرَ
 To look once or a single glance. نَظْرَةٌ
 صرف ایک بار دیکھنا
 تو دیکھ Look thou. اَنْظُرْ
 You look on or you behold on. اَنْظُرُوا
 تم دیکھو

تو دیکھ۔ Behold thou. اَنْظُرِي	اوسنے نعمت دی۔ He provided good things. نَعِم	تو پھونکتا ہے۔ Thou art blasting. تَنْفِخ
مہلت دے۔ To put off, to grant one a respite. اَنْظُر	نعمتیں۔ Benificence. نَعْمَاء	پھونکا جاتا ہے۔ Is being blasted. يَنْفِخ
تو دیکھے۔ Thou may look. تَنْظُر	مہربانی۔ عنایت۔ Grace, kindness. نَعْمَةٌ	آدمیوں کی۔ A company of men not exceeding ten nor less than three. نَفَر (نفر)
تم دیکھتے ہو۔ You are looking. تَنْظُرُونَ	خوشی راحت خوشی کن۔ Happiness, delight. نَعِيم	جماعت جو تین سے کم نہو اور نہ دس سے زیادہ
انتظار کر۔ Await, expect. اِنْتَظِرْنَا	بہت احسان کرنے والا۔ One who bestows benefits abundantly. اَنْعَم	وہ بھاگا۔ He ran. نَفَرَ
انتظار کرو۔ Await. اَنْظُرُوا	اوسنے احسان کیا۔ He was gracious. اَنْعَمَ	بھاگنا۔ To run away. نَفَرُوا
ہم دیکھتے ہیں۔ We are looking or waiting. نَنْظُرُونَ	تو نے احسان کیا۔ Thou hast favoured. اَنْعَمْتَ	آدمیوں کی۔ A number of men, advance guard. نَفِير
تم دھیل دیتے ہو۔ You are delaying. تَنْظُرُونَ	میں نے راحت دی یا انعام دیا۔ I gave pleasure or reward. اَنْعَمْتُ	چند آدمیوں کی ایک جماعت جو لڑائی میں آگے جاتی ہے
مہلت دئے گئے۔ Were respited. مَنْظُرُونَ	ہم نے راحت دی۔ We gave delight. اَنْعَمْنَا	وہ بھاگیں۔ They may run. يَنْفَرُوا
دیکھنے والی۔ One who looks. نَظْرَةٌ	وہ دیکھنے والی۔ That which gives pleasure. نَاعِمَةٌ	تم آگے کوچ کرو۔ You move ahead. اِنْظُرُوا
دیکھنے والے۔ Those who behold. نَظَرِيْنَ	راحت دینے والی۔ راحت دینے والی	تم کوچ کرو۔ You go forth. تَنْظُرُوا
وہ دیکھتا ہے۔ He looks. يَنْظُرُ	نفت۔ The women who blow on knots. نَفَاتَات	وہ لڑنے والے۔ Those who take to flight, fugitives. مَسْتَنْفِرَةٌ
وہ دیکھتے ہیں۔ They will be granted a respite. يَنْظُرُونَ	ضایع یا کم ہونا۔ To vanish. نَفَاد	جان۔ A soul, life. نَفْس
وہ مہلت دئے جائینگے۔ Waiting. يَنْتَظِرُ	ضایع یا کم ہوا۔ Was vanished, failed. نَفِدَ	جانیں۔ Souls. اَنْفُس
انتظار کرتے ہیں۔ Are waiting. يَنْتَظِرُونَ	کم ہوئے۔ Were exhausted. نَفِدَتْ	دم بھرا۔ Breathed. تَنْفَسَ
دنبے۔ Ewe sheep. نَعَج	وہ تھوڑے جاتی ہے۔ Gets exhausted. تَنْفَدُ	Long for or aspire after. يَتَمَنَّى
ایک دنبہ۔ An ewe sheep. نَعَجَةٌ	وہ تھوڑے جاتا ہے۔ Gets exhausted. يَنْفَدُ	خواہش کریں
غنودگی۔ Drowsiness, sleepiness. نَعَاس	ایک پھونک۔ One single breath. نَفْحَةٌ	وہ رات کو چری۔ Has strayed for food by night. نَفَسَتْ
دو جوتیان۔ Two shoes. نَعْلَانِ	اوسنے پھونکا۔ He blasted, breathed. نَفَخَ	دھنی ہوئی روي۔ Carded, teased. مَنفُوش
چوپائے۔ Cattle. نَعَم (نعم) اَنْعَام	میں نے پھونکا۔ I breathed. نَفَخْتُ	فائدہ مند ہوتا۔ To be useful. نَفْع
کیسا اچھا۔ How excellent. نَعْم	ہم نے پھونکا۔ We breathed or blasted. نَفَخْنَا	اوسنے فائدہ۔ That proved profitable. نَفَع
نعمتیں۔ Graces, favours. نَعَم	پھونکا گیا۔ Was blasted. نَفِخَ	پھونچایا۔ مفید ثابت ہوئی۔ Has proved useful. نَفَعْتُ
نہایت اچھا۔ An excellent. نَعْم	میں پھونکتا ہوں۔ I am breathing. اَنْفِخُ	فائدہ۔ Profit. مَنَافِع
	تم پھونکو۔ You blast. اَنْفِخُوا	وہ فائدہ دے گی۔ Will prove useful. ف تَنْفِخُ

Proves useful. وہ فایده دیکرتا ہے۔ یَنْفَعُ

They prove useful. وہ فایده دیتے ہیں۔ یَنْفَعُونَ

Will not benefit. فایده نہ دیکرے گا۔ لَا يَنْفَعُ

A hole. نفق (نفق) سوراخ

Expenditure or daily bread. نَفَقَةٌ

روز مرہ کی خوراک یا اخراجات

Provision. روزی نَفَقَات

To spend. خرچ کرنا أَنْفَقَ

He spent. خرچ کیا أَنْفَقَ

They spent. خرچ کیا أَنْفَقُوا

Thou spent. خرچ کیا أَنْفَقْتَ

You spent. خرچ کیا أَنْفَقْتُمْ

You spend. خرچ کرو أَنْفَقُوا

You are spending. خرچ کرتے ہو أَنْفَقُونَ

Hypocrisy. مکاری دیکاری نَفَقَاق

He spends. خرچ کرتا ہے یَنْفِقُ

They are spending. خرچ کرتے ہیں یَنْفِقُونَ

A hole, the act of digging through. نقب (نقب) سوراخ

They dug. اورتوں نے کریدا یَنْقَبُوا

A captain or leader. پیشوا یا سردار نَقِيب

To diminish, lessen. کم کرنا (نقص) نَقَصَ

He diminishes. کم کرتا ہے یَنْقِصُ

They are falling short. کم ہوتے ہیں یَنْقِصُوا

Diminish thou. کم کر أَنْقِصْ

Thou may lessen. گھٹا دے تَنْقِصْ

You are diminishing. کم کرتے ہو تَنْقِصُوا

To break or violate. خلاف ورزی کرنا (نقض) نَقَضَ

Has violated. اوسنے توڑا نَقَضَتْ

They are violating. وہ توڑتے ہیں یَنْقِضُونَ

You are violating. تم توڑتے ہو تَنْقِضُوا

He broke. اوسنے توڑا أَنْقَضَ

Dust rising and floating in the air. (نقع) نَقَع

گرد و غبار اُڑتا

Marriage. بیہاہ (نکاح) نَكَاح

He gave in marriage. اوسنے بیہاہ دیا نَكَحَ

You are married. تم بیہاہے گئے تَنْكَحْتُمْ

Thou may marry. تو نکاح کرے تَنْكَحْ

You will marry. تم نکاح میں لاو گے تَنْكَحُوا

You will give in marriage. تم نکاح میں دو گے تَنْكَحُوا

Marriage. نکاح کرتا ہے یَنْكَحُ

Must marry. نکاح کر لیاوین یَنْكَحْنَ

I will give in marriage. میں نکاح کر دوں گا اَنْكَحُ

کر دوں گا

You give in marriage. تم بیہاہ کر دو اَنْكَحُوا

You marry. تم بیہاہ کرو اِنْكَحُوا

Wishes to marry. نکاح چاہتا ہے یَسْتَنْكِحُ

Are marrying to both. دونوں کو نکاح یَسْتَنْكِحَانِ

میں لاتے ہیں

Wretched, niggardly. ناقص-بخیل (نکد) نَكَدٌ

A punishment. سزا (نکل) نَكَالٌ

Fetters. بیلیریاں اَنْكَالٌ

Unknown, unheard. اندیکھی چیز۔ ان سنی (نکر) نَكَرٌ

Iniquitous, horrible. مکروہ۔ نامعقول نَكَرٌ

He denied. اوسنے انکار کیا نَكَرَ

You change or disguise yourselves. نَكَرُوا

نکار کرنا

On who denies, disavows. نَكَيرٌ

You are denying. تم انکار کرتے ہو تَنْكِرُونَ

One who denies. انکار کرنے والی نَكَيرٌ

Those who know not. انکار کرنے والے تَنْكِرُونَ

Unwarrantable, unlawful. خلاف شرح تَنْكِرٌ

Unknown. نہ پہچانے ہوئے تَنْكِرُونَ

He denies. وہ انکار کرتا ہے یَنْكِرُ

They disavow. انکار کرتے ہیں یَنْكِرُونَ

Most disagreeable. بہت بُرا اَنْكِرُ

He violated an oath. (نکث) نَكَثَ

اوسنے عہد توڑا

They violated an oath. اورتوں نے نَكَثُوا

عہد توڑا

He breaks (a covenant). وہ عہد یَنْكِثُ

توڑتا ہے

They are violating an oath. یَنْكِثُونَ

وہ عہد توڑتے ہیں

They were turned upside down. (نکس) نَكَسُوا

وہ اوندھے کبھے گئے

We are turning upside down. نَكَسْنَا

ہم اوندھا کرتے ہیں

Are turning away. پھرتے ہیں یَنْكَسُونَ

Those who cause to bend down. نَكَسُوا

To fall back. اُلٹا پھرنا (نقص) نَكَصَ

You are retreating (upon your

تم اپنے دو ایڑوں پر (two heels)

اُلٹے پھرتے ہو

ہم ستاتے ہیں۔ We are troubling. (کلف) تکلف

وہ تکلیف دیتا ہے۔ He is troubling. یکلف

گدگدے بچھونے۔ Cushions. (نمرق) نمارق

چیونٹی۔ Ant. (نمل) نملہ

چیونٹیاں۔ Ants. نمل

اننگلیوں کی۔ The tips of the fingers. انامل

ہم خوراک دینگے۔ We will provide food. (مار) نمیدر

چغلی خور۔ Calumny, slanderer. (نم) نمیدم

میں منع کیا گیا۔ I was forbidden. نہیت

وہ آپس میں منع کرتے ہیں۔ They are interdicting among themselves. یتدنا ہون

باز آیا۔ Refrained, abstained. انہی

باز آئے۔ Have abstained. انہوا

باز آر۔ Do abstain. انہوا

باز رہتا ہے۔ Abstains. یتدہ

باز رہتے ہیں۔ Are abstaining. یتدہون

تم باز نہ آئے۔ You did not abstain. کم انہوا

عقل۔ Understanding. نہی

حضرت نوح۔ Noah. (ناح) نوح

نیمند۔ Sleep. (نام) نوم

Time or place of sleeping, a dream. خواب-جگہ یا سونے کے اوقات

سونے والے۔ Those who sleep. نآئمون

ماچھلی۔ A fish. (نون) نون

کھجور کی کتھلیاں۔ Date-stones. (نوی) نوی

دین۔ A day. نہار

نہر۔ A river. نہر

تو جھڑکتا ہے۔ Thou reproachest. (نہر) نہر

پہنچنا۔ To reach, attain. (نال) نایل

وہ پہنچتی ہے۔ Is reaching. f تَدَال

ہرگز نہ۔ Will never attain. لَنْ تَدَالُوا

پہنچینگے

وہ پہنچتا ہے۔ He reaches or attains. ینال

وہ پہنچتے ہیں۔ They are reaching, attaining. یتدالون

وہ پھرتے ہیں

اوسنے منع کیا۔ He prohibited. (نہی) نہی

انہوں نے منع کیا۔ They forbade. نہوا

منع کئے گئے۔ Were forbidden. نہوا

ہم ترکہ پائنگے۔ We will inherit. نرث

وہ ترکہ پاتا ہے۔ He inherits. یرث

وہ جو ترکہ۔ Those who are inheriting. یرثون

میراث۔ Inheritance. میراث

وارث کئے گئے۔ Were made heir. اورثوا

تم وارث۔ You were made heir. اورثتموا

کئے گئے

For ever, lasting. (وصب) واصب

ہمیشہ پایدار

شکستہ۔ Torn, rented. (وہی) واہیتہ

ایک۔ A single. (وتر) وتر

And, also, but. لیکن-اور-بہر

قدرے والے۔ Palpitating. (وجف) واجفة

تم نے دوڑایا۔ You caused to run. اوجفتم

بڑی زور کا۔ A heavy shower of rain. (زبل) وابل

ساختی-عذاب۔ Gravity, grievousness. وبال

A heavy blow, chastisement. وبیل

ساختہ صدمہ-گوشمالی

اوسنے مضبوط کر کے۔ He tied firmly. (وثق) واثق

عہد و اقرار۔ Covenant, treaty. میثاق

اقرار بندھن-قید۔ A bond, bound, tied. وثاق

بہایت مضبوط۔ Very firm. وثقی

مضبوط باندھتا ہے۔ Binds firmly. یوثق

وادی۔ A valley. (ودی) وادی

نالے وادی۔ A valley, channel of a river. اودی

A fine to be paid for man-slaughter. دیة

خون کا عوض دینا

A fin that which is given to redeem

the fault. گناہ کے بدلہ میں کچھ ادا کرنا

ترکہ لینے والا۔ One who inherits. (ورث) وارث

ترکہ لینے والے۔ Those who inherit. وارثون

ترکہ پاتا ہے۔ To be an heir to any one. یرث

اوسنے ترکہ پایا۔ He inherited. ورث

انہوں نے ترکہ پایا۔ They inherited. ورثوا

اوسنے وارث کیا۔ He made heir. اورث

ہم نے وارث کیا۔ We made heir. اورثنا

مردے کا مال۔ Inheritance. ثراث

تم ترکہ پاؤ گے۔ You will inherit. ترثوا

Defrauds. کم کرتا ہے۔ **يُفْرِدُ**
 ایک بڑی Aorta, a large artery. (وتس) **وَتِيْن**
 شریان-آرطہ
 Fell down dead, have fallen. (وجب) **وَجِبَتْ**
 مثل مردہ کے گر پڑی
 اوسنے پایا. He found, or perceived. (وجد) **وَجَدَ**
 They both found, or perceived. **وَجَدَا**
 ان دونوں نے معلوم کیا یا پایا
 انہوں نے پایا. They found. **وَجَدُوا**
 میں نے پایا. I found. **وَجَدْتُ**
 ہم نے پایا. We found. **وَجَدْنَا**
 تو پائگا. Thou shalt find. **تَجِدُ**
 تم پاوگے. You will find. **تَجِدُونَ**
 تم نے نہ پایا. You did not find. **لَمْ تَجِدُوا**
 اوسنے نہ پایا. He did not perceive. **أَمْ يَجِدُ**
 تو ہرگز نہ پائگا. Thou shalt never find. **أَنْ تَجِدَ**
 انہوں نے نہ پایا. They did not find. **أَمْ يَجِدُوا**
 وہ پاتا ہے. He finds. **يَجِدُ**
 وہ پاتے ہیں. They are finding. **يَجِدُونَ**
 مقدر. Competence, means. **وَجْدٌ**
 Was smitten with fear, afraid. (وجل) **وَجِلَتْ**
 تر گئی
 ترنے والی. One who fears. **فِ وَجَلَةٍ**
 ترنے والے. Those who fear. **وَجِلُونَ**
 Favour, honour, countenance. (وجه) **وَجْهٌ**
 عزت-خوشنودی-رضامندی
 واسطے-بسبب. Sake. **وَجْوَةٌ**
 Qibla, direction towards Mecca. **وَجْهَةٌ**
 مکہ کی سمت
 میں نے منہ کیا. I faced. **وَجِهْتُ**

Honourable. عزت **وَجِيهٌ** صاحب عزت
 He turns or directs his face. **يُوجِهُ**
 وہ پھرتا یا اپنا منہ اُس طرف کرتا ہے
 Alone. (وحد) **وَحْدٌ** ایک
 One man. **وَاحِدٌ** ایک مرد
 One woman. **وَاحِدَةٌ** ایک عورت
 One single man. **أَحَدٌ** صرف ایک ہی مرد
 One single woman. **أَحَدِي** ایک عورت
 Alone. **وَحِيدٌ** اکیلا
 Wild beasts. (وحش) **وَحْشٌ** جنگلی جانور
 A revelation, message. (وحي) **وَحْيٌ** الہام-پیغام
 Was inspired, revealed. **أُوحِيَ** الہام کیا
 Revelation was sent down. **أُوحِيَ** الہام دیا گیا
 I sent revelation. **أَوْحَيْتُ** میں نے الہام دیا یا بھیجا
 Are sending revelation. **يُوحُونَ** پیغام بھیجتے ہیں
 We sent revelation. **أَوْحَيْنَا** ہم نے وحی بھیجی
 Being inspired. **يُوحَى** الہام کیا جاتا ہے
 Revelation is being sent down. **يُوحَى** ہم نے وحی بھیجی جاتا ہے
 Love, desire, wish. (ود) **وَدٌ** محبت-خواہش
 He desired. **وَدَّ** اوسنے چاہا
 Two have formed friendship. **وَدَّ** دوستی دکھی
 They wished. **وَدَّوْا** انہوں نے چاہا
 He wished. **وَدَّتْ** اسنے چاہا

One who loves. دوست رکھنے والا **وَدَّوْدٌ**
 Thou shalt love. **تَوَدُّ** تو دوست رکھے گا
 You are loving. **تَوَدُّونَ** تم دوست رکھتے ہو
 He loves. **يُودُّ** وہ دوست رکھتا ہے
 Are loving. **يُودُّونَ** دوست رکھتے ہیں
 Are loving one another. **يُودُّونَ** ہم دوستی رکھتے ہیں
 He gave permission. (ودع) **وَدَّعَ** اوسنے اجازت دی
 A place of deposit, as womb or grave. **مُودِعٌ** پناہ کی جگہ
 Rain. (ودق) **وَدَقٌ** بارش
 Let it go or leave. (ودر) **وَدَّرَ** چھوڑ
 Leave. **وَدَّرَ** چھوڑ
 You forsake. **تُودِرُوا** تم چھوڑو
 Forsakes. **يُودِرُ** چھوڑتا ہے
 Are forsaking. **يُودِرُونَ** چھوڑتے ہیں
 Do not forsake. **لَا تُودِرُوا** مت چھوڑو
 Thou shalt forsake. **تُودِرُ** تو چھوڑیگا
 Leaves. **يُودِرُ** چھوڑتی ہے
 To let go. **تُودِرُ** چھوڑ دینا
 We are leaving or forsaking. **نُودِرُ** ہم چھوڑتے ہیں
 You are leaving. **تُودِرُونَ** تم چھوڑتے ہو
 Thirsty arriving at water, to drink (ورد) **وَرْدٌ** پیاسے لوگ پانی تک پہنچنے والے
 thereof. **وَرْدٌ** تاکہ آسمین سے پینے
 Has approached to water. **وَرَدٌ** پانی کے پاس پہنچا
 Arrived at. **وَرَدُوا** وارد ہوئے
 To lead one into. **أُورِدُ** ایک کو اندر داخل کرنا
 Descended into, arrived at. **أُورِدُ** اترے یا پہنچے

گلابی Rosy. وردة
 شاة رگ Jugular vein. ورد
 پتے Leaves. (دوق) دوق
 چاندی کا سکہ Money, silver coin. ورق
 ایک ورق A single leaf. ورقة
 پناہ کی جگہ A place of refuge. (وزر) وزر
 بوجھ A burden, load. وزر
 One who carry a load, a counsellor. وزر
 صلاح کار- بوجھ اٹھانے والا مشیر
 بوجھ Loads. اوزار
 وہ اٹھاتی ہے Bearing, carrying. f ترر
 Those who are bearing or carrying
 بوجھ اٹھاتے ہیں a burden. یزرون
 تولنا To weigh. (وزن) وزن
 They have weighed. وزوا
 ترازو A balance. میزان
 درمیان میں Middle. (وسط) وسط
 Pass through the midst of. وسطن
 درمیان سے گذرین
 The middle. وسطی
 The middle, the more worthy. اوسط
 بیچ والا یا نہایت قابل
 Means, ability. (وسع) وسع
 کشادہ ہوا. Was extended. وسع
 Thou hast comprehended. وسعت
 وہ فراخ ہوئی. Was extended. وسعت
 کشادگی Extensiveness. وسعة

Gathered. (وسق) وسق
 وہ پورا ہوا. Was completed. اذسق
 To whisper evil, to make
 evil suggestions, Satan. بُرائی سے
 پھسپھسانا۔ شیطانی خیالات-شیطان
 پھسپھسا یا Has whispered evil. وسوس
 بُرے خیال. Susggets evil things. یوسوس
 ڈالتا ہے
 Fears of evil suggestion. فوسوس
 دھم کرتی ہے
 Close proximity. (واسل) وسيلة
 تعریف یا صفت. Act of attributing. وصف
 کرنا
 Is attributing, are asserting. f تصف
 تعریف کرتی ہے
 Are attributing or asserting. یصفون
 مدح کرتے یا سراہتے ہیں
 ملا یا We joined. (وصل) وصلنا
 ملا یا جاتا ہے Is being joined. یوصل
 A she-camel or ewe. f وصيلة
 آٹنی یا بہیر
 Are joining. ہیں یصلون
 He bequeathed. (وصی) وصی
 اوسنے وصیت کی
 A testamentary disposition of a
 مال کی وصیت کی
 He commanded. اوصی
 اورنہوں نے وصیت کی. They bequeathed. تو اوصوا
 You are bequeathing, تم وصیت کرتے ہو. تو صون
 وصیت کرنا. To bequeath. اوصیة

وصیت کرنے والا One who bequeaths. موص
 That which is bequeathed. جو وصیت
 کیا جاتا ہے
 We have bequeathed. وصینا
 وصیت کرتا ہے. Bequeaths. یوصی
 Are bequeathing. وصین
 دھلیز A threshold. (رصد) رصد
 اوسنے رکھا. (وضع) وضع
 رکھا گیا. Was laid down. وضع
 She brought forth a child. f وضعت
 وہ جنی
 I brought forth a child. f وضعت
 ہم نے رکھا. We placed. وضعنا
 Would have driven camels or horses. اوضعوا
 گھوڑے یا اونٹ بہگاتے
 رکھی گئی. Was laid. f موضوعة
 رکھنے کی جگہیں. Places for laying. مواضع
 رکھتا ہے. Lays. وضع
 رکھتی ہیں. Are laying. f یضعن
 روندنا. (وطی) وطی
 A step. جگہ موطئا
 Are rendering equal. یواطوا
 ہیں
 Are treading or trampling. یطؤون
 روندنے ہیں
 Necessary thing. (وطر) وطر
 مانگ بہت ہو- ضروری چیزیں
 A vessel, bag, box. (وعی) وعاء

اقرار (وعد) Promise. وعد
 اُسنے اقرار کیا. He promised. وعد
 تو نے اقرار کیا. Thou hast promised. وعدت
 میں نے اقرار کیا. I promised. وعدت
 ہم نے اقرار دیا. We promised. وعدنا
 ہم سے اقرار ہوا. We are promised. وعدنا
 انہوں نے قول دیا. They promised. وعدوا
 خوف دلانا. Threatening. وعيد
 تم دترائے ہو. You are threatening. توعدون
 تم سے اقرار ہوتا ہے. You are promised. توعدون
 قول دئے جاتے. Are being promised. يوعدون
 ہم
 مت دترارو. Do not threaten. لا تواعدوا
 Appointed or promised place. موعده
 مقرر کی ہوئی جگہ
 اقرار. Promise. موعده
 قول دیا گیا یا. Is promised, predicted. موعود
 وقت سے پہلے خبر دیا گیا
 اقرار کرتا ہے. Promises. يعد
 Thou hast admonished. (وعظ) وعظمت
 تو نے نصیحت کی
 You are being admonished. توعظون
 تم نصیحت دئے جاتے ہو
 وہ نصیحت کرتا ہے. He advises. يعظ
 آگاہی-نصیحت. Warning, advice. موعظة
 آگاہ کیا جاتا. Is being admonished. يوعظ
 ہے
 Are being admonished. يوعظون
 آگاہی دئے جاتے ہیں
 Accomplishment. (وفى) وفاء
 کامل-بھرپور-تمام

کام میں Success, reconciliation. توفيق
 کامیابی-مصالحات
 مزاج سے موافقت. Suiting to one's mind. يوفق
 کرتا ہے
 Representative into the presence of Royalty. شاهي حضوري میں حاضر ہونا. (وفى) وفى
 اوسنے تمام کیا. He completed. (وفى) وفى
 تو پورا. Thou shalt be given in full. توفى
 دیا جائگا
 پورا کرتے ہیں. Are fulfilling. يوفون
 پورا دئے جائنگے. Will be given in full. يوفون
 پورا دیتا ہے. Is giving in full. يوفى
 پورا دیا جاتا ہے. Is being given in full. يوفى
 مارتے ہیں. Are causing death. يذونون
 مارے جاتے ہیں. Are being made dead. يذونون
 پورا دے. Give in full measure. اوف
 پورا کرو. Complete, fulfill. اوفوا
 پورا کیا. Fulfilled, completed. اوفى
 } Those who give full measures. پورا پیمانہ دینے والے
 موفوا
 موفون
 ہم پورا دینگے. We will give in full. نوف
 پورا دی گئی. Was given in full. فوفيت
 پورا لیتے ہیں
 Are receiving in full. يستوفون
 اوسنے جان سے مارا. He caused to die. توفيت
 تو نے مارا ہے. Thou hast caused death. توفيت
 وہ مارتے ہیں. They are causing death. يذونون
 وہ لے لیتے ہیں
 They are taking away the soul. يذونون
 پورا لیتا ہے. Takes in full. يذونون

Full measure is being taken. پورا پیمانہ لیا جاتا ہے
 (He who receives the soul. جان قبض کرنے والا)
 We will cause death. ہم موت دینگے
 Thou hast caused death. تو نے موت دی
 Kindness and long-suffering. (وقر) وقار
 دیر تک برداشت یا مہربانی کرنا
 Deafness. بہرا پن
 A heavy burden. بہاری بوجہ
 To overspread. چھا جانا. (وقب) وقب
 زمانہ. Time. (وقت) وقت
 That of which the time is defined. وقت-مقرر کیا ہوا زمانہ
 (وقع) وقع
 گرا
 A coming to pass. ہونے والی بات. وقعة
 وہ گری. Fell down. وقعت
 گرنے کا. The time or place of falling. مواقع
 وقت یا جگہ
 گرنے والے. Those who fall. موقعا
 باعث ہوتا ہے. Causing. يوقع
 کھڑے کئے گئے. Were made to stand. (وقف) وقفوا
 تم تھرو. You wait or stand. وقفوا
 Those who were made to stand. تھراے ہوئے یا کھڑے کئے ہوئے
 (وقد) وقود
 ایندھن. Fuel.
 جلائی گئی. Was kindled. فوقدة
 سلکایا جاتا ہے. Is being lighted. يوقد
 سلگاتے ہیں. Are lighting. يوقدون

اوسنے سلگایا۔ اوقد He lighted.

اونہوں نے سلگایا۔ اوقدوا They lighted.

تو سلگا۔ اوقد Light thou.

اوسنے بچایا۔ (وقی) He preserved.

بچایا گیا۔ یوق Was preserved.

پڑھیز گار۔ تقی Devout.

وہ سب ڈریں۔ [تقیین] f They all feared.

وہ ڈرے۔ [تقوا] They feared.

تو پڑھیز کریگا۔ تقا Thou shalt abstain.

تو ڈر۔ اتق Fear thou.

پڑھیز گار۔ Devout, one who fears God.

تم ڈریں۔ [تقیین] f You feared.

ڈرنا۔ تقی To fear.

وہ پڑھیز کرتے ہیں۔ یقون They are abstaining.

خوف خدا۔ تقوی Fear of God.

وہ پڑھیز کرتا ہے۔ یقین He abstains.

اوسنے گھونسا مارا۔ (وکز) He stroke with the fist.

وکز

ولی یا وکیل۔ (وکل) Was made the guardian.

کیا گیا

وکلنا We made administrator.

ہم نے وکیل کیا

خبر گیر۔ وکیل One who takes care.

میں نے بھروسا کیا۔ توکلت I trusted.

ہم نے بھروسا کیا۔ توکلنا We trusted.

تو بھروسا کر۔ توکل Trust thou.

تم بھروسا کرو۔ توکلوا You trust

وہ توکل کرے۔ یقون He may trust.

بھروسا کرتے ہیں۔ یقونوا Are trusting.

ہم بھروسا کرتے ہیں۔ یقونوا We are trusting.

بھروسا کرنے والے۔ یقونوا Those who trust.

اوسنے منہ پھیرا۔ (ولی) He turned his face.

وہ لووا They turned their back.

اونہوں نے پیٹھ پھیری

تو بھاگا۔ ولت Thou hast ran.

تم بھاگے۔ ولتم You ran.

تو پھر۔ ول Turn thou.

تم پھرو۔ ولوا You turn.

وہ پھرے۔ ولواوا They turned.

تم کنارے ہو۔ ولواوا You retreat.

تو کنارہ ہو۔ ولواوا Retreat thou.

تم اٹتے پھراے جاوے۔ ولواوا You shall be turned back.

برداشت کیا اوٹھایا۔ ولواوا Taken upon.

تم خود مختار ہو۔ ولواوا You became self-willed.

صاحب ساتھی۔ اولی A lord, companion.

نہایت لائق یا بہتر۔ اولی More worthy.

مکسن خبر گیر مددگار۔ اولوا Patrons, helpers.

صاحب کرامت۔ اولیاء Benefactor, protector.

نگہبان محافظ

منہ پھرنے والا۔ ولواوا One who turns his face.

ہم پھرتے ہیں۔ ولواوا We are turning.

پیٹھ پھرتا ہے۔ ولواوا Turns his back.

پیٹھ پھرتے ہیں۔ ولواوا Are turning their back.

چگری دوست۔ (ولج) An intimate friend.

داخل ہوتا ہے۔ یلج Enters.

داخل کیا کرتا ہے۔ یلج Is entering or introduces.

داخل کرانا ہے۔ یلج Causes to enter.

بچہ۔ بیٹا۔ (ولد) A child, a son.

جنما۔ Was brought forth or begot.

جنمایا گیا۔ ولد To be born or begotten.

اولاد۔ ولدان Children.

میں جنمایا گیا۔ ولدت I am or was born.

اونہوں نے جنما۔ ولدن They gave birth.

باپ۔ والد A father.

مہین۔ والدات Mothers.

ماں باپ۔ والدین Parents.

جنما ہے۔ یلد Giving birth or begets.

جنمتے ہیں۔ یلدواوا Are begetting.

نہیں جنمایا گیا۔ لم یولد Was not born.

بچہ۔ جوان۔ ولید A child, youth.

وہ چھپایا گیا۔ (وری) That which was hidden.

چھپایا گیا

میں چھپاتا ہوں۔ اواری I am hiding.

وہ چھپاتا ہے۔ یوارى He hides.

پہلے آگے۔ ورا Before, beyond.

چھپ گئی۔ توارت f. Got hidden.

وہ چھپاتا ہے۔ یواری He hides.

وہ چھپاتا ہے۔ یوارى He hides.

آگ جھاننے والے۔ موریات f. Those who strike fire.

آگ جھاننے والے

تم آگ سلگاتے ہو، You are striking fire, توروں
 (وہب) A free and liberal giver. وہاب
 دریادلی سے دینے والا
 اوسنے بخشا He bestowed. وہب
 اوسنے بخشا f. Has bestowed. وہبت
 ہم نے بخشا We bestowed. وہبنا
 بخشتا ہے Is bestowing. یہب
 میں بخشتا ہوں I am bestowing. اہب
 بخش دے Bestow. ہب
 روشن ہو کر جلنا، Brightly burning. (وہج) وہاجا

کاہلی-سستی ہوا Laggid, remiss. (وہن) وہن
 کمزور یا سست ہوا Has become weak. وہن
 وہنوا They became weak.
 وہ سست یا کمزور ہوں
 نہایت ہی سست Weakest. اوہن
 تہنوا You fainted or became weak.
 تم غش میں آئے
 مت غش کھاؤ Do not faint. لاتہنوا
 کمزور یا سست One who makes weak. موہن
 کرنے والا

آہ-راہ Oh, ah. (وی) ویکان
 (ویل) A great misfortune, woe, pu-
 nishment. افسوس-عذاب
 یہہ کلمتہ افسوس ہے Alas, shame. ویلتی
 (وسن) Sleep, slumber, drowsiness. سدغ
 غمگین-نیشد
 (رکد) Confirmation, ratification. توکیدھا
 مظبوط-استوار

ھ

یہ-وہ-رہ-عورت Her, it, its. (ھا) ھا
 تم پکڑو You take or hold. ھاوم
 لاؤ-نکالو Bring forth, produce. (ھتا) ھاتوا
 یہہ This, these. ھاتین
 کمزور Weak, tottering, infirm. (ھار) ھار
 اُچار گیرا ہوا Fallen, in ruin. ھنہار
 ایک باغی فرشتہ کا نام ھارون (ھارون) ھارون
 ھامان (ھامان) Haman. ھامان
 بارren and lifeless. (ھمد) ھامد
 بنجر زمین جس میں زور نہ ہو
 گرد باد بگولا Dust floating in the air. (ھبا) ھباء
 The act of separating one's self from another. ھجر (ھجر) ھاجر
 اپنے تئیں الگ کرنا
 He migrated, ھاجر
 وہ دوسری جگہ چلا گیا
 ھاجر
 ھاجر
 وہ دوسری جگہ کو چلے گئے
 ھاجر

One who flees from his country, a refugee. ھاجر
 Those who fled from Mecca. ھاجرین
 مکہ سے جو لوگ بھاگے تھے
 Women who fled from Mecca. ھاجرات
 جو عورتیں مکہ سے بھاگ کر دوسرے ملک کو گئیں ہیں
 چھوڑا گیا One who was forsaken. ھاجور
 وطن چھوڑے Migrate. ھاجر
 They might migrate. ھاجروا
 وہ وطن چھوڑیں
 تو وطن چھوڑ Migrate thou. ھاجر
 تم وطن چھوڑو You migrate. ھاجروا
 وطن چھوڑو Migrate. ھاجروا
 توڑنا-بگازنا To demolish ھدی
 تہائی گئی f. Was demolished. ھدم
 ایک پرند کا نام A Hoopoe. ھدی
 A path, way, direction. ھدی
 ہدایت راہ

تو نے راہ بتائی Thou hast led. ھدیت
 ہم نے راہ بتائی We led. ھدینا
 ہم نے توبہ کی We repented. ھدنا
 راہ بتائے گئے Were directed. ھدوا
 اوسنے راہ بتائی He directed. ھدی
 Do not receive guidance. لایہتدون
 ہدایت نہیں پاتے
 Do not guide. لایہدی
 قربانی کا جانور A victim for sacrifice. ھدی
 نذرانہ تحفہ A gift, an offering. ھدیہ
 یہ آدمی This man. ھذا
 یہ دو آدمی Those two men. ھذان
 ایک عورت One woman. ھذہ
 بھاگنا (ھرب) ھرب
 تہمتا-مذاق A joke. ھزل
 وہ بھاگے They fled. ھزموا

Will be defeated. شکست دیا جاویگا۔
 Was routed, put to flight. ہنگامیا گیا۔
 A mockery, derision, jest, ridicule. تمسخر۔ تہتھا
 Mocks, ridicules. تہتھا کرتا ہے
 Are mocking, jesting. تہتھا کرتے ہیں۔
 He is being mocked. وہ تہتھا کیا جاتا ہے۔
 Shake, stir, set in motion. ہلا
 Stirred, put in motion. حرکت کرنی
 Moves, shakes, sets in motion. ہلاتی۔ حرکت کرتی دورتی ہے
 Dry and beaten down leaves. سوکھی گھاس کا چورا
 The withholding of that which is due. تورتا
 Thin and smooth. چکنی اور نازک چیز
 Thus. ایسا ہی۔ یوں
 Whether? is there? does he? کیا۔ ایسا
 Perished, died. ہلاک ہوا
 جاتا رہا
 He has perished. اوسنے برباد کیا
 Has perished. اوسنے نابود کیا
 Thou hast caused to perish. تمنے برباد کیا
 I have caused to perish. میں نے برباد کیا
 We caused to perish. ہم نے برباد کیا
 Were perished. برباد کئے گئے
 Thou shalt cause to perish. تو برباد کریگا

Perdition. بربادی
 To be destroyed. خراب ہونا
 Those who destroy. ہلاک کرنے والے
 Those who destroy. ہلاک کرنے
 We are destroying. ہم ہلاک کرتے ہیں
 Is being destroyed. تباہ ہوتا ہے
 Destroys. خراب کرتا ہے
 Are destroying. خراب کرتے ہیں
 Come, bring. آؤ یا لاؤ
 Very impatient. بے صبر
 They. وہ بہت آدمی
 He thought about. اُسنے قصد کیا
 Made anxious. فکرمیں ڈالا
 They have designed. اونہوں نے ارادہ کیا
 They, two men. وہ۔ دو آدمی
 A slanderer, defamer. ہتک یا غیبت کرنے والا
 Evil, suggestions of the Devil. شیطانی دوسوپی
 A back-biter. چغل خور
 A shuffling sound. اونٹ کے پاؤں کی آواز گھس گھس
 They, them, their. وہ۔ انکا۔ اونہیں
 There, in that place. اوسجگہ۔ وہاں

Wholesome, digestible. ہڑہ دار ہضم ہونے والا۔ دل پسند
 May it be blessing to you. یہ تمکو نفع پہونچاے
 He. وہ
 Void. خالی
 To love, desire, lust. آرزو کرنا نفس
 Is inclining. چاہتی ہے۔ رجوع کرتی ہے
 Is inclining. چہکتی ہے
 Desire, will, lust. خواہشیں نفسانی خیال
 Overthrown. گرایا
 She infatuated. اوس عورت نے فریفتہ کیا
 The lowest pit of Hell. جہنم سب سے نیچلا گڑھا
 Name of a prophet (Hú). محمد یوں کے ایک پیغمبر کا نام
 These people. یہ لوگ
 Meekness, quietness. خاموشی
 حلیہ۔ آہستگی
 Contempt, ignominy. ذات خواری
 Light, easy. آسان
 Renders contemptible. خراب کرتا ہے
 Despised. خوار کیا
 Contemptible. خوار
 One who renders contemptible. ذات دینے والا
 Here, in this place. یہاں۔ اس جگہ

ہی She, it. (ہی) ہا
 او (ہیت) ھیت Come.
 راجنگ ویٹھ فرم ڈیزیز (ہام) ھیم Raging with thirst from disease.
 ارتھنی کامرض کیوجہ سے بہت پیاسا ہونا

Are wandering abroad, distracted. پراگندہ دل-سرگشتہ ہوئے
 Got away. دور ہوا (ھیہات) ھیہات
 Form, figure. شکل-صورت (ہاء) ھیہات

تیار کرو Prepare. ھیہی
 تیاری کرتا ہے preparing. ھیہی

ی

ای O. (یا) یا
 That which is dry or withered. (یبس) یابس
 مرجھایا ہوا یا سوکھا ہوا
 سوکھی چیزیں Dried things. یابسات
 خشک Dry. یبس
 خشک ہوا Got dried. یبس
 وہ قسم کھاتا ہے He swears. (الی) یازل
 Taking an oath that they will abstain from their wives. یاون
 قسم کھاتے ہیں کہ دم اپنی عورتوں کے پاس نہ جائنگے
 Gog. (باجوج) یاجوج
 جواہرات Rubies. (یاقوت) یاقوت
 Currupting, perverting. (لوی) یالون
 خراب کرتے ہیں یا بدلتے ہیں
 کاتتی ہیں (بتک) یبتکن
 Are cutting off.
 Scratches the ground. (بجث) یبجث
 مثل مرغی کے زمین کریدتا ہے (like a hen.)
 Will tarry behind. (بطو) یبطن
 دیر لگا دینا
 Sips. (جرع) یجرع
 گھونٹ گھونٹ پیتا ہے
 Becomes mad. (خبط) یبخط
 دیوانہ ہوتا ہے
 Are winking to one another. (غمز) یبغامزون
 آپس میں اشارہ بازی کرتے ہیں

Walks in a conceited manner. (مط) یبمطی
 اکر کے ساتھ چلتا ہے
 To wander about distractedly. (تاء) یبتیہون
 سرگردان پھرنا
 The original name of Madina. (ثرب) یثرب
 مدینہ کا اصل نام
 Drawn, dragged (جر) یبجرہ
 کھینچا یا گھست
 Committing refractory. (جمع) یبجھون
 سرکشی کرتے ہیں
 Black smoke. (بحموم) یبحموم
 کالا دھواں
 Treats unjustly. (حاف) یبحیف
 ظلم کرتا ہے
 Are sewing together. (خصف) یبخصفان
 سیتے یا جوڑتے ہیں
 A hand. (یدی) یبدا
 ایک ہاتھ
 Both hands. (یدا) یبدا
 دونوں ہاتھ
 Destroys. (دمغ) یبدمغ
 توڑتا ہے۔ برباد کرتا ہے
 Passes his time pleasantly. (رتع) یبرتع
 خوش بسر کرتا ہے
 Are running hastily, hurriedly. (زف) یبزون
 گھبراتے ہوئے دوڑتے ہیں
 Are causing to slip or to fall. (زتی) یبزلقون
 پھسلاتے ہیں
 Expelled, removed. (فز) یبستفز
 نکالا
 To remove, expel. (استفزز) یبستفزز
 نکالنا۔ خارج کرنا

Are eliciting, discovering (نبط) یبستذبصون
 دریافت کرتے ہیں
 Facility, easy. (یسر) یبیسر
 آسانی-سہولیت
 He made easy. (یسر) یبیسر
 آسانی کیا
 Make easy. (یسر) یبیسر
 آسان کر
 We will make easy. (نیسر) یبیسر
 ہم آسان کریں گے
 Drawing lots. (میسر) یبیسر
 جہتی ڈالنا یا جوا کھیلنا
 Has made easy. (میسور) یبیسور
 آسانی کی
 Easiness. (یسری) یبیسری
 سہولیت
 We caused it easy. (یسرنا) یبیسرنا
 ہم نے آسان کیا
 Easy, facility. (یسیر) یبیسیر
 آسان
 Are attacking. (سطا) یبسطاون
 حملہ کرتے ہیں
 Elisha. (یسع) یبیشع
 ایشع نبی
 Snatches away. (سلب) یبسلب
 چھپت لے جاتا ہے
 Areq resembling. (ضہی) یبضاهون
 خوش برسر کرتا ہے
 نقل یاریس کرتے ہیں مشابہ ہوتے ہیں
 Searching, or searched. (یطاب) یبیطاب
 تلاش کرتے ہیں
 یا تلاش کی
 The act of searching for. (طلب) یبطلب
 تلاش کرنا
 A petitioner. (طالب) یبطلب
 درخواست کنندہ
 Petitioned. (مطرب) یبمطرب
 درخواست کیا گیا

کنواری Deflowering, a virgin. (طعت) یطاعت	کم کرنا کسی کو دھوکھا دینا۔ To diminish, to defraud one of any thing. (دلت) دلتکم	مٹانا۔ خارج کرنا۔ To remove, expel. (نفا) ینفقوا
فکر کرنا۔ (عبا) یعبس پررا کرنا	بولتا ہے۔ Utters. (افظ) یافظ	گراہی چاہتی تھی Was threatening to fall down. (قض) ینقض
چھپاتا ہے۔ (عزب) یعزب	زبان باہر نکالتا ہے Hangs out or lulls out the tongue. (لہت) یلہت	جلدی کرتے۔ Are hastening. (رفض) یوفضون
یعقوب Jacob. (یعقوب) یعقوب	سمندر دریا، (یم) یم	یا درڑتے ہیں
(عمہ) یعمہون سرگردان ہوتے ہیں to and fro.	جانچ کرنا ہے۔ Proves, tests. (محص) یمحص	سکیا۔ Oppressed by its gravity. (اد) یؤدلا شدت سے تنگ ہونا
(یعوق) یعوق ایک بت کا نام	برباد کرتا ہے۔ Deprives, destroys. (محق) یمحق	دن۔ A day. (یوم) یوم
باز رکھتا ہے۔ رکھتا ہے۔ Hinders, keeps back. (یعوق) یعوق	دہنی طرف۔ The right hand side. (یمن) یمین	آج کے دن۔ To-day. (یومئذ) یومئذ
ہم چھوڑتے ہیں۔ Are leaving out. (عذر) یغادر	دہنی طرف کے لوگ۔ The companions of the right hand. (اصحاب الیمین) اصحاب الیمین	دو دن۔ Two days. (یومین) یومین
نہیں چھوڑتا۔ Does not leave. (لا یغادر) لا یغادر	مبارک برکت۔ The right hand, blessing. (میدنة) میدنة	یونس۔ Jonah. (یونس) یونس
(یغوث) یغوث ایک بت کا نام	چشے۔ Fountains, springs. (نبیح) ینابیح	سوتے ہیں۔ Are sleeping. (ہجج) یہججون
بہتریت۔ Jewish. (یہودی) یہودی	پانا۔ حاصل کرنا۔ To obtain, to get. (نال) ینالہم	یہودی۔ Will be made to go hastily. (ہرع) یہرعون
سجدة رکھتے ہیں	پیکر بیہودہ بکتے ہیں۔ Are inebriated from drink. (نزف) ینزفون	دوڑائے جائنگے
(یقطين) یقطين گدو کا درخت	ریپنس، آواز کرنا ہے۔ Ripeness, the act of coming to maturity. (ینع) ینع	یہودی۔ Jews. (ہود) یہود
یقین کرتے ہیں۔ Certain, certainly. (یقن) یقین	آواز کرتا ہے۔ Calls aloud. (نعق) ینعق	یہودی۔ Jewish. (یہودی) یہودی
یقین کرتے ہیں۔ Are believing. (یوقنون) یوقنون	آواز کرتا ہے۔ Calls aloud. (نعق) ینعق	خشکھونا۔ To wither. (ہاج) یہاج
تم یقین کرتے ہو۔ You are believing. (توقنون) توقنون	سر ہلاتے ہیں۔ Are wagging the head. (نغض) ینغضون	ناامید ہوا۔ Was despaired. (یتس) یتس
محفوظ رکھتا ہے۔ Keeps safe. (کسا) یکسا		ناامید ہوئے۔ Were despaired. (یتس) یتس
		ناامید ہوئے۔ Were hopeless. (یتسوا) یتسوا
		ناامید ہوتا ہے۔ Becomes desperate. (یتس) یتس
		ناامید۔ One who is desperate. (یوس) یوس

APPENDIX A.

In this list all roots employed in the Qurán are arranged in an alphabetical order. $\text{اب} 1.3$ means that any derivative derived from the verbal root اب used in the Qurán will be found on page 1. Column 3, and where s follows the root, it means that the derivative will be found in the supplement i. e. in Appendix B.

(الف)	عَدَّ 3.3 اَن	عَدَّ 5.1 اَبِي	عَدَّ 102.2 اَلِي	عَدَّ 8.3 اَوْ	عَدَّ 14.2 بَار	عَدَّ 1.3 بِرَح	عَدَّ 12.1 بَطْن	عَدَّ 13.2 بَلِي	عَدَّ 15.3 تَجَر
عَدَّ 1.3 اَب	عَدَّ 1.1 اَدَم	عَدَّ s اَشْر	عَدَّ 7.1 اَم	عَدَّ 9.2 اَبَّ	عَدَّ 9.2 بَاس	عَدَّ 11.1 بِرَد	عَدَّ 12.1 بَعَث	عَدَّ 13.3 بَلِي	عَدَّ 15.3 تَحَّت
عَدَّ 1.3 اَبَد	عَدَّ 3.3 اَدِي	عَدَّ 88.2 اَصَد	عَدَّ 7.1 اَم	عَدَّ 103.2 اَن	عَدَّ 1.3 بِتْر	عَدَّ 11.1 بِرَز	عَدَّ 12.2 بَعَثَر	عَدَّ s بِن	عَدَّ 15.3 تَرَب
عَدَّ 1.3 اَبْرِيْق	عَدَّ 4.1 اَن	عَدَّ 5.1 اَصْر	عَدَّ 8.1 اَمَّت	عَدَّ 6.3 اَل	عَدَّ 102.1 بَدَكَ	عَدَّ 11.1 بِرَزَخ	عَدَّ 12.2 بَعْد	عَدَّ 13.3 بَنَّا	عَدَّ 1.3 تَرَف
عَدَّ 1.3 اَبْق	عَدَّ 4.1 اَذَن	عَدَّ 1.1 اَصْل	عَدَّ 8.1 اَلْمَد	عَدَّ 9.1 اَل	عَدَّ 15.1 بَدَل	عَدَّ 1.3 بِرِص	عَدَّ 12.2 بَعْض	عَدَّ 14.1 بَعَث	عَدَّ 16.1 تَرَكَ
عَدَّ 1.3 اَبَل	عَدَّ 4.2 اَذِي	عَدَّ 5.3 اَف	عَدَّ 7.3 اَمْر	عَدَّ 9.1 اَوْلَا	عَدَّ 10.2 بَث	عَدَّ 11.1 بِرَق	عَدَّ 12.2 بَعْل	عَدَّ 14.2 بَهَج	عَدَّ 16.2 تَسَّج
عَدَّ 1.2 اَب	عَدَّ 4.2 اَرَب	عَدَّ 1.1 اَفَق	عَدَّ 8.1 اَمْس	عَدَّ 9.1 اَوْلَاذِك	عَدَّ 8.2 بَجَس	عَدَّ 11.1 بِرَك	عَدَّ 13.1 بَغَت	عَدَّ 89.2 بِهَل	عَدَّ 16.2 تَسْتَمِمْ
عَدَّ 1.2 اَبِي	عَدَّ 4.2 اَرِض	عَدَّ 5.3 اَفَك	عَدَّ 8.1 اَمَل	عَدَّ s تَاوِيْل	عَدَّ 102.1 بَحَث	عَدَّ 1.3 بِرَم	عَدَّ 12.3 بَعْض	عَدَّ 14.2 بِهَم	عَدَّ 16.2 تَسْتَمِمْ
عَدَّ 2.1 اَتَى	عَدَّ 4.2 اَرَك	عَدَّ 6.1 اَفَل	عَدَّ 8.1 اَمَل	عَدَّ 6.3 اَلن	عَدَّ 10.2 اَلْبَحْر	عَدَّ 11.1 بِرَهَان	عَدَّ 13.1 بَغَل	عَدَّ 9.1 بَاءَ	عَدَّ 16.2 تَعَسَّ
عَدَّ 2.2 اَث	عَدَّ 4.3 اَرَم	عَدَّ 7.2 اَمَن	عَدَّ 7.2 اَمَن	عَدَّ 8.3 اَه	عَدَّ 10.2 بَحَس	عَدَّ 10.1 بِرِغ	عَدَّ 12.3 بَغِي	عَدَّ 9.3 بَابَ	عَدَّ 16.3 تَقَّت
عَدَّ 1.1 اَثْر	عَدَّ 6.2 اَكَل	عَدَّ 8.1 اَمَا	عَدَّ 8.1 اَمَا	عَدَّ s بَاخِج	عَدَّ 9.3 بَاخِج	عَدَّ s بِس	عَدَّ 13.1 بَقْر	عَدَّ 14.1 بَارَ	عَدَّ s تَقَن
عَدَّ 2.3 اَذَل	عَدَّ 1.1 اَل	عَدَّ 8.1 اَمَان	عَدَّ 8.1 اَمَان	عَدَّ 1.2 اَوِي	عَدَّ 10.2 بَاخَل	عَدَّ 11.2 بِسْر	عَدَّ 13.1 بَقِع	عَدَّ s بَالَ	عَدَّ s تَقِي
عَدَّ 2.2 اَثْم	عَدَّ 1.1 اَل	عَدَّ 8.2 اَمْت	عَدَّ 8.2 اَمْت	عَدَّ 1.2 اَي	عَدَّ 9.3 بَدَا	عَدَّ 11.1 بِسْط	عَدَّ 13.1 بَقَل	عَدَّ 14.2 بَاتَ	عَدَّ s تَل
عَدَّ 2.3 اَج	عَدَّ 4.3 اَزِف	عَدَّ 8.2 اَمْتِي	عَدَّ 8.2 اَمْتِي	عَدَّ 9.3 اَيَه	عَدَّ 10.1 بِسْق	عَدَّ 10.1 بِسْق	عَدَّ 13.1 بَقِي	عَدَّ 15.2 بَادَ	عَدَّ 33.2 تَلَك
عَدَّ 2.3 اَجْر	عَدَّ 5.1 اَسَس	عَدَّ 1.1 اَلَا	عَدَّ 1.2 اَنْس	عَدَّ 9.2 اَيَا	عَدَّ 1.3 بِسَل	عَدَّ 11.2 بِشْر	عَدَّ 13.1 بَكَّة	عَدَّ 14.3 بَاعَ	عَدَّ 16.3 تَلَا
عَدَّ 2.3 اَجَل	عَدَّ 11.1 اَسْتَبْرَق	عَدَّ 6.3 اَلَّت	عَدَّ 8.2 اَنْثِي	عَدَّ 9.3 اَيَا	عَدَّ 10.2 بَدْر	عَدَّ 11.3 بِصْر	عَدَّ 13.1 بَكَرَ	عَدَّ 14.2 بَانَ	عَدَّ 17.1 نَم
عَدَّ 3.1 اَحَد	عَدَّ 4.3 اَمْر	عَدَّ 7.1 اَلْف	عَدَّ 1.2 اَنْس	عَدَّ 10.3 بَدَع	عَدَّ 9.3 اَيَا	عَدَّ 12.1 بَصَل	عَدَّ 13.1 بَكِم	عَدَّ 14.3 بَاعَ	عَدَّ 17.3 اَلْقُدْر
عَدَّ 3.1 اَخَذ	عَدَّ 1.1 اَسْف	عَدَّ 7.1 اَلْم	عَدَّ 1.2 اَنْس	عَدَّ 10.3 بَدَل	عَدَّ 9.3 اَيَا	عَدَّ 12.1 بَصَل	عَدَّ 13.1 بَكِي	عَدَّ 14.2 بَانَ	عَدَّ 14.1 تَابَ
عَدَّ 3.2 اَخْر	عَدَّ 1.1 اَسْن	عَدَّ 6.3 اَلِه	عَدَّ 8.2 اَنْام	عَدَّ 10.2 بَدَا	عَدَّ 10.2 بَدَا	عَدَّ 12.1 بَضَح	عَدَّ 13.2 بَل	عَدَّ 14.3 اَلْتَابُوت	عَدَّ 15.1 تَابَ
عَدَّ 3.1 اَخ	عَدَّ 5.1 اَسَا	عَدَّ 7.1 اَلْم	عَدَّ 1.1 اَنْي	عَدَّ 15.1 بَدْر	عَدَّ 15.1 بَدْر	عَدَّ 102.2 بَطُو	عَدَّ 13.3 بَدَّ	عَدَّ 15.1 تَابَر	عَدَّ 15.1 تَابَر
			عَدَّ 8.3 اَنْي	عَدَّ 10.3 بَر	عَدَّ 10.3 بَر	عَدَّ 12.1 بَطْر	عَدَّ 1.3 اَبْلَس	عَدَّ 15.1 تَابَع	عَدَّ 17.3 اَلْتَدْرَاة
			عَدَّ 9.2 اَهْل	عَدَّ 10.1 بَرَأ	عَدَّ 10.1 بَرَأ	عَدَّ 12.1 بَطَش	عَدَّ s بَلِج	عَدَّ 15.1 تَابَع	عَدَّ 17.3 تَيْن
				عَدَّ 9.3 بَابِل	عَدَّ 11.1 بَرَج	عَدَّ 12.1 بَطَل	عَدَّ 13.2 بَلِغ	عَدَّ 15.2 تَابَرَا	عَدَّ 102.23 تَاة

(ث)	جث 2.3	جلد 20.1	(ح)	حزن 23.1	حلف 25.3	حاف 102.2	خشع 28.3	خلق 88.1	دس 32
ثابت 17.1	جثم 18.2	جلس 85.1	حب 21.3	حس 23.3	حلق 15.3	حاق 21.2	حشی 28.3	خاز 30.3	دسر 32.2
ثابت 17.3	جذا 18.3	جلا 20.1	حبر 3.1	حسب 23.2	حلقم 25.3	حان 26.3	حص 27.1	خاض 29.1	دسا 32.2
ثابت 17.3	جحد 19.1	جم 20.2	حبس 15.3	حسد 24.1	حلم 25.3	(خ)	خصف 102.2	خاف 30.3	دع 32.2
ثابت 17.3	جحم 19.1	جمع 102.2	حبط 22.1	حسر 23.3	حلی 25.3	خبا 27.2	خصم 28.3	خال 27.1	دعا 32.1
ثابت 2.3	جد 19.1	جمد 19.1	حبك 22.1	حسم 24.1	حم 26.1	خبث 4.1	خضد 85.2	خان 31.2	دفاع 32.1
ثابت 15.3	جدث 2.3	جمع 20.2	حبل 22.1	حسن 23.3	حما 25.3	خبث 3.1	خضر 29.1	خوي 27.2	دفع 32.3
ثابت 17.3	جدر 19.1	جمل 20.2	حدم 22.1	حشر 24.1	حمد 26.1	خبر 27.2	خضج 27.1	خاب 27.1	دفع 31.3
ثابت 18.1	جدل 19.1	جن 20.3	حتي 22.1	ححصص 24.1	حمر 25.3	خبز 27.2	خط 15.3	خار 31.2	دك 33.1
ثابت 17.2	جدد 19.2	جنب 20.3	حت 22.1	حصب 21.2	حمل 25.3	خبز s	خطي 29.1	خايط 31.3	دكر see دكر
ثابت 17.2	جدع 19.2	جنح 20.3	حج 22.1	حصد 24.1	حما 21.3	خبط 102.1	خطب 27.1	خال 31.3	دل 33.1
ثابت 18.1	جذا 19.2	جند 20.3	حج 22.1	حصر 24.1	حن 26.1	خبل 27.2	خطب 27.1	خام s	دلک s
ثابت 18.2	جدر 102.2	جنف 21.1	حجر 22.2	حصل 24.1	حنت 26.2	خبا 27.2	خطف 29.1	(د)	دلا 33.1
ثابت 17.3	جرح 19.2	جنى 20.3	حجر 22.2	حصن 24.2	حنجر 26.1	ختر 27.2	خطا 29.2	داب 31.2	دمدم 33
ثابت 18.2	جرد 19.2	21.1	حجز 21.1	حصي 3.1	حند 26.2	ختم 27.2	خف 29.2	دب 31.1	دمر 33.2
ثابت 18.2	جرز 19.2	21.1	حد 21.1	حضي 15.3	حنف 26.2	خد 3.2 27.2	خفت 15.3	دبر 31.2	دمع 33.2
ثابت 18.2	جرع 102.1	جهد 21.2	حدب 22.2	حضر 24.2	حنك 3.1	خدع 27.1	خفض 27.1	دثر s	دمغ 102
ثابت 17.3	جرب 19.2	جهر 21.2	حدث 22.2	حط 24.3	حنا 3.2	خدن 3.2	خفا 29.2	دثر s	دم 33.2
ثابت 17.1	جرم 19.2	جهر 21.3	حدق 22.2	حطب 24.3	حنا 3.2	خدل 27.2	خل 30.3	دحر 31.3	دم 33.2
ثابت 18.3	جري 19.3	جهل 21.3	حذر 22.2	حطم 24.3	حنا 3.2	خدر 27.2	خلد 30.3	دحص 31.3	دينار 33
ثابت 1.1	جزع 19.3	جهنم 21.2	حذر 22.2	حظ 24.3	حنا 3.2	خر 27.2	خاص 29.3	دحا 31.3	دنا 33.2
ثابت 17.2	جزا 19.3	جر 21.1	حذو 22.3	حظا 24.3	حنا 3.2	خرب 27.3	خايط 39.3	دخر 31.3	دهر 33.3
ثابت 18.3	جس 15.3	جرب 23.1	حذو s	حظر 85.2	حنا 3.2	خرج 27.3	خالع 3.3	دخل 32.1	دهق 33.3
(ج)	جسد 19.3	حرج 23.1	حرف 21.2	حرف 21.2	حاش 21.2	خشب 28.3	خلف 29.3	دخن 32.1	دهم 85.3
جس 19.3	جسم 19.3	حرد 23.1	حرف 24.3	حرف 24.3	حاط 2.3	خردل 28.1	خلق 30.2	در 32.2	دهن 33.3
جس 20.1	جعل 20.1	حرس 23.1	حرف 24.3	حرف 24.3	حوي 26.2	خرص 27.3	خلا 29.3	درا 3.3	دهي 4.1
جفا 20.1	جفا 20.1	حرض 23.1	حرف 24.3	حرف 24.3	حى 26.2	خرطم 28.1	خمد 27.2	درج 32.2	داود 31.1
جفن 20.1	جفن 20.1	حرف 23.1	حرف 25.1	حرف 25.1	حيث 26.3	خرق 28.2	خمر 30.3	91 1	دار 3.1
جفا 15.2	جفا 15.2	حرف 23.1	حرف 25.1	حرف 25.1	حاد 15.3	خرن 28.2	خمس 30.2	درس 32.2	دال 33.3
جل 20.1	جل 20.1	حرق 23.1	حرف 25.1	حرف 25.1	حار 26.3	خري 28.2	خمص	درک 32.2	دام 31.1
جلب 2.3	جلب 2.3	حرك 15.3	حرف 25.1	حرف 25.1	حاز 85.1	خسا 27.1	خمت 30.3	درهم 32.2	دان 33.2
جلدب 20.1	جلدب 20.1	حرم 22.3	حرف 25.1	حرف 25.1	حاص 85.2	خسر 28.2	خنزير 30.3	درري 3.3	دان 33.3
جالوت 18.1	جالوت 18.1	حزب 23.1	حرف 25.2	حرف 25.2	حاص 85.2	خسف 28.3	خنس 30.3		

33-1	36-2 راص	35-2 رسا	29-2 ركن	40-2 زخرف	41-3 زان	43-3 سر	45-2 سكت	42-2 سوا	48 شد
33-3	16-1 راص	38-1 رشد	39-2 رم	40-2 زرب	(س)	42-1 سرب	45-1 سكر	46-2 ساء	48 شر
34-3	35-1 ربط	88-1 رص	39-2 رمح	40-2 زرع	47-1 سال	44-1 سربل	45-1 سكرن	41-1 ساب	48 شرب
34-1	35-1 ربع	38-1 رصد	39-2 رمد	40-2 زرق	16-1 سلم	44-1 سرج	45-1 سل	42-1 ساحه	48 شرح
85-3	36-1 ربا	38-1 رضع	39-2 رمز	16-1 زرا	42-2 سب	44-1 سرح	45-2 سلسل	42-1 سان	48 شرد
34-1	رتع	38-2 رضى	39-2 رمض	40-3 زعم	42-2 سبت	44-1 سرد	سب	46-3 سار	48 شردمة
34-1	36-2 رتق	38-2 رطب	39-2 رومان	102-2 زف	42-2 سبت	س سرتق	س سلخ	47-1 ساط	5-1 شرط
15-3	36-2 رتل	38-2 رعب	39-2 رمي	40-3 زفر	42-2 سلخ	44-1 سرع	8-2 سلخ	42-1 ساع	48 شرع
4-1	36-2 رج	38-2 رعد	39-2 رهب	40-3 زقم	4-3 سبط	5-1 سرف	45-2 سلسبيل	46-3	48 شرق
34-1	36-2 رجز	35-1 رعي	39-3 رهط	40-3 زكى	42-3 سبع	44-1 سرق	45-2 سلط	41-2 ساغ	48 شرك
34-1	36-3 رجس	38-2 رغب	39-3 رهق	41-2 زل	42-1 سبع	44-1 سرمد	45-2 سلف	47-1 ساف	48 شرا
s	36-3 رجح	38-3 رغد	39-3 رهن	زترل	42-3 سبق	44-2 سطح	45-2 سلق	41-3 ساق	46-3
85-3	36-3 رجف	88-1 رغم	39-3 رها	41-1 زلف	42-3 سبل	4-3 سطر	45-2 سلگ	47-1 سال	47-1 شطا
4-2	36-2 رجل	38-3 رفت	39-2 راح	41-1 زلق	42-2 سبا	102-3 سطا	45-2 سلم	47-3 سام	49-1 شطر
34-1	36-3 رجم	38-3 رفت	35-2 راد	102-2	42-3 ست	44-2 سعد	45-3 سلا	46-3 سوي	50-3 طشن
34-3	4-2 رجا	38-3 رقد	39-3 راض	4-3 زام	42-3 ستر	44-2 سجد	45-3 سم	41-1 ساح	49 شعب
34-3	37-1 رحب	38-3 رقد	39-3 راع	41-1 زمر	43-1 سجد	44-2 سعر	42-1 سمه	47-1 سار	49-1 شعر
33-1	37-1 رحيق	38-3 رفرف	35-2 راع	86-2 زمل	43-1 سجر	44-2 سعي	42-1 سمير	47-3 سال	s شعل
4-3	37-1 رحل	38-3 رفح	39-3 رام	41-1 زهبر	43-1 سجل	56-3 سغب	46-1 سمع	47-3 ساء	49 شغف
34-3	37-1 رحم	38-3 رفق	40-1 راب	41-1 زنجيل	43-1 سجن	86-2 سفح	46-2 سمك	47-3 سينين	49 شغل
34-3	37-1 رخي	38-3 رقب	40-3 راش	41-1 زني	43-2 سجي	44-2 سفر	46-2 سمن	(ش)	49-2 شفغ
15-3	37-2 رد	39-1 رقد	35-2 ران	40-1 زهد	43-2 سحب	44-3 سفك	45-3 سما	86-3 شام	49-2 شفا
4-3	37-2 ردا	39-1 رقم	(ز)	41-3 زهر	43-2 ساحت	16-2	46-2 سن	48-1 شان	49-2 شق
5-3	37-2 ردف	39-1 رقي	40-2 زيد	41-3 زهق	43-2 ساهر	42-1 سفل	46-2 سبل	48-1 شبهه	49-3 شقا
33-3	37-2 ردف	39-1 ركب	40-2 زبر	41-2 زاج	43-2 ساقن	44-2 سفن	86-3 سند	48-1 شت	49-3 شك
33-2	37-2 ردم	39-3 ركذ	40-2 زين	40-1 زاد	s ساحل	44-2 سفه	46-2 سندس	48-1 شتا	49-3 شكر
4-2	16-1 ردي	39-3 ركز	40-2 زج	41-2 زار	43-2 ساخر	44-3 سقر	46-2 سنه	48-1 شجر	85-1 شكس
(د)	4-2 رذل	39-2 ركز	40-2 زج	41-2 زال	43-3 سخط	44-3 سقط	46-2 سنا	48-1 شح	47-3 شكل
35-1	37-3 رزق	4-2 ركس	40-2 زجر	41-3 زات	43-3 سد	45-1 سفق	46-2 سنا	48-1 شحم	5-1 شكا
35-1	37-3 رس	4-2 ركض	زجا	40-1 زان	43-3 سدر	45-1 سقم	42-2 سپر	48-1 شحن	10-2 شميت
35-3	35-2 رسغ	39-2 ركح	40-2 زحج	41-3 زاغ	42-3 سدس	44-3 سقي	47-3 سهل	s شحن	
36-2	37-3 رسل	39-2 ركم	40-2 زحف	41-2 زال	43-3 سدا	سكب	42-2 سپم	47-2 شخص	

47.3	50.2	53.2	54.3	57.1	58.2	5.2	س عطل	65.2	66.2
5.1	51.2	53.2	55.1	57.1	58.2	61.2	عطا	عاج	غسق
50.1	51.2	53.2	55.1	57.1	58.3	61.2	عظا	عاد	غسل
50.1	51.2	53.3	5.2	102.3	(ع)	عرض	عظم	65.2	غشي
50.1	51.3	50.3	55.2	56.2	عبا	عرف	عق	عاد	غص
50.1	51.3	53.3	55.2	57.1	59.3	61.3	عقا	عار	غصب
50.1	51.3	53.3	5.2	57.2	عبد	61.3	عقب	عاق	غص
50.3	16.2	53.2	54.1	57.2	59.2	61.3	عقد	عال	غصب
50.3	52.1	53.3	55.3	57.1	59.1	61.1	عقر	عام	غش
50.3	52.2	53.3	55.3	56.2	59.3	61.3	عقل	عان	غطا
50.3	52.2	53.3	55.3	102.3	عبر	102.3	63.2	عاي	غطا
50.1	52.2	54.1	102.3	57.2	عبر	عزر	عقم	عاب	غفر
50.1	52.2	54.1	55.3	57.2	عقب	عزل	عكف	عاد	غفل
50.1	52.2	54.1	55.3	57.2	عقد	عزل	علق	عار	غفل
50.1	52.2	54.1	55.3	57.2	عقد	عزم	علم	عاس	غلب
50.1	52.2	54.1	55.3	57.2	عقد	عز	علم	عاش	غلاظ
50.1	52.2	54.1	55.3	57.2	عقد	عز	علم	عاش	غلاف
47.1	52.2	54.1	55.3	57.2	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
50.3	52.3	54.1	55.3	57.3	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
50.3	16.2	54.1	55.3	56.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
50.3	52.3	54.3	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
48.1	52.3	54.3	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
50.3	52.3	54.3	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
(ص)	52.3	54.3	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
50.3	52.3	54.3	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
50.1	5.1	54.1	56.1	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
51.1	53.1	54.1	56.1	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
51.1	53.1	54.1	56.1	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
51.1	53.1	54.1	56.1	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
51.2	52.3	54.1	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
51.2	53.1	54.1	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
50.1	53.1	54.1	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
51.2	53.1	54.1	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
51.2	53.1	54.1	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
50.1	53.1	54.1	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف
51.2	53.1	54.1	56.3	55.1	عقد	عزر	علم	عاش	غلاف

68.2	70.2 فرعون	71.3 فلق	73.3 قدج	103.2 قض	6.1 قات	80.3 كسل	6.3 كاب	82.3 لذ	7.1 لهم
68.3	70.2 فرغ	71.3 فلک	73.3 قدر	75.3 قضب	77.1 قاس	80.3 كسا	78.1 كاد	82.1 لرب	84.2 لبا
65.2	69.3 فرق	71.3 فلان	73.1 قدس	75.3 قضبي	78.2 قاع	80.3 كشط	82.2 ككار	82.3 لزم	84.1 لو
68.3	68.1 فرة	6.1 فن	74.1 قدم	75.3 قط	77.1 قال	80.3 كشف	82.2 كوكب	83.1 لسن	82.1 لات
68.3	70.2 فري	16.3 فند	6.1 قدا	76.1 قطر	77.2 قلم	78.1 كظم	78.1 كان	83.1 لطف	84.1 لاح
(ف)	102.2 فز	86.2 فني	74.1 قذاف	76.1 قطع	77.1 قوي	80.3 كعب	16.3 كوي	83.1 لطي	4.2 لاذ
71.3	70.3 فرع	72.3 فهم	74.2 قر	76.1 قطف	78.3 قاض	81.1 كف	82.3 كي	83.1 لعب	84.2 لاط
68.1	5.3 فسح	71.2 فات	74.2 قرا	76.2 قعد	(ك)	81.3 كفا	82.2 كاد	83.1 لعل	84.2 لام
72.3	70.3 فسد	72.1 فاج	74.2 قرب	88.1 قعر	78.1 كاس	81.1 كفت	82.3 كاف	83.1 لعن	84.2 لان
68.1	16.3 فسر	72.1 فار	75.1 قرح	6.1 قفل	78.3 كاس	81.1 كفر	82.3 كال	83.2 لغب	84.3 لوي
68.2	70.8 فسق	72.2 فاز	75.1 قرد	76.2 قفا	79.1 كب	81.2 كفل	82.3 كان	83.1 لغا	84.3 لات
68.3	71.1 فسل	6.1 فوض	75.1 قرش	76.2 ققل	79.1 كبت	81.2 كفي	(ل)	83.2 لف	84.3 ليس
68.3	5.3 فصح	71.3 فاق	75.1 قرض	76.2 قل	81.1 كبد	81.3 كل	82.1 لا	17.1 لفت	84.3 ليل
69.1	71.1 فصل	72.2 فام	قرطس	76.3 قلب	81.1 كبر	103.1 كلا	87.3 لاي	17.1 لفتح	84.3 لالا
68.3	71.1 فص	63.2 فاه	71.1 قرع	76.2 قلد	81.1 ككب	81.3 كلاب	84.2 لا لا	103.1 لفظ	84.1 لن
69.1	71.1 فصم	72.3 في	6.1 قرف	6.1 قلع	79.1 ككب	16.3 كاح	6.3 اب	83.2 لفا	(م)
69.1	71.1 فص	68.1 فاء	74.3 قرن	76.3 قلم	79.1 كتب	78.1	82.2 لبث	83.2 لقب	84.1 ما
69.2	16.3 فصح	5.3 فاص	75.1 قرا	76.3 قلم	79.2 كتم	95.1 كلف	82.2 لبث	84.2 لفتح	84.1 ما
72.1	71.1 فصل	72.3 فال	75.2 قس	87.1 قمع	79.2 كذب	81.3 كلم	82.2 لبد	6.3 لفظ	84.1 ماي
69.2	5.3 فضا	(ق)	75.2 قسر	76.3 قمر	79.2 كذر	82.1 كم	82.1 لبس	17.1 لقف	84.3 مفتح
69.2	71.2 فطر	87.1 قبح	75.2 قسط	76.3 قمطر	79.2 كدح	82.1 كما	82.2 لبن	83.2 لقم	85.1 متن
69.2	71.2 فظ	72.2 قبر	75.1 قسطاس	87.1 قمع	8.3 كدر	82.1 كم	82.2 لجن	83.2 لقي	85.1 متا
69.3	71.2 فعل	72.2 قيس	75.1 قسم	76.3 قمل	6.2 كدا	6.2 كم	82.2 لرج	83.3 لكن	8.5.1 مثل
69.3	16.3 فقذ	72.2 قبس	75.2 قسا	72.1 قنت	79.2 كذب	78.1 كمل	87.2 لجا	83.3 لقم	84.1 ماجوج
69.3	68.1 فقر	72.2 قبض	16.3 اقشعر	77.1 قنط	80.1 كز	82.3 كمة	6.3 لحد	83.3 لقم	85.2 مجد
70.1	68.1 فقح	72.3 قبل	75.2 قص	76.3 قنطر	80.1 كرب	6.2 كن	6.3 لحق	83.3 لقم	85.1 مجوس
70.1	16.3 فقة	73.2 قدر	72.1 قصد	72.1 قنح	80.1 كرس	82.2 كند	82.3 لحم	83.3 لقم	103.1 محص
70.1	71.3 فك	73.1 قتل	75.3 قصر	77.1 قنذ	80.1 كرم	82.1 كذر	82.3 لحن	83.3 لقم	103.1 محق
69.3	71.3 فكو	73.2 قناء	72.1 قصف	6.1 قذي	80.1 كره	82.2 كذس	82.3 لحي	84.1 لمس	85.2 محل
70.2	68.1 فكه	6.1 قحم	8.3 قضم	72.2 قهر	80.2 كسد	82.2 كهف	82.3 لد	84.1 لن	8.1 مكن
70.2	6.1 فليح	73.2 قذ	75.2 قضا	72.1 قباب	80.3 كسف	82.2 كهل	82.3 لدن	84.2 لوب	85.2 محبا
70.2	71.3	73.2 قذ	75.2 قضا	72.1 قباب	80.3 كسف	78.3 كهن	82.2 لدي	103.1 لهث	88.2 منخر

85.2	87.1 مکت	89.2 ذبت	91.2 نسک	93.3 نفس	89.1 ذاق	101.2 هرج	88.2 دت	97.1 وسوس	99.3 لد
85.3	87.2 مکر	89.2 ذبذ	91.2 نسل	93.3 نفشی	101.2 ذال	101.1 هاک	95.1 وبل	50.3 وشي	99.2 وای
85.3	89.1 میکال	17.3 ذبز	91.2 نسی	93.3 نفع	95.1 نام	101.2 هلم	8.3 وتد	95.3 وصب	17.3 وئی
85.3	87.2 مکن	102.2 ذبط	91.3 نشا	94.1 نفق	95.2 نون	101.2 هم	95.3 وتر	97.3 وصد	10 وهب
84.2	87.1 مکا	103.2 ذبح	91.3 نشر	89.1 نفل	95.2 نوی	101.2 هما	96.1 وتن	97.2 وشف	100 وهج
84.2	87.2 مل	89.3 ذتق	92.1 نشتر	103.2 نفا	95.2 ذال	101.2 هم	95.1 وثق	97.2 وصل	100 وهن
86.1	87.2 ملا	8.2 نثر	92.1 نشط	94.1 نقب	(ه)	100.1 همد	8.3 وثن	97.3 وصي	95.3 وهي
86.1	87.2 ملح	90.1 نجد	92.2 نصب	8.3 نقد	100.1 ها	88.2 همر	96.1 وحب	97.3 وضع	100 وي
86.1	8.1 ملق	90.1 نجس	8.3 نصت	89.1 نقر	9.1 هبط	101.2 همز	96.1 وجد	88.3 وذن	100 ويل
86.1	87.2 ملک	8.2 نجل	92.3 نصح	94.1 نقص	100.1 هبا	101.2 همس	8.3 وجس	97.3 وطي	(ي)
86.1	87.2 ملا	90.1 نجم	92.1 نصر	94.1 نقض	100.1 هنا	100.1 هامان	95.1 وجف	97.3 وطر	102.1 يا
86.1	87.3 من	89.3 نجبا	92.3 نصف	94.2 نقع	17.3 هجد	88.3 هيمن	96.1 وجل	88.2 وطن	103 يئس
86.1	87.3 من	90.1 ذجب	89.1 نصا	8.2 نقم	100.1 هجر	101.2 هن	96.1 وجهه	98.1 وعد	102 يقم
86.2	87.3 من	17.3 نحت	92.3 نضج	89.1 نكب	103.3 هجع	101.3 هنا	96.2 وجد	98.1 وعظ	10 يثرب
86.2	88.1 منع	8.2 نحر	92.3 نضغ	94.2 نكح	100.2 هد	101.2 هنالک	96.2 وحش	97.3 وعي	10 ياجوج
8.1	88.1 منى	90.1 نحس	92.3 نضد	94.2 نكد	100.2 هدهد	101.3 ههنا	96.2 وحي	98.2 وند	10 يجهوم
86.2	88.3 مهذ	90.1 نكل	92.3 نصر	94.2 نكر	100.2 هدي	101.3 هو	96.2 ود	88.3 ودر	10 يدي
86.2	88.3 مهل	90.1 نحن	92.3 نطح	94.3 نكس	100.3 هذا	101.3 هان	96.3 ودع	103.2 وفض	يس
86.2	88.3 مهمما	90.1 نخر	92.3 نطف	94.3 نكص	100.1 هار	101.3 هار	96.3 وندق	98.1 وبق	102 يسر
86.3	88.3 مهن	90.1 نخل	8.3 نطق	5.1 نكف	101.3 هولاء	101.3 هان	95.2 ودي	98.2 وني	يسج
17.2	88.2 مات	8.2 ند	92.3 نظر	94.2 نكل	101.3 هان	101.3 هوي	96.3 ودر	98.3 وقب	يسف
8.1	88.3 ماج	90.2 ندم	93.1 نعيم	95.1 نيم	101.3 هوي	102.1 هي	95.2 ورت	98.3 وقت	يسج و و و
86.3	88.3 ماز	60.1 ندا	93.1 نعس	95.1 نمرق	102.1 هزي	102.2 هاء	96.3 ورد	98.3 وقد	يسج و و و
86.3	88.3 موسي	90.2 ندر	103.2 نعتق	95.1 نمل	101.1 هزي	102.1 هيت	97.1 ورت	88.3 وقد	يسج و و و
87.1	84.3 مال	90.3 نزع	93.1 نعل	88.2 نهج	100.3 هزل	103.3 هاج	97.1 وزر	98.3 وقر	يسج و و و
87.1	84.1 صاه	90.3 نذغ	93.1 نغم	95.2 نهى	100.3 هرم	102.3 هال	9.1 وزع	98.3 ورف	يسج و و و
87.1	84.1 مان	103.2 نرف	103.2 نغض	17.3 ناء	9.1 هش	102.1 هام	97.1 وزن	98.3 وقف	يسج و و و
102.2	95.1 ماز	90.3 نزل	93.2 نفث	8.1 ناب	101.1 هشم	102.2 هيئات	97.1 وسط	99.1 وقي	يسج و و و
87.1	17.2 ماز	91.2 نسا	93.2 نفع	95.1 ناح	101.1 هضم	(و)	97.1 وسع	1.3 وكا	يسج و و و
87.1	89.2 مال	91.1 نساب	93.2 نفع	89.1 ناز	88.3 هطح	97.2 وستق	97.1 وكد	100.3 وكد	يسج و و و
84.2	(ن)	91.1 نسا	93.2 نفع	8.3 ناس	101.1 هكذا	88.3 وان	99.1 وكر	99.1 وكر	يسج و و و
8.1	89.1 فا	91.1 نسخ	93.2 نقد	17.3 ناش	9.2 هل	88.3 وال	99.1 وکل	103.1 وکلت	يسج و و و
87.1	89.1 ذای	91.1 نسر	8.3 نقد	88.1 ناص	101.1 هل	8.3 ودر	103.1 وکلت	99.3 ولج	يسج و و و
87.1	89.1 ذبا	91.1 نسف	93.3 نقر						يسج و و و

(الف)

گستاخ (اشر) Insolent, an insolent person.

مقررہ وقت (اقت) Fixed or assigned time.

تعبیر- (تاویل) Interpretation, secret.

شرح-معنی-راز

(ب)

بمس (بس) Shall be crumbled or dashed into pieces.

بسا

نکل جا-پی لے (بلع) Swallow up.

انگلیوں کی پوریں (بن) Tips of the fingers.

Heart, mind, thought, intention, خیال-ارادہ-دل (بال) Condition.

(ت)

مضبوط طور سے قائم کئے ہوئے (تقن) Firmly fixed.

God-fearing, devout, most pious. (تقی) اتقی

خدا ترس-پرہیزگار

Had laid (his son) prostrate on his face. (تل) اولادھا پچھاڑا

(ث)

تبط (تبط) Made or rendered slothful.

پست یا تھیلا کر دیا

(ح)

حرت (حرت) A field, cultivated ground, produce of the same, fruits of the earth, tillage.

کھیت-زمین کا حاصل-بوٹی ہوٹی زمین

(خ)

روتی (خبز) Bread.

شامیانے-تیرے (خام) Pavilions.

(د)

دثر (دثر) One who wraps himself up in a garment.

کپڑے میں لپٹا ہوا شخص

The declining of the sun (دلک) دلوک

زوال افتاب کا وقت

(ذ)

The act of scattering abroad. (ذرا) ذرو

پراگندہ کرنا

ذاریات (ذاریات) Women who scatter abroad (their offspring) عورتوں کا اولاد بڑھانا

(س)

ساحل (ساحل) Shore of a river or sea. سمندر

یا دریا کا کنارہ

Smoke which surrounds (سردق) سردق

and covers after the manner of a tent.

دھوان مثل سائبان کے چاروں طرف گھونا

Arms, weapons. (سلاح) ہتھیار-ارزاق

(ش)

Loaded, filled (a ship). (شحن) مشحون

جہاز سامان سے بھرا ہوا

To become shining. (شعل) اشتعل

(ص)

Fingers. (صبع) اصابع

Idols. (صنم) اصنام

Wool, fleece. (صاف) اصواف

(ط)

An instigation of the Devil. (طاف) طائف

دوسرے شیطان

(ع)

A side. (عطف) عطف

Leave without care. (عطل) عطل

بے پروائی سے چھوڑ رکھنا

Neglected. (معطل) معطل

(ق)

Paper. (قرطاس) قرطاس